

موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق

اس موضوع پر لکھی جانے والی
سب سے پہلی منفرد کتاب



مُصَنَّف:

شکبیر احمد عثمانی

تقاریض

حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب
حضرت مولانا مفتی عتیق احمد ستوی نقوی صاحب
حضرت مولانا مفتی یوسف ساجد صاحب مدظلہ

ناشر:

مَدَنی سِر حِل

سٹین کلف، ڈیونزبری، برطانیہ

• ﴿ علماء و عوام کے لئے ایک بیش بہا تحفہ ﴾ •

اس موضوع پر لکھی جانے والی سب سے پہلی منفرد کتاب

موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق

اس کتاب میں موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق کے
احکام پر تفصیلی و مدلل بحث کی گئی ہے

تقریظ

حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب
حضرت مولانا مفتی عتیق احمد بستی قاسمی صاحب
حضرت مولانا مفتی یوسف ساجد صاحب مدلم

مُصنّف

شبیر احمد عثمانی

(بائلی، برطانیہ)

ناشر

مکمل سیر حل

سٹین کف، ڈیونزبری، برطانیہ

0192412315 . 07783465233

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ نمبر
۱	انتساب	۳۵
	”موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق“ اہل علم کی نظر میں	۳۷
۲	تقریظ: حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ	۳۹
۳	تقریظ: حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب قاسمی، بستوی مدظلہ	۴۲
۴	تقریظ: حضرت مولانا مفتی یوسف ساچا صاحب دامت برکاتہم	۴۵
۵	تقریظ: حضرت مولانا عبد الرشید ربانی صاحب دامت برکاتہم	۴۶
۶	تقریظ: استاذ کرم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد علی صاحب مدظلہ	۴۸
۷	تقریظ: حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب زید مجدہ	۵۰
۸	تقریظ: حضرت مولانا مفتی ریاض محمد بنگرامی صاحب زید مجدہ	۵۴
۹	عرض مؤلف	۵۵
۱۰	ہدیہ تشکر و امتنان	۶۲
	موبائل فون - ایک تعارف	۶۹
۱۱	موبائل فون (Mobile Phone) کا موجد	۷۵
۱۲	ٹیکسٹ میسج (Text Message)	۷۶
۱۳	موبائل فون (Mobile Phone) کی تعریف	۷۸
۱۴	موبائل فون (Mobile Phone) کیسے کام کرتا ہے	۷۹

۸۰	لینڈ لائن (Land Line) کیا ہے؟	۱۵
۸۱	ٹیکسٹ میسج (Text Message) کا موجد	۱۶
۸۲	ٹیکسٹ میسج (Text Message) کیسے کام کرتا ہے	۱۷
۸۳	موبائل فون (Mobile Phone) اور ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعے نکاح	
۸۵	نکاح کی تعریف	۱۸
۸۵	نکاح کے معنی	۱۹
۸۵	نکاح کے شرعی معنی	۲۰
۸۶	اسلام کی نظر میں نکاح کی اہمیت	۲۱
۸۸	نکاح دو اشخاص میں محبت و مودت کا سبب ہے	۲۲
۸۸	رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نو جوانوں سے خطاب	۲۳
۸۹	نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے	۲۴
۸۹	نکاح فراخی رزق کا سبب ہے	۲۵
۹۰	نکاح نصف دین ہے	۲۶
۹۰	تکلف سے خالی نکاح بابرکت ہے	۲۷
۹۲	نکاح کے فوائد	۲۸
۹۳	ٹیلی فون (Telephone) یا موبائل فون (Mobile Phone) پر نکاح	۲۹
۹۶	الاستفتاء ٹیلی فون پر نکاح کا حکم کیا ہے؟	۳۰
۱۰۹	ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ ایجاب اور عورت کا گواہوں کی موجودگی میں قبول کرنا	۳۱

۱۱۰	شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) پر ایجاب اور بیوی کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ قبول کرنا	۳۲
۱۱۰	بیوی کا نکاح کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بغیر گواہوں کے قبول کرنا	۳۳
۱۱۰	وائس میل (Voice Mail) کے ذریعہ ایجاب	۳۴
۱۱۱	ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) کے ذریعہ ایجاب	۳۵
۱۱۲	ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ آمنے سامنے ایجاب و قبول کرنا	۳۶
۱۱۲	ایک ایس ایم ایس (S.M.S) میں ایجاب اور دوسرے میسج (Message) میں انشاء اللہ سے استثناء	۳۷
۱۱۳	مرد کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ ایجاب اور عورت کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ قبول کرنا	۳۸
۱۱۳	مرد کا عورت کو موبائل فون (Mobile Phone) پر ایجاب اور عورت کا مجلس میں قبول نہ کرنا	۳۹
۱۱۳	مذاق میں کیا گیا ایجاب کا ایس ایم ایس (S.M.S) قبول کرنا	۴۰
۱۱۴	ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ جبراً ایجاب کروانا	۴۱
۱۱۴	ایجاب و قبول کیلئے تین بار ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا ضروری نہیں	۴۲
۱۱۶	عورت کا ایجاب کو ایس ایم ایس (S.M.S) ڈرافٹ (Draft) میں محفوظ کرنا اور اس کو مجلس میں قبول نہ کرنا	۴۳

۴۴	عورت کا مرد کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ وکیل	۱۱۶
۴۵	وکیل بالزکاح کا ایس ایم ایس (S.M.S) میں نکاح کی نسبت	۱۱۷
۴۶	فصلی کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ نکاح	۱۱۸
۴۷	بالغ لڑکی لڑکے کا گواہوں کے بغیر ویڈیو کانفرنسنگ	۱۱۹
۴۸	ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران	۱۱۹
۴۹	موبائل فون (Mobile Phone) سے مخطوبہ کی تصویر لینا	۱۲۰
۵۰	مخطوبہ کو موبائل ویڈیو کانفرنسنگ	۱۲۱
۵۱	مگتیر کی تصویر کا وال پیپر (Wall Paper)	۱۲۱
۵۲	مگتیر سے ایس ایم ایس (S.M.S) یا موبائل فون	۱۲۲
۵۳	بیوی کی تصویر کا اسکرین سیور (Sacreen Saver) یا وال پیپر	۱۲۲

۱۲۳	۵۴ سٹارٹ اپ اسکرین (Screen Start Up) میں بیوی کی تصویر لگانا
۱۲۳	۵۵ موبائل فون کیمرہ (Mobile Camera) سے شادی کے موقع پر اپنی بیوی کی تصویر لینا
۱۲۴	۵۶ مسجد میں موبائل فون (Mobile Phone) سے نکاح کے موقع پر لوگوں کی ویڈیو (Video) بنانا
۱۲۴	۵۷ نکاح سے پہلے موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ ریکارڈ (Record) کیا گیا خطبہ نکاح سننا
۱۲۵	۵۸ موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ براہ راست خطبہ نکاح
۱۲۵	۵۹ موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ رلائو (Live) خطبہ نکاح سننے کا حکم
۱۲۶	۶۰ خطبہ نکاح کے دوران کال ریسیو (Call Receive) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کرنے کا حکم
۱۲۶	۶۱ بیوی سے موبائل فون (Mobile Phone) پر سیکس (Sex) سے متعلق باتیں کرنا
۱۲۷	۶۲ موبائل ویڈیو کانفرنسنگ (Mobile Video Confrencing) کے دوران شوہر کا بیوی کے جسم کو دیکھنا
۱۲۸	۶۳ ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ اعضاء مخصوصہ کی تصویر بھیجنا

۶۴	موبائل ویڈیو کانفرنسنگ (Mobile Video Conferencing)	۱۲۹
۶۵	عورت پر رخصتی کے وقت دلہن پر موبائل فون (Mobile Phone) میں ڈاؤن لوڈ (Download) کیا ہوا قرآن مجید کا سایہ کرنا	۱۳۰
۶۶	بیوی کا شوہر سے موبائل فون (Mobile Phone) یا موبائل کارڈ (Mobile Card) کا مطالبہ کرنا	۱۳۰
۶۷	بیوی کا موبائل فون (Mobile Phone) کا بل (Bill) شوہر کے ذمہ نہیں	۱۳۱
۶۸	غیر محرم سے موبائل ویڈیو کانفرنسنگ (Mobile Video Conferencing) کے ذریعہ بات یا ایس ایم ایس (S.M.S) کرنے والی عورت کا نفقہ ساقط نہیں ہوتا	۱۳۱
۶۹	شادی کے موقع پر لڑکے کا موبائل فون (Mobile Phone) کی فرمائش کرنا	۱۳۲
۷۰	شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے موبائل فون سے رنگ (Ring) کرنا یا ایس ایم ایس ارسال کرنا	۱۳۲
۷۱	جہیز میں دیا ہوا موبائل فون (Mobile Phone) کس کی ملکیت ہے	۱۳۳
۷۲	جہیز میں دیا ہوا موبائل فون (Mobile Phone) استعمال کرنے سے خراب ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟	۱۳۳

۱۳۳	بیوی کے ویزا (Visa) کے لئے موبائل فون (Mobile Phone) سے تصاویر لینا	۷۳
۱۳۴	زوجین کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ تبریک پیش کرنا	۷۴
۱۳۵	حرمیت بسبب نظر بشہوة	۷۵
۱۳۶	ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) میں عورت کے فرج داخل کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت	۷۶
۱۳۷	مہر	
۱۳۹	مہر کا ثبوت قرآن مجید سے	۷۷
۱۴۰	مہر کا ثبوت حدیث شریف سے	۷۸
۱۴۰	مہر کی اقسام	۷۹
۱۴۰	مہر متجل کی تعریف	۸۰
۱۴۰	مہر متجل کا حکم	۸۱
۱۴۱	مہر مؤجل کی تعریف	۸۲
۱۴۱	مہر مؤجل کا حکم	۸۳
۱۴۱	مہر کی کم از کم مقدار	۸۴
۱۴۲	مہر فاطمی کی مقدار	۸۵
۱۴۳	حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر	۸۶
۱۴۴	موبائل فون (Mobile Phone) بطور مہر	۸۷

۸۸	موبائل فون (Mobile Phone) میں بطور مہر بیلنس (Balance) ٹرانسفر (Transfer) کرنا	۱۴۵
۸۹	موبائل فون میں بطور مہر معجل بیلنس (Balance) کا تاخیر سے پہنچنا	۱۴۵
۹۰	بیوی کو بطور مہر معجل موبائل کنٹریکٹ (Mobile Contacr) لے کر دینا	۱۴۶
۹۱	کنٹریکٹ (Contract) کیا ہے؟	۱۴۶
۹۲	موبائل فون (Mobile Phone) کی سم (Sim) بیوی کو مہر میں دینا	۱۴۷
۹۳	موبائل فون (Mobile Phone) کا میموری کارڈ (Memory Card) بطور مہر	۱۴۷
۹۴	بیوی کو موبائل کارڈ (Mobile Card) بطور مہر دینا	۱۴۷
۹۵	بیوی کا شوہر کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ مہر معاف کر کے انکار کرنا	۱۴۸
۹۶	بیوی سے جبراً یا دھوکے سے مہر کی معافی کا ایس ایم ایس (S.M.S) شوہر کے موبائل فون (Mobile Phone) پر ارسال کروانا	۱۴۸
۹۷	بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) کے بل (Bill) میں مہر کا روپیہ	۱۴۹

۱۵۰	۹۸ غیر محرم سے موبائل فون، (Mobile Phone) ایس ایم ایس (S.M.S) یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ رابطہ رکھنی والی عورت کا مہر ساقط نہیں ہوتا
۱۵۰	۹۹ ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) سے خلوت صحیحہ ثابت نہیں ہوتی
۱۵۱	۱۰۰ شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ بیوی کے اکاؤنٹ (Account) میں مہر معجل کی رقم ٹرانسفر (Transfer) کرنا اور بیوی کو رقم کا نہ ملنا
۱۵۲	۱۰۱ ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ولیمہ کی دعوت
۱۵۲	۱۰۲ زوجین کا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران ایک دوسرے کو دیکھ کر دوسرے دن ولیمہ کرنا
۱۵۵	موبائل فون کے ذریعہ طلاق
۱۵۷	۱۰۳ طلاق کے لغوی معنی
۱۵۷	۱۰۴ طلاق کا شرعی معنی
۱۵۷	۱۰۵ طلاق کی حقیقت
۱۵۷	۱۰۶ بلا وجہ طلاق دینے پر تہدید
۱۶۳	۱۰۷ کثرت طلاق کے اسباب
۱۶۷	۱۰۸ بلا ضرورت بیوی کو طلاق دینے کا حکم
۱۶۷	۱۰۹ طلاق کا رکن

۱۱۰	کیا ایس ایم ایس (S.M.S) یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ طلاق دینے والے کو مالی جرمانہ کیا جاسکتا ہے؟	۱۶۸
۱۱۱	ٹیلی فون (MobilePhone) سے طلاق	۱۶۹
۱۱۲	موبائل فون (Mobile Phone) پر زبردستی طلاق دلوانا	۱۷۰
۱۱۳	شوہر سے موبائل فون (Mobile Phone) پر جبراً اقرار طلاق	۱۷۱
۱۱۴	موبائل فون (Mobile Phone) پر نشہ میں طلاق	۱۷۱
۱۱۵	ڈرگ (Drug) کے نشہ میں موبائل فون پر طلاق (Mobile Phone)	۱۷۲
۱۱۶	شوہر کا بیوی کو دودھیلڈ (With Held) نمبر (Number) کے ساتھ طلاق دینا	۱۷۲
۱۱۷	وائس چینج (Voice Change) آپلیکیشن (application) کے ذریعہ طلاق	۱۷۳
۱۱۸	شوہر کا طلاق کا وائس میسج (Voice Message) ارسال کرنا	۱۷۴
۱۱۹	ریکارڈ شدہ (Recorded Video) ویڈیو میں بیوی کو طلاق	۱۷۴
۱۲۰	وائس ٹو میسج (Voice To Message) کے ذریعہ طلاق	۱۷۴
۱۲۱	شوہر کا بیوی کے وائس میل (Voice Mail) پر طلاق کا پیغام چھوڑنا	۱۷۵
۱۲۲	بیوی کے غیر استعمال شدہ نمبر (Number) کے وائس میل (Voice Mail) پر طلاق کا پیغام بھجوانا	۱۷۶

۱۲۳	کیا غیر محرم مرد سے غلط مقصد کے لئے موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ بات کرنے والی یا ٹیکسٹ (Text) کرنے والی بیوی کو چھوڑ دینا ضروری ہے؟	۱۷۶
۱۲۴	بیوی کا شوہر کے موبائل فون (Mobile Phone) کی کال (Call) کا ٹن یا اس کے بیٹری (Battery) کا ختم ہو جانا یا شوہر کا کال ہولڈ (Hold) پہ لگانا	۱۷۷
۱۲۵	شوہر نے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کی طہی تو بیوی نے کال (Call) کاٹ دی	۱۷۸
۱۲۶	فضولی کا کسی کی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دینا	۱۷۹
۱۲۷	موبائل فون (Mobile Phone) کے لاؤڈ اسپیکر (Loud Speaker) پر ایک بیوی کو پکارا دوسری نے جواب دیا	۱۷۹
۱۲۸	ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران غیر زوجہ کو زوجہ سمجھ کر نام لیکر طلاق	۱۸۰
۱۲۹	ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران عمرہ کو زینب سمجھ کر اشارے سے طلاق دینا	۱۸۱
۱۳۰	گوگلے کا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ اشارے سے طلاق دینا	۱۸۱
۱۳۱	پڑھے لکھے گوگلے کا ویڈیو کال (Video Call) کے ذریعہ طلاق دینا	۱۸۲

۱۳۲	ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing)	۱۸۳
۱۳۳	شوہر کا غلطی سے دوسری بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر کال (Call) کر کے طلاق دینا	۱۸۴
۱۳۴	شوہر کا غلطی سے رائگ نمبر (Wrong Number) ملا کر غیر زوجہ کو طلاق دینا	۱۸۵
۱۳۵	موبائل فون (Mobile Phone) کو ڈائیورٹ (Divert) پہ لگانا	۱۸۵
۱۳۶	شوہر کا نیٹ ورک (Network) خراب ہونے کی وجہ سے بار بار طلاق کا لفظ دہرانا	۱۸۶
۱۳۷	نیٹ ورک (Network) کی خرابی کے باعث موبائل فون (Mobile Phone) پر آواز کا گونج کر آنا	۱۸۶
۱۳۸	ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ بیوی کے جسم کو دیکھنے سے حلالہ کا تحقق نہیں ہوتا ہے	۱۸۷
۱۳۹	زوجین کا آپس میں موبائل فون (Mobile Phone) یا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ رابطہ نہ ہونے سے طلاق نہیں ہوتی	۱۸۸
۱۴۰	شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) کے لاؤڈ اسپیکر (Loud Speaker) پر طلاق اور لڑکی کے باپ کی گواہی	۱۸۸
۱۴۱	بیوی کا نام طالق ہونا یا شوہر کا بیوی کا نام موبائل فون (Mobile Phone) میں طلاق لکھنا	۱۸۹

۱۹۰	شوہر کا لینڈ لائن (Land Line) پر طلاق کے پیغام کو چھوڑنا	۱۴۲
۱۹۱	ایس ایم ایس کے ذریعہ طلاق	
۱۹۳	شوہر کا فون بک (Phone Book) میں ایک ہی بیوی کے نام کے تحت دوسری بیویوں کے نمبرز (Numbers) کو محفوظ کر کے غلطی سے سب کو طلاق کا ٹیکسٹ (Text) ارسال کرنا	۱۴۳
۱۹۸	شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) میں بیویوں کے نام محفوظ نہ کرنے کی وجہ سے عائشہ کے بجائے زینب کو طلاق دینا	۱۴۴
۱۹۹	کسی کا شوہر کو عائشہ کے بجائے زینب کا نمبر (Number) دینا اور شوہر کا زینب کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) بھیجنا	۱۴۵
۱۹۹	شوہر کا طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) میں غلطی سے ایک بیوی کا نام لکھنا پھر ڈیلیٹ (Delete) کر کے دوسری بیوی کا نام لکھنا	۱۴۶
۲۰۰	شوہر کا بیوی کو مذاق میں طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا	۱۴۷
۲۰۱	شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) میں سگنل (Signal) کی کمی کی وجہ سے دوسری بیوی (عمرہ) کی آواز کو نہ پہنچانا اور عمرہ کا زینب بن کر بات کرنا	۱۴۸
۲۰۲	بنیت تاکید طلاق ایس ایم ایس (S.M.S) سے ارسال کرنا	۱۴۹
۲۰۲	بیوی کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھائی کے بغیر ملنا	۱۵۰
۲۰۳	بیوی کے سامنے طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا	۱۵۱
۲۰۳	ڈرائنگ (Drawing) کے ذریعہ طلاق	۱۵۲

۱۵۳	ڈرائنگ (Drawing) میں لفظ طلاق مذاق میں لکھ کر بیوی کو دکھانا	۲۰۴
۱۵۴	طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) میں بیوی کے باپ کے نام کے سپیلنگ (Spelling) غلط لکھنا	۲۰۵
۱۵۵	شوہر کا بیوی کو طلاق دینا اور اس کے دوستوں کا متعدد بار ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ سوال کرنا	۲۰۵
۱۵۶	طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) میں بیوی کے نام کے سپیلنگ (Spelling) غلط لکھنا	۲۰۶
۱۵۷	موبائل چیٹنگ (Mobile Chatting) کے دوران بیوی کو طلاق دینا	۲۰۷
۱۵۸	شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) سے بیوی کو طلاق کا ای میل (Email) بھیجنا	۲۰۷
۱۵۹	بیوی کا طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو ریسیو (Receive) نہ کرنا	۲۰۸
۱۶۰	شوہر کا بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) میں طلاق اور سیٹل (Send) کے بٹن (Button) کا خراب ہو جانا	۲۰۸
۱۶۱	موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے الفاظ کا پورا نظر نہ آنا	۲۰۹
۱۶۲	شوہر کا طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھ کر ڈرافٹ (Draft) میں محفوظ کرنا	۲۰۹

۲۱۰	۱۶۳ طلاق کا مضمون لکھ کر لاعلمی میں شوہر سے میسج کے ارسال (Send) کا بٹن (Button) دبوانا
۲۱۰	۱۶۴ شوہر نے میسج (Message) میں ایک طلاق لکھی کسی نے دھوکے سے دو لکھ دیں
۲۱۰	۱۶۵ شوہر سے خالی کاغذ پر دستخط کروا کر طلاق کے مضمون کو ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ ارسال کرنا
۲۱۱	۱۶۶ شوہر کا طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کا اقرار کے بعد انکار
۲۱۲	۱۶۷ شوہر نے بیوی کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ طلاق دی مگر عدد یاد نہیں
۲۱۴	۱۶۸ شوہر کا طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) لکھ کر ڈیلیٹ (Delete) کرنا
۲۱۴	۱۶۹ بیوی کے تینوں نمبرز (Numbers) پر ایک ایک طلاق ارسال کرنا
۲۱۵	۱۷۰ ایس ایم ایس (S.M.S) کا فیل (Fail) ہو جانا یا شوہر کا دوبارہ ارسال کرنا
۲۱۵	۱۷۱ بیوی کے تینوں نمبرز (Numbers) پر طلاق کی خبر دینا
۲۱۶	۱۷۲ شوہر سے زبردستی طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کروانا
۲۱۶	۱۷۳ اکراہ کی اقسام
۲۱۷	۱۷۴ اکراہ کا حکم
۲۱۸	۱۷۵ شوہر کا تین الگ الگ ایس ایم ایس (S.M.S) میں ایک ایک طلاق لکھنا اور بیوی کو تین میں سے ایک کا ملنا

۱۷۶	شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) پر یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ موصول استثناء	۲۱۸
۱۷۷	دوا ایس ایم ایس (S.M.S) طلاق کے ارسال کرنا اور تیسرے میں موصول استثناء	۲۱۹
۱۷۸	موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ مفصول استثناء	۲۲۰
۱۷۹	شوہر کا طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) میں ان شاء اللہ سے استثناء کرنا اور بیوی کے موبائل پر آدھا میسج (Message) دکھائی دینا	۲۲۱
۱۸۰	شوہر کا ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) میں استثناء کر کے ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ اپنی بیوی کو ارسال کرنا اور اس کو ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے لفظ استثناء کا سنائی نہ دینا	۲۲۱
۱۸۱	شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) میں لفظ طلاق کے بجائے طاق لکھنا	۲۲۳
۱۸۲	موبائل فون (Mobile Phone) پر آنت طالق کا سکرین سیور (Screen Saver) بنانا	۲۲۳
۱۸۳	ایس ایم ایس (S.M.S) چیک (Check) کرنے کیلئے طلاق لکھنا	۲۲۴
۱۸۴	ایس ایم ایس (SMS) میں ”Divorce“ کے بجائے ”Divorse“ لکھنا	۲۲۵

۲۲۵	۱۸۵	وکیل بالطلاق کا غلطی سے ایس ایم ایس (S.M.S) اپنی بیوی کو ارسال کر دینا
۲۲۶	۱۸۶	شوہر کا طلاق کا مضمون حکایت بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کرنا
۲۲۶	۱۸۷	شوہر کا لکھی ہوئی طلاق ارسال کرنا
۲۲۸	۱۸۸	شوہر کا کسی سے طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھوانا
۲۲۸	۱۸۹	بیوی کا موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کا مضمون ٹائپ (Type) کر کے شوہر کو ارسال کرنا
۲۲۹	۱۹۰	شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) میں تین دفعہ طلاق کا مضمون پڑھنا اور کاتب کا تین طلاقیں لکھنا
۲۳۰	۱۹۱	بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا اور شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ تین انگلیوں کی تصویر یا ہاتھ کا نشان بھیج دینا جس میں اس سے خدا حافظ کہا گیا ہو
۲۳۱	۱۹۲	ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایک طلاق سنت یا تین طلاقیں دینے کا طریقہ
۲۳۳		رجعت
۲۳۵	۱۹۳	رجعت کے معنی
۲۳۵	۱۹۴	قرآن مجید سے رجعت کا ثبوت
۲۳۵	۱۹۵	حدیث سے رجعت کا ثبوت
۲۳۶	۱۹۶	رجعت کی شرائط
۲۳۶	۱۹۷	شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) پر بیوی سے رجعت کرنا

۱۹۸	شوہر کا وائس میل (Voice Mail) پر رجعت کا پیغام چھوڑنا	۲۳۷
۱۹۹	شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ رجعت کرنا	۲۳۷
۲۰۰	عورت کا ایس ایم ایس (S.M.S) یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ رجعت کرنا	۲۳۷
۲۰۱	بیوی کا موبائل فون (Mobile Phone) پر براہ راست ویڈیو کال (Video Call) کے دوران رجعت کے لئے شوہر کو شرم گاہ کا اندرونی حصہ دکھانا	۲۳۶
۲۰۲	فضولی کا موبائل فون (Mobile Phone) پر رجعت	۲۳۸
۲۰۳	شوہر کا غلطی سے دوسری بیوی کو رجعت کا ٹیکسٹ مسیج (Text Message) بھیجنا	۲۳۹
۲۰۴	شوہر کو جبراً موبائل فون (Mobile Phone) پر رجعت کروانا	۲۳۹
۲۰۵	شوہر کو جبراً ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعے رجعت کروانا	۲۳۹
۲۰۶	ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) بطور شہادت	۲۴۰
۲۰۷	شوہر کا رجعت کا ایس ایم ایس (S.M.S) بیوی کو نہ ملنا	۲۴۱
۲۰۸	ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران بیوی کی شرم گاہ کو شہوت سے دیکھنے سے رجعت	۲۴۲
۲۰۹	ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) پر اپنی بیوی کی شرم گاہ کو شہوت سے دیکھنے پر رجعت کا حکم	۲۴۳
۲۱۰	شوہر کا رجعت کو بیوی کے ایس ایم ایس (S.M.S) کرنے پر معلق کرنا	۲۴۳

۲۴۵	تفویض طلاق	
۲۴۷	قرآن مجید سے اختیار دینے کا ثبوت	۲۱۱
۲۴۸	حدیث سے بیوی کو اختیار دینے کا ثبوت	۲۱۲
۲۴۸	تفویض طلاق کے شرائط	۲۱۳
۲۵۰	تفویض طلاق کے مخصوص الفاظ	۲۱۴
۲۵۰	بیوی کو اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) تاخیر سے ملنا	۲۱۵
۲۵۱	شوہر کا بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق کا اختیار دینا	۲۱۶
۲۵۲	شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ متعینہ مدت کی قید کے ساتھ طلاق کا اختیار اور ایس ایم ایس (S.M.S) کا مدت کے بعد پہنچنا	۲۱۷
۲۵۳	اگر میں تین دن کے اندر اپنے موبائل فون (Mobile Phone) سے تیرے اکاؤنٹ (Account) میں پیسے ٹرانسفر (Transfer) نہ کروں تو تجھے طلاق	۲۱۸
۲۵۴	شوہر کا بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایک طلاق رجعی کا اختیار دینا اور بیوی کا اپنے آپ کو طلاق بائن دینا	۲۱۹
۲۵۴	شوہر کا بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کا اختیار دینا اور بیوی کا کال (Call) کو ہولڈ (Hold) پہ لگانا	۲۲۰
۲۵۵	شوہر کا بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر اختیار طلاق دے کر کال (Call) کاٹنا	۲۲۱

۲۵۶	۲۲۲ بیوی کا اختیار کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو ڈرافٹ (Draft) میں محفوظ کرنا
۲۵۷	۲۲۳ بیوی کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اختیار قبول کرنا اور شوہر کو میسج (Message) نہ ملنا
۲۵۷	۲۲۴ شوہر کا اختیار طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) سے انکار
۲۵۸	۲۲۵ اختیار طلاق کے بعد بیوی کا شوہر کی کال (Call) کو میوٹ (Mute) پر لگا کر گواہوں کو ایس ایم ایس (S.M.S) یا رینگ (Ring) کرنا
۲۵۸	۲۲۶ نیٹ ورک (Network) کی خرابی کے باعث بیوی کو شوہر کی آواز کا سنائی نہ دینا
۲۵۹	۲۲۷ شوہر کا اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) بیوی کے ایسے نمبر (Number) پر ارسال کرنا جو اس کے استعمال میں نہیں ہے
۲۵۹	۲۲۸ وکیل بالطلاق بچے کا موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دینا
۲۶۰	۲۲۹ شوہر کا غلطی سے دوسری بیوی کو اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) کرنا
۲۶۰	۲۳۰ شوہر کو اپنی بیوی کی طرف اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنے پر مجبور کرنا
۲۶۱	۲۳۱ وکیل بالطلاق کا نقشہ میں موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دینا

۲۶۱	۲۳۲	اختیار طلاق کا جواب دینے کے لئے بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) میں بیلنس (Balance) کا نہ ہونا
۲۶۲	۲۳۳	شوہر کا بیوی کو مذاق میں ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اختیار طلاق دینا
۲۶۲	۲۳۴	وکیل کا موبائل فون (Mobile Phone) پر مؤکل کی بیوی کو طلاق
۲۶۳	۲۳۵	شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ وکیل کی طلاق سے پہلے وکالت ختم کرنا اور ایس ایم ایس (S.M.S) کا وکیل کی طلاق کے بعد پہنچنا
۲۶۵		تعلیق طلاق
۲۶۷	۲۳۶	طلاق معلق کے واقع ہونے کی شرائط
۲۶۸	۲۳۷	شوہر کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کرنا
۲۷۲	۲۳۸	اگر میں تیری زوجہ کی طرف دیکھوں یا نظر کروں تو میری بیوی کو تین طلاق اور پھر اس عورت کو ویڈیو کانفرنسنگ (Video conferencing) کے دوران دیکھ لیا
۲۷۳	۲۳۹	شوہر کا بیوی کے کال ریسیو (Call Receive) کرنے پر طلاق کو معلق کرنا اور بیوی کا کال (Call) بلوٹو تھ ہیڈ فون (Bluetooth Headphone) کے ذریعہ ریسیو (Receive) کرنا
۲۷۴	۲۴۰	بلوٹو تھ (Bluetooth) کیا ہے؟

۲۴۱	بلوٹوتھ (Bluetooth) کی وجہ اسم	۲۷۵
۲۴۲	بلوٹوتھ (Bluetooth) کا موجد	۲۷۵
۲۴۳	شوہر کا بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کے مسیج (Message) کو پہنچنے پر معلق کرنا اور اس کے موبائل فون (Mobile Phone) کے سینڈ (Send) بٹن (Button) کا خراب ہونا	۲۷۶
۲۴۴	اگر میں تیری زوجہ کی طرف دیکھوں یا نظر کروں تو میری بیوی کو تین طلاق اور پھر اس عورت کو ریکارڈ ڈیوڈیو (Recorded Video) یا موبائل فون (Mobile Phone) میں اس کی تصویر کو دیکھ لیا	۲۷۶
۲۴۵	اگر میں اپنی زوجہ کی آواز سنوں تو اس کو طلاق پھر شوہر نے زوجہ کا وائس مسیج (Voice message) سن لیا	۲۷۷
۲۴۶	اگر تو نے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) پر فلاں کے ساتھ بات کی تو تجھے طلاق	۲۷۸
۲۴۷	شوہر کا اپنی تصویر کو بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر پہنچنے پر معلق کرنا اور اسکرین (Screen) پر فقط ہاتھ یا پاؤں کا ظاہر ہونا	۲۷۸
۲۴۸	وائس میل (Voice Mail) کو بیوی کے سننے پر معلق کرنا	۲۷۹
۲۴۹	طلاق کے وائس مسیج (Voice Message) کو بیوی کے سننے پر معلق کرنا	۲۷۹

۲۵۰	شوہر کا طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بیوی کے پڑھنے پر معلق کرنا اور اس کے ہوم بٹن (Home Button) کا خراب ہونا	۲۸۰
۲۵۱	ہوم بٹن (Home Button) کیا ہے؟	۲۸۰
۲۵۲	شوہر کا طلاق کو تین مس کالز (Miss calls) پر معلق کرنا	۲۸۰
۲۵۳	شوہر کا دوسری زبان میں طلاق کا وائس میل (Voice Mail) چھوڑ کر بیوی کے سننے پر معلق کرنا	۲۸۱
۲۵۴	شوہر کا احتمالاً طلاق کے مضمون کو لکھ کر موبائل فون (Mobile Phone) میں محفوظ کرنا	۲۸۲
۲۵۵	شوہر کا وائس چینج آپلیکیشن (Voice Change Application) کے ذریعہ طلاق دینا اور آواز کو بیوی کے پہچاننے پر معلق کرنا	۲۸۲
۲۵۶	احتمالاً طلاق کا لکھا گیا مضمون غلطی سے بیوی کو ارسال کرنا	۲۸۳
۲۵۷	مشترکہ استعمال ہونے والے موبائل نمبر (Mobile Number) پر طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو معلق کرنا	۲۸۳
۲۵۸	شوہر کا بیوی کے کال (Call) ریسیو (Receive) کرنے پر طلاق کو معلق کرنا	۲۸۴
۲۵۹	شوہر کا طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھ کر بیوی تک پہنچنے پر معلق کر کے لفظ طلاق کو ڈیلیٹ (Delete) کرنا	۲۸۴

۲۶۰	اگر تو نے میرا نمبر ڈائل (Number Dial) کیا تو تجھے طلاق تو بیوی کا وائس ٹاگ (Voice Tag) یا سپید ڈائل	
۲۸۵	(Speed Dial) کے ذریعہ نمبر ڈائل (Number Dial) کرنا	
۲۶۱	شوہر کا طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کر کے خالی ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا	۲۸۶
۲۶۲	شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے پڑھنے پر معلق کرنا	۲۸۶
۲۶۳	شوہر کا بیوی کے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) پر کال ریسیو (Call Receive) کرنے پر طلاق کو معلق کرنا اور عورت کا موبائل فون (Mobile Phone) کو ڈائیورٹ (Divert) پہ لگانا	۲۸۸
۲۶۴	شوہر کا طلاق کو صرف بیوی کے کال (Call) سننے پر معلق کرنا اور بیوی کا کال (Call) کو موبائل فون (Mobile Phone) کے لاء وڈ اسپیکر (Loud Speaker) یا ہینڈز فری کٹ (Hands Free Kit) پر دوسروں کو سننا	۲۸۹
۲۶۵	شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کو ایک بیوی کے پڑھنے پر معلق کرنا اور دوسری بیوی کا ایس ایم ایس (S.M.S) پڑھنا	۲۹۰
۲۶۶	عمرہ طالق یا زینب بشرطیکہ ٹیکسٹ میسج (Text Message) پڑھے	۲۹۱
۲۶۷	ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے ملنے پر معلق کرنا اور میاں بیوی کا شرط کے پائے جانے میں اختلاف	۲۹۱

۲۶۸	شوہر کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ مشروط طلاق کا بار بار ارسال کرنا	۲۹۲
۲۶۹	کسی دوسرے کا شوہر کی طرف منسوب شرط کو انجام دینا	۲۹۳
۲۷۰	بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو پہنچنے پر معلق کرنا اور اس کا بیوی کی چوری ہوئی سم (Sim) پر پہنچنا	۲۹۳
۲۷۱	شوہر کا بیوی کے موبائل فون نمبر (Mobile Phone Number) پر طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو پہنچنے پر معلق کرنا اور اس کی گمشدہ یا چوری ہوئی سم (Sim) پر پہنچنا	۲۹۴
۲۷۲	شوہر کا طلاق کو بیوی کے تار والے ہیڈ فون (Headphone) کے ذریعہ اپنی کال ریسیو (Receive) کرنے پر معلق کرنا اور بیوی کا بلوٹوتھ ہیڈ فون (Bluetooth Headphone) کے ذریعہ کال ریسیو (Call Receive) کرنا	۲۹۴
۲۷۳	شوہر کا طلاق کو اپنے نمبر (Number) سے کی گئی کال (Call) بیوی کے ریسیو (Receive) کرنے پر معلق کرنا اور پھر اسے وڈ ہیلڈ نمبر (Withheld Number) کے ساتھ رنگ (Ring) کرنا	۲۹۵
۲۷۴	خلع	۲۹۷
۲۷۵	خلع کی تعریف	۲۹۹
۲۷۶	خلع کا شرعی معنی	۲۹۹
۲۷۷	ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ خلع	۲۹۹

۲۷۷	شوہر کا بیوی کے وائس میل (Voice Mail) پر خلع کا پیغام چھوڑنا	۳۰۰
۲۷۸	موبائل فون (Mobile Phone) یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ خلع	۳۰۰
۲۷۹	شوہر کا خلع کر کے ایس ایم ایس (S.M.S) ڈیلیٹ کرنا (Delete)	۳۰۱
۲۸۰	مذاق میں خلع	۳۰۱
۲۸۱	موبائل فون (Mobile Phone) کے عوض میں خلع	۳۰۲
۲۸۲	عورت کا شوہر کو خلع کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) پہنچنے سے پہلے رجوع کرنا	۳۰۲
۲۸۳	موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ جبراً خلع	۳۰۲
۲۸۴	ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ جبراً خلع	۳۰۳
۲۸۵	وکیل بخلع بچے کا موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دینا	۳۰۳
۲۸۶	شوہر کا بیوی کو مہر میں موبائل فون (Mobile Phone) دینا پھر اس کے عوض میں خلع کرنا	۳۰۴
۲۸۷	عورت کا کسی کو وکیل بخلع کر کے رجوع کی غرض سے رنگ (Ring) کرنا اور وکیل کا کال (Call) ریسیو (Receive) نہ کرنا	۳۰۵
۲۸۸	عورت کا تین ہزار روپے کے موبائل کا لنگ کارڈ (Mobile Calling Card) کے عوض میں طلاق مانگنا	۳۰۶
	ظہار	۳۰۷

۳۰۹	۲۸۹	ظہار کے ارکان
۳۰۹	۲۹۰	موبائل فون (Mobile Phone)، ایس ایم ایس (S.M.S) یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ ظہار
۳۱۰	۲۹۱	وائس میل (Voice Mail) پر ظہار
۳۱۰	۲۹۲	منظاہر کا اپنی بیوی سے موبائل ویڈیو کال (Mobile Video Call) کے ذریعہ شرمگاہ کو دیکھنا
۳۱۱	۲۹۳	ایس ایم ایس (S.M.S)، موبائل فون یا وائس میل (Voice Mail) کے ذریعہ مذاق میں بیوی سے ظہار کرنا
۳۱۲	۲۹۴	شوہر کو موبائل فون (Mobile Phone) پر زبردستی ظہار کروانا یا اس کا غلطی سے ظہار کرنا
۳۱۲	۲۹۵	شوہر کا کسی اجنبیہ عورت کے فرنج کو ویڈیو کال (Video Call) کے ذریعہ دیکھنا اور اپنی بیوی کو اس کی بیٹی سے تشبیہ دینا
۳۱۳	۲۹۶	شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) پر نشہ میں ظہار کرنا اور گونگے کا ایس ایم ایس (S.M.S) یا ویڈیو کال (Video Call) کے ذریعہ اشارے سے ظہار کرنا
۳۱۳	۲۹۷	ظہار کو بیوی کی مس کال (Miss Call) پر متعلق کرنا
۳۱۴	۲۹۸	شوہر کا ظہار کے ایس ایم ایس (S.M.S) میں استثناء
۳۱۴	۲۹۹	شوہر کا اپنی بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر ظہار کا ایس ایم ایس (S.M.S) تاکید کے لئے بار بار ارسال کرنا

۳۱۵	۳۰۰	مظاہر کا اپنی بیوی سے ٹیکسٹ میسج (Text Message) یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ بات چیت کرنا
۳۱۵	۳۰۱	مگلتر سے ٹیکسٹ میسج (Text Message) یا موبائل فون کے ذریعہ ظہار
۳۱۷		فسخ نکاح
۳۱۹	۳۰۲	قاضی کا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ تفریق کرنا
۳۲۲	۳۰۳	اہلیت قضاء کے لئے ضروری شرائط
۳۲۵		عدت
۳۲۷	۳۰۴	عدت کے معنی
۳۲۷	۳۰۵	بیوی کی عدت ایس ایم ایس (S.M.S) لکھنے کے وقت سے
۳۲۷	۳۰۶	شوہر کا طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) میں پہلے کی تاریخ لکھنا اور بیوی کی عدت
۳۲۸	۳۰۷	دوران عدت ایس ایم ایس (S.M.S) یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ معتدہ کو پیغام نکاح
۳۲۹	۳۰۸	عدت کے دوران عورت کا گھر سے باہر موبائل فون کارڈ (Mobile Phone Card) لینے کے لئے جانا
۳۳۰	۳۰۹	عورت کا عدت کے دوران موبائل فون بل (Mobile Phone Bill) ادا کرنے کے لئے جانا

۳۳۰	۳۱۰	مرد کا عورت کے ایسے نمبر (Number) پر طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) کرنا جو اس کے استعمال میں نہیں ہے اور عورت کا عدت گزر جانے کے بعد سم (Sim) آن کرنا
۳۳۱	۳۱۱	معتدہ کا موبائل فون (Mobile Phone)، ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ شوہر سے رابطہ اور ویڈیو کانفرنسنگ کے دوران اپنا جسم دکھانا
۳۳۲	۳۱۲	معتدہ کا طلاق رجعی میں خاوند کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کرنا
۳۳۳	۳۱۳	معتدہ کا موبائل فون کمپنی (Mobile Phone Company) میں ملازمت کرنا
۳۳۴	۳۱۴	معتدہ کا نیا موبائل فون کنٹریکٹ (Mobile Phone Contract) خریدنے کے لئے باہر جانا
۳۳۴	۳۱۵	معتدہ کا خراب موبائل فون (Mobile Phone) ٹھیک کروانے کے لئے گھر سے باہر جانا

انتساب

میں اپنی پہلی تحریری کاوش کو اپنے مشفق و مہربان نانا جان حضرت مولانا عبد المجید صاحب برد اللہ مرقدہ (خطیب جامع مسجد مدنی سرانے عالمگیر، پاکستان) کے نام منسوب کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کی دعائے ”نیم شب“ کی بدولت رب ذوالمنن نے بندہ اشیم کو وادی قرطاس و قلم میں اتار کر اس حقیر علمی سعی کو پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔

— اور —

اپنی والدہ محترمہ کے نام۔۔۔ جب بھی وہ مجھے رات گئے تک کتب خانہ میں کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو شفقت بھرے لہجے میں کہتی ہیں بیٹا! بس کرو تھک جاؤ گئے اور پھر اٹک بھری آنکھوں کے ساتھ ان کی زبان پر احقر کے لئے بے ساختہ دعائیں جاری ہو جاتی ہیں، بابا جان حافظ بشیر احمد صاحب مدظلہ، استاد مکرم حضرت مولانا مفتی یوسف ساچا صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا احسان الحق صاحب تعمدہ اللہ بغفرانہ، اپنے ماموں حضرت مولانا محمد امین صاحب زید مجدہ، اپنے بھائی مولانا ابوذر احمد صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ، اساتذہ، زوجہ، بہنیں، اپنی بیٹی رومیہ اور بیٹی بلال کے نام معنون کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں جن کی دعاؤں نے میری زندگی کے گلشن کو مہر کا دیا۔

شبیر احمد عثمانی عفا اللہ عنہ

”موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق“

اہل علم کی نظر میں

تقریظ

حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ
(المعهد العالي الاسلامی حیدرآباد و جنرل سکریٹری اسلامک فقہ اکیڈمی، انڈیا)

”شریعت اسلامی“ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا نظام حیات ہے، یہ زندگی کے ہر شعبہ میں انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے اور قیامت تک رہنمائی کرتا رہے گا، کچھ مسائل تو وہ ہیں جو انسانی زندگی کے آغاز ہی سے موجود ہیں اور ہر زمانہ میں موجود رہیں گے، قرآن وحدیث میں ان کا واضح حل موجود ہے، کچھ مسائل وہ ہیں جو زمانہ کی تبدیلیوں کے ساتھ پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن کو ”نئے مسائل“ کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں کتاب وسنت میں صریح احکام تو نہیں مل سکتے؛ لیکن ان اصول ومقاصد کی رہنمائی مل سکتی ہے، جن کی روشنی میں انھیں حل کیا جاسکتا ہے۔

”نئے مسائل“ جن اسباب کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں، ان میں ایک جدید آلات ومسائل کی پیدائش ہے، سترہویں صدی کے بعد سے دنیا میں تحقیق واکتشاف اور اختراع و ایجاد کی کوششوں نے جس تیزگامی کے ساتھ اپنا سفر طے کیا اور یہ سفر کی توقف کے بغیر ابھی بھی جاری ہے، ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، یوں تو زندگی کے تمام شعبوں میں ان اختراعات نے ایک انقلاب پیدا کر دیا ہے اور جن چیزوں کو ناممکن سمجھا جاتا تھا، انھیں ممکن کر دکھایا ہے؛ لیکن جن شعبوں میں غیر معمولی ترقی ہوتی

ہے، ان میں ایک ابلاغ کے ذرائع بھی ہیں۔

انسان کے اندر ترسیل و ابلاغ کا ایک فطری جذبہ رکھا گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنی بات دوسروں تک پہنچائے، دور دور تک پہنچائے اور کم سے کم وقت میں پہنچائے، ایک زمانہ میں یہ سفر مہینوں میں طے ہوتا تھا، پھر یہ فاصلہ کم ہوتا گیا؛ لیکن ان وسائل سے فائدہ اٹھانا ہر ایک کے بس میں نہیں تھا؛ لیکن فون، پھر موبائل کے ذریعہ آواز رسانی کے ساتھ ساتھ پیغام رسانی کی سہولت نے اب اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ دنیا کے مشرقی کونے سے مغرب کی آخری سرحدوں تک ایک مختصر لمحہ میں نہ صرف اپنی آواز پہنچا دی جائے؛ بلکہ اپنا پیغام تحریری شکل میں بھی پہنچا دیا جائے، اس ترقی نے موبائل سے متعلق بہت سے شرعی مسائل پیدا کر دیئے ہیں، یہ نہ صرف معاملات سے متعلق ہیں؛ بلکہ نکاح و طلاق اور عبادات سے بھی ان کا تعلق ہے، خاص کر نکاح و طلاق سے متعلق بہت سے مسائل موبائل کو وسیلہ ابلاغ بنانے کی شکل میں پیدا ہوئے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ موبائل تو اصل میں آلہ اتصال ہے؛ لیکن بہت سے لوگوں نے اسی کو آلہ انفصال بنا لیا ہے، خود مؤلف نے ایک سروے کا حوالہ دیا ہے، جس کے مطابق 57٪ لوگوں نے طلاق کے لئے موبائل فون استعمال کیا ہے، مصر میں ہر گھنٹہ میں موبائل فون کے ذریعہ پندرہ طلاقیں دی جاتی ہیں اور ملیشیا میں طلاق دینے والوں میں سے 22٪ لوگوں نے S.M.S کا استعمال کیا ہے، اسی طرح نکاح میں بھی اس ذریعہ کا استعمال بکثرت رائج ہو رہا ہے، اس پس منظر میں محبی فی اللہ مولانا شبیر احمد عثمانی (بائلی، برطانیہ) نے اپنے پی، ایچ، ڈی کے مقالہ کے لئے نکاح و طلاق کے سلسلے میں یہ مقالہ مرتب کیا ہے اور مدرسۃ الحراء ڈیویز بری (برطانیہ) سے قارئین تک

پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔

یہ بھی ذرائع و ابلاغ ہی کا کرشمہ ہے کہ مؤلف برطانیہ میں مقیم ہیں، وہاں انھوں نے یہ کتاب تالیف کی اور کتاب ابھی پریس تک پہنچی بھی نہیں؛ لیکن انٹرنیٹ کی وساطت سے اس حقیر تک پہنچی ہے اور ان کی خواہش پر یہ پیش لفظ تحریر کیا جا رہا ہے، اس حقیر نے قریب قریب پورے مسودہ کو پڑھا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ مؤلف نے موبائل سے متعلق ممکنہ مسائل کے تتبع و تلاش اور کتب فقہ سے ان کے نظائر تلاش کرنے میں بڑی محنت کی ہے اور ان کی سعی بہت ہی قابل تحسین ہے، عام طور پر مصنف نے جو رائے قائم کی ہے، اس حقیر کو بھی اس سے اتفاق ہے؛ البتہ ایسے نئے مسائل میں اگر جزوی طور پر اختلاف رائے ہو تو یہ باعث تعجب نہیں؛ کیوں کہ ایسے مسائل میں غور و فکر کے ایک سے زیادہ پہلو ہوا کرتے ہیں اور اس بنا پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، بہر حال یہ مصنف کی قابل قدر کوشش ہے اور علماء، ارباب افتاء، عوام و خواص سمجھوں گے کہ اس کے لئے یکساں قابل استفادہ ہے، میں اس اہم کام پر انھیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان سے مزید دین اور علم دین کی خدمت لے۔

وبالله التوفیق وهو المستعان

خالد سیف اللہ رحمانی

یکم شعبان ۱۴۳۲ھ

خادم: المعهد العالی الاسلامی حیدرآباد

۴/ جولائی ۲۰۱۱ء

جنرل سکریٹری اسلامک فقہ اکیڈمی، انڈیا

تقریظ

حضرت مولانا مفتی عتیق احمد صاحب قاسمی، بستوی مدظلہ
(استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ و سکریٹری سلاک فقہ اکیڈمی، انڈیا)

الحمد لله الذى خلق الانسان وعلمه البيان والصلوة
والسلام على خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين
وعلى آله وأصحابه اجمعين

اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور ساری کائنات کو پیدا فرمایا، سارے جہانوں
میں اس کی حکمرانی ہے، اس کائنات کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام
پر اور اسی کے اشارے پر چل رہی ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لئے اللہ تعالیٰ نے
آسمانی کتابوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ﷺ پر انبیاء
کرام کا سنہرے سلسلہ مکمل ہوا، آپ پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب قرآن کریم اور آپ
کے ذریعے آنے والی شریعت قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کے لئے کافی ہیں۔

کتاب وسنت کی تصریحات اور اصولوں کی روشنی میں علماء اسلام اور فقہاء
امت نے ہر دور کے مسائل کو حل فرمایا ہے اور ہر موڑ پر امت کی رہنمائی فرمائی ہے۔
دور حاضر میں سائنسی ایجادات اور ابلاغ و ترسیل کے نئے ذرائع نے بہت سے
سوالات کھڑے کیے ہیں الحمد للہ فقہاء امت نے اجتماعی اور انفرادی طور پر ان

سوالات کے جوابات کتاب وسنت اور فقہی ذخیرہ کی روشنی میں بیان فرمائے ہیں اور برابر یہ سلسلہ جاری ہے۔

موبائل فون دور حاضر کی ایسی انقلاب آفریں ایجاد ہے جس نے دنیا کی مسافنتیں سمیٹ دی ہیں اور ہزاروں انسانوں کو آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے کہ آپ جب چاہیں ان سے سرگوشی کریں اور اپنے جذبات، خیالات اور اطلاعات ان تک پہنچائیں، موبائل فون کے بے شمار فوائد ہیں اور بے پناہ نقصانات بھی ہیں، یہ استعمال کرنے والے پر ہے کہ وہ اس کا استعمال نفع بخش کاموں کے لئے کر رہا ہے یا مضر مقاصد کے لئے۔ عقود و معاملات اور تجارت میں بھی موبائل فون کا استعمال کثرت سے ہو رہا ہے، مسلمانوں میں نکاح و طلاق، رشتہ جوڑنے اور توڑنے کے لئے موبائل فون کا استعمال بھی خوب ہونے لگا ہے اس سلسلے میں بہت سے نئے نئے سوالات سامنے آرہے ہیں اور علماء امت ان پر غور کر کے ان کے جوابات دے رہے ہیں۔

برطانیہ کے ایک باصلاحیت اور حوصلہ مند عالم دین جناب مولانا شبیر احمد عثمانی (اللہ تعالیٰ ان سے دین و ملت کی خوب خوب خدمات لے) نے اپنے فقہی ذوق و بصیرت کا استعمال کر کے موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق کے مسائل کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور اس موضوع کے وقوع پذیر اور امکانی سوالات کو یکجا کر کے اور فقہاء کی عبارتوں کی روشنی میں ان کے جوابات تحریر کر کے ایک اچھی کتاب تیار کر دی ہے۔

برطانیہ کے حالیہ سفر (رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ بمطابق ۲۰۱۱ء) کے موقع پر اس کتاب کے مسودہ کی مفصل فہرست دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، کچھ

مقامات پر جہاں مصنف کو کچھ کھٹک تھی ان کے ساتھ تبادلہ خیالات کا موقع ملا، کتاب اپنے موضوع پر جامع ہے اور بڑی حد تک مسائل کا احاطہ کرتی ہے، ہر مسئلہ میں استشہاد یا استیناس کے لئے فقہاء کی عبارات بھی پیش کی ہیں، اس طرح یہ اچھا مجموعہ تیار ہو گیا ہے۔

مسائل بالکل نئے ہیں اس لئے ان میں فکر و نظر اور رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن یہ تصنیفی کوشش اور کاوش بڑی قابل قدر ہے اور مصنف کے تابناک مستقبل کی غمازی کر رہی ہے، ہماری دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اس کتاب سے نفع پہنچے اور دربار خداوندی میں قبولیت سے سرفراز ہو اور مصنف کار ہوا قلم اپنی جولانیاں دکھاتا رہے۔

عتیق احمد قاسمی، دارو حال ڈیویز بری برطانیہ، ۲۱ رمضان المبارک ۱۴۳۲ھ، بمطابق ۲۱ اگست ۲۰۱۱ء۔

تقریظ

استاد مکرم حضرت مولانا مفتی یوسف ساچا صاحب دامت برکاتہم

(استاذ حدیث دارالعلوم دعوت الایمان، بریڈ فورڈ)

باسمہ تعالیٰ

حامدا و مصلیٰ و مسلما أما بعد

برادر عزیز مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سلمہ کی تالیف ”موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق“ کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ کتاب کو اپنے موضوع پر مفید پایا، مؤلف سلمہ نے مسائل کی تحقیق میں کافی محنت کی ہے اور حتی الامکان ہر مسئلہ کا حوالہ یا نظیر پیش کر کے مبرہن کرنے کی کوشش کی ہے۔

احقر نے بعض مقامات پر مشورہ دیا جو انہوں نے بطیب خاطر قبول کیا جو بہت خوبی کی بات ہے۔ چونکہ کتاب مسائل جدیدہ پر مشتمل ہے اس لئے اختلاف رائے کا ہونا بعید نہیں مع ہذا اپنے موضوع پر یہ کتاب کافی اہمیت کی حامل ہے۔

اخیر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مؤلف سلمہ کی اس خدمت کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس کا فائدہ عام و تام ہو۔ (آمین)

۲۹ جمادی الاخریٰ ۱۴۳۳ھ بمطابق ۲۱ مئی ۲۰۱۲ء

تقریظ

حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب دامت برکاتہم
(خطیب مدنی مسجد ڈیویز بری وسرپرست جمعیت علماء برطانیہ)

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم أما بعد

عزیزم مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب نے بڑی محنت کر کے ”موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق“ کے مقالہ میں فون کے استعمال کی شرعی و فقہی حیثیت سے بحث کی ہے اور اس میں وہ کامیاب رہے ہیں آنکھ کی تکلیف کی وجہ سے مقالہ کا بالاستیعاب مطالعہ نہ کر سکا جستہ جستہ چند مقامات کو پڑھا ماشاء اللہ بہت خوب لکھا ہے اللہ کرے زور قلم اور زیادہ ہو مفتی صاحب کے نانا مرحوم و مغفور حضرت علامہ عبدالمجید صاحب m فاضل دیوبند (خطیب جامع مسجد مدنی) سرانے عالمگیر پاکستان ایک جید عالم باعمل اور صالح شخصیت تھے میرے دوست اور بڑے بھائی کی طرح تھے ان کی والدہ صالحہ عابدہ حافظہ عالمہ ہیں والد گرامی حافظ محمد نذیر صاحب مہتمم مدرسہ حرا ڈیویز بری بڑے عاقل ہیں چھوٹے بھائی عالم بن رہے ہیں۔ ہمیشہ گان زیور علم سے آراستہ ہیں سرسراور بہنوئی بھی عالم غرضیکہ اس خانہ ہمہ آفتاب است کم توک الاول للآخر پہلوں سے پچھلوں کے لئے تحقیق کی بہت سی باتیں چھوڑی ایک انوکھے

موضوع پر مفتی صاحب نے قلم اٹھا کر اہل علم کو دعوت تحقیق دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما کر اپنے آباء اجداد کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین۔

امین دعا از من و از جملہ جہاں آمین بود

والسلام

عبدالرشید ربانی

سرپرست جمعیت علماء برطانیہ

خطیب مدنی مسجد ڈیویز بری

۱۰ فروری بروز جمعہ ۲۰۱۲ء

u

تقریظ

استاد مکرم حضرت مولانا محمد علی صاحب مدظلہ
(شیخ الحدیث مدرسہ تحفۃ القرآن، بولٹن)

باسمہ تعالیٰ

حامدا و مصلیٰ و مسلما أما بعد

جوں جوں زمانہ ترقی کرتا گیا تو نئی نئی ایجادات منظر عام پر آتی گئیں من جملہ ان میں سے آج کے دور کی کثیر الاستعمال و کثیر المنفعت ایجاد موبائل فون ہے۔ اس نئی تخلیق نے نہ معلوم کس قدر حیران کن پیچیدہ اور دقیق مسائل پیدا کر دیئے ہیں لیکن قربان جائیے اسلام کی ہمہ گیر تعلیم پر جس نے کوئی گوشہ اور کوئی میدان خالی و تشنہ نہیں چھوڑا جس میں انسانی ضروریات کی مکمل ہدایت اور رہنمائی نہ فرمائی ہو۔

بلاشبہ موبائل فون کی ایجاد نے دیگر مسائل کی طرح ایک نہایت دقیق اور پیچیدہ مسئلہ پیدا کر دیا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی موبائل فون کے ذریعے نکاح خوانی کرے یا بیوی کو طلاق دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

علمائے دین نے اور مفتیان کرام نے بڑی عرق ریزی اور بڑی جاں فشانی سے اصول شرع کی روشنی میں اس مسئلہ کا کافی اور شافی حل پیش کر کے امت پر ایک بڑا احسان فرمایا ہے (فجزاہم اللہ خیرا الجزا فی الدارین)۔ اس سلسلے کی ایک

کڑی ہمارے جواں عمر عالم و فاضل حضرت مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی صاحب (عمت فیوضکم) بھی ہیں انھوں نے اپنی خداداد صلاحیت کو بروئے کار لا کر بڑی جدوجہد اور عرق ریزی سے اس دقیق مسئلے کا حل اس کتابچے کی شکل میں پیش فرمایا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس میں دیگر اور نہایت ضروری مسائل کو بھی شامل فرمایا ہے علاوہ ازیں اس میں جید اور نامور علماء حضرات اور مفتیان کرام کے گراں قدر اقوال جمع کر کے ایک بیش بہا اور گراں قدر گلدستہ کی شکل و صورت میں امت کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ گراں قدر خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور قوم و ملت کی مزید خدمت کی سعادت نصیب فرمائے اور امت کے عوام و خواص کے لئے نفع بخش اور کارآمد بنائے آمین۔

والسلام

بندہ محمد علی

(بولٹن، برطانیہ)

۱۸ مارچ اتوار ۲۰۱۲ء

تقریظ

استاد مکرم حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب لاجپوری زید مجاہد

بسم الله الرحمن الرحيم

وحی و نبوت کا سلسلہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم d سے شروع ہوا اور چلتا رہا اور حضرت اقدس جناب نبی کریم ﷺ پر آ کر ختم کر دیا گیا اور اس اختتام کا قرآنی اعلان ان الفاظ میں ہوا: ”الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا“ آج میں پورا کر چکا تمہارے لئے تمہارا دین اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اور پسند کیا میں نے تمہارے لئے اسلام کو۔ دین اسلام کی تکمیل تو صدیوں پہلے ہو چکی اور اس دین کو قیامت تک باقی رہنا ہے اور زمانہ جوں جوں گذرتا جائے گا انسانی ضروریات کا دائرہ وسیع ہوتا جائے گا اور زندگی متحرک و تغیر پذیر ہے: ع

جاوداں، پیہم دواں، ہر دم رواں ہے زندگی

اور ان ضروریات کے ساتھ مسائل کی نئی نئی شکلیں سامنے آئیں گی۔ اب آپ ﷺ کی حیات طیبہ کے بعد انسان رہنمائی کس طرح اور کس سے حاصل کرے؟ قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا اس کا حل بتاتا ہے کہ: {فاعتبروا یا اولی الابلباب} اے بصیرت والو عبرت حاصل کرو۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے

اہل بصیرت کونت نئے مسائل کے حل کے لئے قیاس اور غور و فکر کا حکم دیا ہے۔ الحمد للہ ہر زمانہ میں علماء امت نے اس حکم ربانی کو سامنے رکھ کر جدید مسائل میں قرآن و حدیث اور فقہاء m کے اصول و علمی ذخیرے سے مسائل کا حل بخوبی نکالا ہے اور انشاء اللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔

بلا شک موجودہ دور سائنسی ترقی اور علمی اکتشاف کا دور ہے، حق تعالیٰ کی عطا فرمودہ عقل سے انسان نے ایسی چیزوں کو وجود بخشا کہ ماضی میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ان ایجادات میں ایک اہم حصہ ابلاغ اور مواصلات کے ذرائع میں ہونے والی حیرت انگیز ترقی کا ہے۔ کل تک جس آواز کا تھوڑا دور پہنچانا مشکل تھا آج ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فون نے ہزاروں میل کی دوری کو ایسا بنا دیا گویا کہ وہ سامنے ہے۔ ٹیلی فون بھی ان ایجادات میں ایک ایسی نفع بخش ایجاد ہے جو غمی، خوشی میں فوری شرکت کا بدل ہے۔

۱۸۷۶ء میں اسکاڈ لینڈ (برطانیہ) میں پیدا ہونے والے اور بعد میں بوسٹن یونیورسٹی امریکہ کے پروفیسر ”Alexander Graham bell“ نے فون کو ایجاد کیا (اس ۷۵ سالہ پروفیسر نے اور بھی کئی نئے کام کئے ہیں)۔ اور اب موبائل نے تو ترقی کی وہ منزل طے کی الامان والحفیظ۔ زمانے کی رفتار سے یہ اتنا عام ہو گیا کہ کیا غریب کیا امیر، کیا شہری کیا دیہاتی، ان پڑھ ہو یا تعلیم یافتہ ہر انسان کی لوازم زندگی کا ایک حصہ بن گیا۔ علماء امت نے اس نئے ایجاد کے مسائل کی ضرورت کو بھی نظر انداز نہیں کیا، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ٹیلی فون کے مسائل بھی لکھے۔

ہمارے رفیق محترم مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ و زادِ عملہ (جو

ماشاء اللہ با اخلاق، صاحب ذوق، علم دوست نوجوان عالم دین ہیں) نے ”موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق“ کے نام سے اپنے موضوع پر ایک کامیاب کتاب لکھی، راقم الحروف نے موصوف کے حکم پر اسے من و عن دیکھا، ماشاء اللہ کتاب اپنے موضوع پر بہت کچھ مواد لئے ہوئے ہے، اور مصنف نے باوجود جدید بحث کے فقہاء کے قدیم ماخذ سے دلائل کی جستجو میں اپنی امکانی کوشش سے دریغ نہیں کیا، فجزاء اللہ احسن الجزاء فی الدارين۔

کتاب صرف چند جزئیات کا مجموعہ نہیں بلکہ مقصد کے متعلق گفتگو کے گوشے دور دور تک پھیلے ہوئے، مثلاً: موبائل کا موجب، موبائل کی تعریف، موبائل کیسے استعمال ہوتا ہے، لینڈ لائن کیا ہے؟ ٹیکسٹ میسج کی تفصیل، نکاح کے معنی، نکاح کے فوائد و مقاصد، موبائل پر نکاح، ٹیکسٹ میسج کے ذریعہ نکاح، اس پر گواہ یا بغیر گواہ کے ایجاب و قبول، ٹیکسٹ میسج کے ذریعہ آمنے سامنے نکاح، ایک ٹیکسٹ پر ایجاب دوسرے پر قبول یا دوسرے پر انشاء اللہ سے استثناء، موبائل پر ایجاب اور عورت کا اسی مجلس میں قبول نہ کرنا، ٹیکسٹ سے مذاح میں ایجاب و قبول، ٹیکسٹ سے وکیل بنانا، فضولی کا ٹیکسٹ سے نکاح کروانا، اس کے ضمن میں ویڈیو کا نفرنگ کی تفصیل، موبائل فون پر مخطوبہ کی تصویر لینا جیسا جزئیہ، مسجد میں موبائل سے نکاح کی ویڈیو بنانا، نکاح کے خطبہ کے سلسلہ میں موبائل کے مسائل، سٹارٹ اپ اسکرین میں بیوی کی تصویر لگانا، جہیز میں دیا ہوا موبائل کس کی ملکیت ہے؟ اور اس کے علیحدہ مسائل، ریکارڈڈ ویڈیو سے حرمت مصاہرت، مہر کے مسائل، پھر اسی تفصیل سے طلاق کے مسائل وغیرہ پر مشتمل ایک مفید سے مفید تر مجموعہ الحمد للہ تیار ہو گیا۔ موبائل کے تعجب خیز آواز کے ارسال پر مصنف کا ”یاساریۃ الجبل“ سے استدلال بھی ذوق سلیم کا شاہد ہے۔

مصنف کی یہ پہلی کوشش ہے اور انتخاب بھی بہت عجیب و کارآمد اور زمانہ حاضر کی عین ضرورت، جو واقعی مرتب کے فقہی ذوق کا غماز۔

اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ جدید مسائل میں رائے کا اختلاف ممکن ہے، اس لئے صاحب ذوق علماء کرام و ارباب افتاء سے درخواست ہے کہ کسی مسئلہ میں آپ کی رائے مرتب سے مختلف ہو تو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ مزید غور کیا جاسکے، مجھے مرتب کی نیک طبیعت سے قوی امید ہے کہ قابل رجوع مسائل میں موصوف کو ذرا بھی ہٹ دھرم نہیں پائیں گے۔

اللہ تعالیٰ اس نافع کوشش کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور ناظرین کے لئے باعث خیر اور مرتب کے لئے ذخیرہ آخرت و ذریعہ نجات بنائے، آمین۔

مرغوب احمد لاچپوری

تقریظ

حضرت مولانا مفتی ریاض محمد بگلگرامی صاحب زیدہ مجددہ

اسلام ایک جامع ترین ضابطہ حیات ہے اور اصولی طور پر قیامت تک آنے والے تمام حوادث و نوازل کا حل اس میں موجود ہے، ہر زمانے میں علماء کرام اور فقہاء عظام نئے پیش آمدہ حوادث کا حل قرآن و حدیث اور فقہی نظائر کی روشنی میں پیش فرما رہے ہیں ہر نئی ٹیکنالوجی اور سائنسی تحقیق کچھ ایسے مسائل جنم دیتی ہے جن کا حل پیش کرنا وقت کے علماء کرام کا فریضہ بن جاتا ہے۔

موبائل بھی اسی سلسلہ کی ایک اہم کڑی ہے اور اپنے اندر بہت سے مسائل لئے ہوئے ہے، ایک تو موبائل زندگی کی اہم ضرورت بن چکا ہے، دوسرے اس سے متعلق مسائل کا تنوع بھی کافی زیادہ ہے۔ وقت کی ضرورت تھی کہ موبائل سے متعلق فقہی مسائل کو ان کے نظائر سے مدلل طور پر جمع کر دیا جائے۔ مولانا مفتی شبیر احمد عثمانی مدظلہ مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے زیر نظر کتاب تالیف فرما کر فرض کفایہ ادا کر دیا ہے۔ میں نے یہ کتاب اول تا آخر لفظ بلفظ پڑھی ہے جدید مسائل کے نظائر سے استخراج و استنباط پر نظر ڈالی ہے، میرے خیال میں موصوف نے اس موضوع پر وقیع کارنامہ سرانجام دیا ہے، کتاب کے سب مسائل مستند اور مدلل ہیں، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو دنیا میں قبولیت اور آخرت میں موصوف کے لئے ذریعہ نجات بنائے آمین۔

ریاض محمد بگلگرامی

دارالافتاء تعلیم القرآن راولپنڈی

۱۴۳۳ھ / ۲۵ / ۳

عرض مؤلف

الحمد لله الذى فضل العلماء على العابدين ، ولنشر
احكامه ورثهم الانبياء والمرسلين ، واعطى الدرجة
الفقهاء والمفتيين والمجتهدين ، والصلوة والسلام
على سيد الأولين والآخرين ، الذى بين فى حديثه
المبين: من يرد الله خيرا يفقهه فى الدين ، وعلى آله
واصحابه الذين هم فقهاء فى صحبة خاتم النبیین، وعلى
العلماء والفقهاء العاملين، والدعاة المخلصين، أما بعد

اپنی پہلی قلمی کاوش کو پیش کرتے ہوئے میرا قلب جذبات مسرت سے لبریز
ہے کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں عنایات اور نوازشات ہیں کہ جس نے مجھ جیسے
تہی دامن علم کو فتنہ کے اہم موضوع نکاح و طلاق پر قلم اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائی۔
جولائی ۲۰۰۹ء میں پی ایچ ڈی (P.h.d) کیلئے کسی مناسب موضوع کی تلاش میں تھا
کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ موبائل فون (Mobile Phone) کے موضوع پر
ایک ایسی کتاب تیار کی جائے جس میں موبائل فون (Mobile Phone) کے
ذریعہ نکاح و طلاق کے مسائل بیان کیے جائیں کیونکہ نکاح و طلاق پر تو بے شمار کتابیں

لکھی گئی ہیں لیکن موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ نکاح و طلاق پر کوئی کتاب احقر کی نظر سے نہیں گزری۔ نیز تحقیق کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ آج کل دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں لوگ موبائل فون (Mobile Phone) اور ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ طلاق دے رہے ہیں۔

موکوسپیس (Moco Space) کے سروے کے مطابق 57% لوگوں نے موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ آپس میں تعلقات توڑے ہیں جبکہ 48% لوگوں نے یہ کارنامہ ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ انجام دیا ہے۔^۱

ٹیکنالوجی (Technology) نے انسانی روابط کو یکسر تبدیل کر دیا ہے ماضی میں انسان کو ایک دوسرے سے روابط استوار کرنے اور توڑنے کیلئے ایک دوسرے کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن آج اس ٹیکنالوجی (Technology) کا سہارا لے کر وہ روابط کو توڑنے کی دوڑ میں مشغول دکھائی دیتا ہے۔ آج دنیا کے بیشتر ممالک میں موبائل فون (Mobile Phone) اور ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ طلاق دینے کی شرح میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے جن میں سعودیہ عرب، مصر، ملیشیا، عمان، سنگاپور، دبئی اور انڈیا سرفہرست ہیں۔ ملیشیا میں اس کی شرح میں اضافہ ہونے کی وجہ سے موبائل فون (Mobile Phone) یا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ طلاق دینے والے پر بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح حال ہی میں جدہ کی عدالت نے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ دی گئی طلاق کو جائز قرار دیا ہے۔^۲

۱- <http://technologyexpert.blogspot.com/2010/02/break-ups-via-sms-near-50-percent.html>

۲- <http://archive.arabnews.com/?page=24§ion=0&article=121367>

سنگاپور میں موبائل فون (Mobile Phone) اور ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ طلاق پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ آل وائس (All voices) آن لائن (Online) اخبار کے مطابق عمان میں صرف ۲۰۰۷ء میں ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ طلاق دینے کے 450 کیس رونما ہوئے لہذا عدالت نے موبائل فون (Mobile Phone) اور ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ دی گئی طلاق کو جائز قرار دے دیا ہے۔^۱

آن لائن (Online) جریدۃ الریاض کے مطابق مصر میں موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ طلاق کے کیسوں (Cases) میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے کہ سالانہ موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ دی گئی طلاقوں کی تعداد 65000 سے تجاوز کر چکی ہے ہر روز 180 اور ہر گھنٹے میں 15 کیسز (Cases) موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ طلاق کے رونما ہوتے ہیں۔^۲

ڈاکٹر صبیحہ حسین (جامعہ ملیہ اسلامیہ انڈیا) کی تحقیق کے مطابق آج کل زیادہ مرد ٹیکسٹ میسج (Text Message) اور ای میل (Email) کے ذریعہ طلاق دے رہے ہیں۔ انڈیا میں ۲۰۰۷ء میں 15 طلاقیں ای میل، (Email) ایس ایم ایس (S.M.S) اور موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ دی گئیں۔^۳

ایک اور سروے کے مطابق ملیشیا میں 22% فی صد لوگوں نے اپنی بیویوں کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دی ہے۔^۴

۱- <http://www.allvoices.com/contributed-news/5175349-divorce-via-sms-in-jordan>

۲- <http://www.alriyadh.com/2009/08/19/article453269.html>

۳- http://www.thaindian.com/newsportal/health/tabq-via-sms-email-un-islamic-say-muslims-scholars_10016610.html

۴- http://zh-hk.facebook.com/note.php?note_id=14756929231

دوران تحقیق ایک عجیب بات بھی سامنے آئی کہ جہاں علماء کی اکثریت موبائل فون (Mobile Phone) اور ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ دی گئی طلاق کو جائز قرار دیتی ہے وہاں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو ٹیکنالوجی (Technology) کے ذریعہ دی گئی طلاق کو نہیں مانتا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی (Technology) کے ذریعہ طلاق نہیں دی جاسکتی۔ لہذا اگر کوئی دے گا تو واقع نہیں ہوگی جب کہ وہ چاقو اور ریموٹ (Remote) سے کیا گیا نقل یکساں مانتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ وہ موبائل فون (Mobile Phone) اور ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ دی گئی طلاق کو نہیں مانتے؟ جس طرح ایک ریموٹ (Remote) انگلی کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح ایس ایم ایس (S.M.S) بھی ہاتھ کی انگلیوں کا محتاج ہوتا ہے لہذا ان کا یہ کہنا ٹھیک نہیں اس لئے کہ طلاق چاہے قلم سے دی جائے یا موبائل فون (Mobile Phone) یا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ دی جائے یکساں ہے۔ صرف دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ شوہر انکار نہ کرے۔ اگر شوہر موبائل فون (Mobile Phone) یا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ دی گئی طلاق کا انکار کرے اور وہاں کوئی گواہ بھی نہ ہوں تو فیصلہ شوہر کے حق میں کر دیا جائے گا۔ یا کسی اور نے اس کی بیوی کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) بھیجا ہے تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ ٹیکسٹ میسج (Text message) قلم کی ایک جدید قسم ہے فرق فقط اتنا ہے کہ انسان اس سے کاغذ پر لکھتا ہے جب کہ میسجز (Messages) کو ہاتھ کی انگلیوں سے ٹائپ کیا جاتا ہے۔

الاسلام سوال و جواب کے عمومی نگران شیخ صالح المنجد سوال نمبر ۷۲۹۱ کے جواب میں رقم طراز ہیں کہ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ لکھنے سے طلاق واقع ہو جاتی

ہے اس لئے کہ لکھنا بعض اوقات بولنے کے قائم مقام ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط کے ذریعے بادشاہوں کو تبلیغ کی ہے۔^۱

اور سوال نمبر ۷۰۴۶۰ میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ چاہے شوہر اپنی بیوی کو کاغذ پر یا موبائل فون یا ایس ایم ایس (S.M.S) یا ای میل (Email) کے ذریعہ طلاق دے اگر اس نے طلاق کی نیت کی ہے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی اور بدون النیۃ طلاق نہیں ہوگی۔^۲

دارالافتاء دیوبند کی آن لائن ویب سائٹ (Online Website) میں سوال نمبر ۷۶۷۱۲ کے جواب میں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔^۳

بہر حال طلاق چاہے کاغذ پر ہو یا موبائل فون (Mobile Phone)، یا فیکس (Fax) یا ای میل (Email) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ دی جائے واقع ہو جاتی ہے۔

ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ نکاح و طلاق پر کتاب لکھی جائے گو کہ تکمیل کتاب میں صرف مہینہ صرف ہوا لیکن اپنی نااہلی، کم علمی کا احساس اور عدم الفرصتی کا روگ بہت عرصہ تک ارادہ اور تکمیل ارادہ میں حائل رہا۔ تاہم میں اپنے خالق و مالک کا شکر گزار ہوں اور میرے بدن کا ہر عضو اس کے حضور سجدہ ریز ہے کہ اس نے یہ کتاب پایہ تکمیل تک پہنچانے میں میری مدد فرمائی۔

۱- <http://www.islam-qa.com/en/ref/72291>

۲- <http://www.islam-qa.com/en/ref/70460>

۳- <http://www.darulifta-deoband.org/viewfatwa.jsp?ID=14767>

اَللّٰهُمَّ! لَكَ الْحَمْدُ الَّذِيْ اَنْتَ اَهْلُهُ
عَلٰى نَعَمٍ مَا كُنْتُ قَطُّ لَهَا اَهْلًا
اِنْ زِدْتُ تَقْصِيْرًا تَزِدْنِيْ تَفْضُلًا
كَأَنِّيْ بِالتَّقْصِيْرِ اَسْتَوْجِبُ الْفَضْلًا

اس کتاب میں ہر مسئلہ کے ساتھ حوالہ دیا گیا ہے۔ میں اپنی کم علمی، کم فہمی اور تالیفی فن سے ناتجربہ کاری کا معترف ہوں۔ اس کتاب میں موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ نکاح و طلاق سے متعلق جو مسائل لکھے گئے اگر وہ صحیح ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں اور اگر ان میں اسقام و تسامحات ہیں تو وہ میری کم علمی اور کج قلمی کی وجہ سے ہیں۔

(وان یک صوابا فمن الله ورسوله وان یک خطا فمني ومن الشیطن۔ اللہ

ورسوله بریشان)

اہل علم کو احقر کی رائے سے اختلاف کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے کیونکہ نئے مسائل پر غور و فکر کرنے سے کئی پہلو سامنے آتے ہیں اور ان امور پر رائے حتیٰ نہیں ہوتی۔ لہذا اہل علم سے عاجزانہ التماس ہے کہ اصلاح طلب امور پر اس تہی دامن علم کو مطلع فرمائیں۔ آخر میں راقم الحروف بارگاہِ صمدیت میں اس دعا، درد مندانہ التجا اور فقیرانہ صدا کے ساتھ یہ کتاب قارئین کے حوالہ کرتا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین اس کتاب کو علماء اور عامۃ المسلمین کے لئے مفید بنائے اور احقر کے والدین، اساتذہ عظام، بہن بھائیوں اور دوست و احباب کے لئے توشہ آخرت، وسیلہ نجات، جنت میں دخول اور جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے۔ اگر کسی شخص کو اس کتاب سے نفع ہو تو وہ احقر کو حیا و مینا دعاؤں میں یاد رکھے۔

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔

شبیر احمد عثمانی

(خادم مدرسہ و دارالافتاء الحراء، ڈیویز بری، برطانیہ)

مدرسہ نمبر: 0044 1924412315

موبائل نمبر: 0044 7783465233

ای میل: daruliftahira@hotmail.co.uk

2 William Street

Staincliffe Dewsbury

WF13 4AY

United Kingdom

u

ہدیہ تشکر و امتنان

أَشْكُرُ النَّاسَ لِلَّهِ أَشْكُرُهُمْ لِلنَّاسِ (الحديث)

میں اپنے رحمن و رحیم داتا و مولارب ذوالجلال کے سامنے سجدہ شکر کے بعد ان تمام اکابرین و بزرگوں کا تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے اس حقیر سی کاوش کی حوصلہ افزائی صرف اپنی قیمتی آراء و تقریظات سے ہی نہیں فرمائی بلکہ اپنے دست شفقت کا ہاتھ میرے سر پر رکھ کر اور دعاؤں کا گلدستہ میرے دامن میں سجا کر اپنے بڑے پن اور وسیع الظرفی کا ثبوت دیا۔ ان بزرگوں کی ہمت افزائی سے میرے حوصلے کو تقویت ملی اور تحقیقی، علمی اور تخلیقی میدان میں خدمات پیش کرنے کی ہمت ہوئی۔ ان حضرات کی مخلصانہ کرم فرمائیوں سے جہاں مجھے اپنی کم علمی، کم فہمی اور بے بضاعتی کا اعتراف تھا وہیں اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ یہ مخلصین اکابر تعصب و نفرت سے بالائے طاق ہو کر دین کی خدمت کرنے والے سے پیار و محبت فرما کر اسے تحقیقی و علمی میدان کا شہسوار بنانا چاہتے ہیں۔ خواہ وہ کسی بھی رنگ و نسل اور کسی ملک کا باشندہ ہو۔

کتاب کو اشاعت تک پہنچنے کے لئے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یہ بے لوث محبت کرنے والوں کا حق ہوتا ہے جو کسی مرحلہ میں مؤلف سے تعاون کریں

کہ خوبصورت الفاظ کے ساتھ ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کیا جائے چنانچہ۔۔۔۔۔ سب سے پہلے میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے احقر کو قلم پکڑنا سکھایا اور میری تربیت میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جن کے سایہ شفقت و محبت کے طفیل مجھے کڑکتی دھوپ میں چھاؤں ملی۔ جب کبھی مجھے مسائل کے سمجھنے میں دشواری محسوس ہوئی تو میں اپنی والدہ محترمہ کے پاس جاتا اور ان کی خدمت میں عرض کرتا کہ ماں جی مجھے فلاں مسئلہ سمجھ میں نہیں آرہا آپ دعا کیجیے ناں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی بدولت میرا سینہ کھول دیتے۔ آج اگر بابا جان حضرت حافظ بشیر احمد صاحب دامت برکاتہم کی حوصلہ افزائی اور دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتیں تو شاید میں یہ کام کبھی سرانجام نہ دے پاتا۔ جب کبھی کسی بزرگ کی رائے یا تقریظ میرے پاس پہنچتی تو میں اپنے والدین کو اس کو پڑھنے کے لئے بے چین پاتا، پڑھنے کے بعد ان کا چہرہ خوش سے کھل اٹھتا اشک بھری آنکھوں سے میری کامیابی کے لئے دعا کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان کا سایہ شفقت احقر کے سر پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بہنوں اور بھائی حضرت مولانا قاری ابوذر سلمہ اللہ تعالیٰ کا بھی بے حد مشکور ہوں جن کی حوصلہ افزائی سے حقیر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکا۔ بالخصوص اپنی چھوٹی بہن کا جنہوں نے موبائل فون (Mobile Phone) کی ممکنہ صورتوں کے بارے میں میری رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح میں اپنے بہنوئی حضرت مولانا عامر الیاس صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موبائل فون (Mobile Phone) سے متعلق معلومات فراہم کیں (بالخصوص ہاتھی کا دوسرے ہاتھی کی آواز کو بغیر آلہ کے میلوں دور سے سنا، جس کی تفصیل کتاب کے مقدمہ میں بیان کر دی گئی ہے)۔ علاوہ ازیں میں اپنے ماموں حضرت مولانا محمد امین

صاحب (خطیب جامع مسجد مدنی سرانے عالمگیر، پاکستان) کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن کی دعاؤں، حوصلہ افزائی اور پُر خلوص تعاون سے احقر اس کام کو سرانجام دینے میں کامیاب ہو سکا۔

میں حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم (جو کسی تعارف کے محتاج نہیں) کا انتہائی ممنون ہوں جنہوں نے اپنی تمام تر مصروفیات کو نظر انداز کر کے نہ کہ صرف کتاب کے مسودہ کو حیدر آباد کی طرف جاتے ہوئے سفر میں پڑھا بلکہ ٹیلی فون (Telephone) پر بھی حقیر کی رہنمائی فرماتے رہے اور پھر احقر کی جس انداز میں حوصلہ افزائی فرمائی وہ حضرت والا کے بڑے پن اور الطاف و عنایات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نیز حضرت والا کا کتاب میں کی گئی تحقیق پر اظہار اتفاق احقر کے لئے قابل اعزاز اور سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ بڑی احسان فراموشی ہوگی کہ اگر میں حضرت مولانا عتیق احمد صاحب بستوی قاسمی مدظلہ کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے نہ کہ صرف اپنی قیمتی تقریظ تحریر فرما کر احقر کی حوصلہ افزائی فرمائی بلکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں برطانیہ کے سفر کے دوران احقر کو چند مگر قیمتی لمحات سعیدہ عنایت فرمائے جن کے دوران حضرت والا نے مفید آراء سے نوازا۔ حضرت کے ساتھ بیٹے ہوئے لمحات میرے دامن میں ہمیشہ مہکتے رہیں گے۔

نیز راقم الحروف ”علم“ کی راہ دکھلانے والے، ”عمل“ کی رغبت دلانے والے، ”محنت“ کا درس دینے والے، ”رہنمائی“ کا حق ادا کرنے والے ”مصائب و مشکلات“ میں دلا سہ دینے والے اپنے مشفق و مہربان استاد محترم حضرت مولانا مفتی یوسف ساچا صاحب مدظلہ (استاذ حدیث دارالعلوم دعوۃ

الایمان، بریڈ فورڈ) کا زیر بار احسان ہے جن کی سرپرستی میں حقیر نے تخصص کیا اور صحبت مقدس اور حوصلہ افزائی کے طفیل اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکا۔ حضرت والا نے کینیڈا کے سفر کے دوران زیر نظر کتاب ”موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق“ کو بھی بنظرِ غائر ملاحظہ فرمایا اور اصلاح طلب امور پر نشاندہی فرمائی۔ مزید یہ کہ اپنی تدریسی، قلمی، ذاتی اور دارالافتاء کی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی بیش بہا تقریظ سے نوازا۔

بڑی ناسپاسی ہوگی اگر اس موقع پر حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر عبدالواحد صاحب (مفتی جامعہ مدنیہ، لاہور) اور حضرت مولانا ثمیر الدین صاحب (مانچسٹر) مدظلہم کا شکریہ ادا نہ کروں جنھوں نے اس مسودہ کو باوجود مشغولیت کے پڑھا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ اسی طرح حضرت مولانا مفتی رضوان صاحب، مولانا مفتی یونس صاحب (ادارہ غفران، راولپنڈی) اور برادرِ مکرم مولانا مفتی سمیع اللہ صاحب مدظلہم (مفتی جامعہ فاروقیہ، کراچی) کا بھی شکر گزار ہوں جنھوں نے کتاب کے مسودہ کو لفظ بلفظ پڑھا اور مفید مشوروں سے نوازا۔ ان کے علاوہ میں حضرت مولانا مفتی ریاض محمد بگلرامی صاحب مدظلہ (مفتی دارالعلوم تعلیم القرآن، راولپنڈی)، استاد محترم حضرت مولانا محمد علی صاحب (شیخ الحدیث مدرسہ تحفیظ القرآن، بولٹن) اور حضرت مولانا عبد الرشید ربانی صاحب مدظلہ (خطیب مدنی مسجد ڈیویز بری و سرپرست جمعیت علماء برطانیہ) کا بھی مشکور ہوں جنھوں نے تقریظ تحریر فرما کر راقم کی ڈھارس باندھی۔

کتاب ہذا کے اجر و ثواب میں میرے مربی و استاد حضرت مولانا احسان الحق صاحب قدس اللہ سرہ (مہتمم مدرسہ فیض القرآن، بلال مسجد، گوجرانوالہ، متوفی

۲۹ فروری، ۲۰۱۲ء) یقیناً برابر کے شریک ہیں جن کی احقر کو مشاورت اور معاونت حاصل رہی۔ جب راقم نے حضرت کو تقریظ کی درخواست کی تو اپنے مخصوص انداز میں پنجابی میں فرمایا کہ ”ماں ٹوں ٹویں مسکلیاں دی کی سمجھ اے“ (مجھے نئے مسائل کی کیا سمجھ ہے) اللہ تعالیٰ نے موصوف کو تواضع و انکساری کی عظیم نعمت سے نوازا رکھا تھا۔ اگر آج وہ بقید حیات ہوتے تو میری اس حقیر کاوش پر مسرور و شاداں ہوتے۔ مگر۔

اے بسا آرزو کہ خاک شدہ

سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق برادر مکرم حضرت مولانا مرغوب احمد صاحب لاچپوری (ڈیوڑبری) زید مجدہ ہیں جنہوں نے کتاب کے اس مسودے کو سہ بار عمیق نظر سے پڑھا اور نہ کہ صرف اپنی قیمتی تقریظ لکھ کر کتاب کو زینت بخشی بلکہ احقر کی کتاب کی سیٹنگ اور دیگر طباعتی امور میں بھی خصوصی دلچسپی لے کر احقر کے ساتھ تعاون فرمایا۔ اسی طرح مولانا عبدالحی سیدات صاحب مدظلہ (باٹلی) کا بھی شکر گزار جنہوں نے کتاب کی سیٹنگ کے دوران حقیر کی سرپرستی فرمائی۔ (فجزاہم اللہ عنی جمیعاً)

میں اس موقع پر اپنے دوست عرفان شریف صاحب (سرائے عالمگیر)، اپنے رفیق حضرت مولانا احسن صاحب (مدرس جامع عربیہ امینیہ سرائے عالمگیر، پاکستان)، حضرت مولانا اشرف علی صاحب مدظلہ (مہتمم دارالعلوم تعلیم القرآن، راولپنڈی) اپنے عزیز اطہر افضل صاحب کو کیسے بھول سکتا ہوں جن کی ان تھک محنتوں سے یہ کتاب پڑھنے کے مرحلے سے گزر کر قارئین کے ہاتھوں میں پہنچی ہے۔ (حفظہم اللہ و جزاہم عنا خیر الجزاء)

بڑی نا انصافی ہوگی اگر میں مجسمہ صبر و رضا اور سراپا مہر و وفا اپنی رفیقہ حیات کا شکریہ ادا نہ کروں جنہوں نے گھر کی تمام تر ذمہ داریوں کو اپنے سر لے کر تالیف کتاب کے دوران میرے لئے پرسکون ماحول فراہم کیا تاکہ میں یکسوئی کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا سکوں۔ ہر موقع پر میری رہنمائی اور حوصلہ افزائی فرماتی رہی نیز انہوں نے میرے ساتھ سفر کے دوران موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ پیش آنے والی ممکنہ صورتوں کی ایک لمبی فہرست تیار کی (جس کو احقر نے اس کتاب میں شامل کر لیا ہے)۔ ابھی رات کے دو بج رہے ہیں اور وہ میری قلم کے رکنے کی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ جس طرح اس نے ہم دونوں کو اس دنیا میں جمع کیا اسی طرح وہ ہمیں جنت میں بھی جمع کرے۔

ان تمام اہل علم کا بھی شکر گزار ہوں جن سے بندہ کا بذریعہ ای میل، (Email) مراسلت و کتابت اور ٹیلیفون (Telephone) کے مسائل کا تبادلہ ہوتا رہا اور انہوں نے حقیر کو مفید مشوروں سے نوازا بالخصوص حضرت مولانا زکریا اشرف صاحب زید مجدہ (اسلام آباد) جنہوں نے مجھے ٹیلیفون (Telephone) پر نکاح سے متعلق فتویٰ (جو کہ دارالافتاء والا ارشاد کراچی سے صادر کیا گیا تھا) بذریعہ ای میل (Email) ارسال کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے اس کتاب کی پروف ریڈنگ کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دیا۔ ان کے علاوہ ان تمام احباب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے احقر کے ساتھ کس طرح کا بھی تعاون فرما کر خلوص و محبت کا حسین و جمیل گلدستہ دامن میں سجایا۔

(فجز اہم اللہ عنی جمیعا)

آخر میں اپنے محترم جناب جاوید شاہ صاحب، ان کی اہلیہ (کینیڈا) اور اپنی خالہ جان (لیڈز) کا تہہ دل سے مشکور ہوں جن کے پر خلوص تعاون اور دریادلی سے یہ کتاب قارئین کے ہاتھوں کی زینت بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فیاضی کے طفیل ان کو دنیا میں راحت و سکون اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔

البد الضعیف

شبیر احمد عثمانی

u

موبائل فون۔ ایک تعارف

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان گنت اور لامتناہی نعمتوں سے نوازا ہے اگر ہم ان نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَإِنْ تَعْلُوا نَعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا“

(آیت نمبر، ۳۴، سورۃ ابراہیم، پارہ، ۱۳)

ترجمہ: اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے۔ (ترجمہ ختم)

پھر ان نعمتوں میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عقل ہے جس کے ذریعہ آج انسان نت نئی ایجادات کر رہا ہے۔ جس کے ذریعے اس کی زندگی میں آسانیاں اور راحتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ جن میں آلات جدیدہ کمپیوٹر، انٹرنیٹ، اور آمدورفت کے ذرائع قابل ذکر ہیں۔ انہی ایجادات و اختراعات میں سے ایک ایجاد موبائل فون (Mobile Phone) ہے۔

اکیسویں صدی کی حیران کن سائنسی ترقی کے انقلاب نے دنیا کو ایک عالمی گاؤں (Global village) بنا دیا ہے۔ اس انقلاب نے فاصلے کم کر کے دوریاں ختم کر دی ہیں۔ ترقی کی اس دوڑ نے انسانی زندگی کو اس حد تک مشینی بنا دیا ہے کہ اب ہر چیز قابل رسائی لگنے لگی ہے۔ خاص طور پر موبائل فون (Mobile Phone) نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اس نے نہ صرف معاشرے کو متاثر کیا ہے بلکہ اس کے گہرے

اثرات انسانی سوچ، انفرادی، ازدواجی و کاروباری زندگی اور غور و فکر کے طریقوں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ سائنوویت (Synovate) کے سروے کے مطابق 66% لوگ اپنے موبائل فون (Mobile Phone) کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتے جبکہ 62% لوگ موبائل فونز (Mobile Phones) اپنے پاس رکھ کر سوتے ہیں۔^۱

مادیت کے پیچھے چلنے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آواز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنا کسی آلہ کے بغیر ممکن نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی کام مشکل یا ناممکن نہیں وہ چاہے تو امام الرسل والانیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کروا دے چاہے تو ہادی الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پڑی ہوئی کنکریوں سے تسبیح پڑھوا دے چاہے تو پرندے سے پیغام رسانی کا کام لے لے چاہے تو حضرت عمر h کی آواز کو مدینہ کے منبر سے عراق میں پہنچا دے۔ حضرت عمر h نے اپنے دور خلافت میں حضرت ساریہ کی قیادت میں ایک فوج عراق کی جانب روانہ فرمائی حسب معمول آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ خطبہ چھوڑ کر آپ نے دو یا تین مرتبہ فرمایا:

”یا ساریۃ الجبل الجبل من استرعی الذئب فقد ظلم“۔^۲

ترجمہ: ”اے ساریہ پہاڑ کی پناہ میں آ جا جس نے بھیڑیے کو بکریوں کا چرواہا بنایا اس نے بکریوں پر ظلم کر دیا۔“ (ترجمہ ختم)

لوگوں کو اس وقت بڑا تعجب ہوا کہ آپ خطبہ کے دوران ایک غیر متعلق اور بے ربط بات کیوں کہہ رہے ہیں نماز کے بعد جب حضرت عبدالرحمن بن عوف نے اس

۱- http://zh-hk.facebook.com/note.php?note_id=147569292312

۲- کنز العمال، ج، ۱۲، ص ۷۷۵

کا سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے درمیان خطبہ ساریہ اور اس کی فوج کو دیکھا قریب تھا کہ ساریہ کی فوج خطرے سے دوچار ہو مجھ سے رہا نہ گیا میں نے ساریہ کو آواز دی پہاڑ کی اوٹ میں آ جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ کا قاصد فتح کی خوشخبری لے کر آیا تو ساتھ ہی حضرت ساریہ کا یہ پیغام دیا کہ ہم نے لڑائی کے عین اس وقت جب ہم دشمن کے زرعے میں آنے والے تھے کہ ایک آواز سنی جس میں ہمیں پہاڑ کی اوٹ میں آنے کے لئے کہا گیا چنانچہ ہم اس آواز پر پہاڑ کی اوٹ میں آئے اور لڑائی کا پانسہ پلٹ گیا اور دشمن کا لشکر منتشر ہو گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فتح اور ہمارے دشمنوں کو شکست دی۔

حضرت عمر h جس وقت خطبہ دے رہے تھے آپ مدینہ میں تھے جبکہ حضرت ساریہ عراق میں ان دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً ۱۵ سو میل کا فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر h کے لئے راستے کے سارے حجاب اٹھا دیئے اور آپ نے عراق میں جنگ کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ آپ کا کشف تھا آپ نے وہیں سے حضرت ساریہ کو آواز دی اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز حضرت ساریہ تک پہنچا دی یہ آپ کی کرامت تھی۔^۱

ہمیں حضرت عمر h کے اس واقعہ سے پتہ چلا کہ آواز کا دوسرے تک پہنچنا فقط آلہ پر موقوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ بغیر آلہ کے بھی کسی کی آواز کو دور دراز تک پہنچا دے۔

موبائل فون (Mobile Phone) پر آواز کا بغیر تار کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا کوئی انوکھی بات نہیں بلکہ ہاتھی ایک دوسرے سے بغیر آلہ کے رابطہ

کرتے ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر اوکائل راڈویل (Dr Caitlin O'Connell-Rodwell) کی تحقیق کے مطابق جب ہاتھی آواز نکالتا ہے تو اس کی آواز نہ صرف ہوا میں سفر کرتی ہوئی دوسرے مقام تک پہنچتی ہے بلکہ زمین کے رستے سے بھی جہاں ہاتھی کھڑا ہوتا ہے وہاں تک پہنچتی ہے اور ہاتھی آواز کی لہروں کو اپنے پیر کے ذریعہ محسوس کرتا ہے اور اس کی آواز میلوں دور دوسرے ہاتھیوں تک نہ صرف پہنچتی ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کی آوازوں کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان ایک دوسرے کی آوازوں کو پہچانتا ہے۔^۱

ایجادات کو اپنی ملکیت اور کارنامہ سمجھنے والے یہ بھول گئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں خالق کائنات نے اپنی قدرت سے پیدا کر کے ہمیں ان کی بادشاہت سپرد فرمائی ہے ہم اس کائنات کے خالق و مالک نہیں اور نہ ہم نے محض اپنی طاقت اور قوت سے ان چیزوں کو مسخر کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ان چیزوں کو مسخر اور خدمت گار بنا دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ^۲

ترجمہ: ”کیا انھوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے لئے ان چیزوں میں سے جو ہمارے ہاتھوں نے پیدا کیں مویشی پیدا کئے ہیں وہ ان کے مالک ہیں۔ اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کا فرمانبردار بنا دیا ہے سو ان میں بعض ایسے ہیں جو ان کی سواریاں

۱۔ http://biology.suite101.com/article.cfm/elephant_communication

۲۔ آیت نمبر ۷۱، سورۃ یس، پارہ ۲۳

ہیں اور بعض ایسے ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں۔“ (ترجمہ ختم)
نوٹ: ”خلق“ ایجاد بغیر توسط آلہ کو کہتے ہیں جب کہ ”تسخیر“ کے معنی موجودہ شے کو
ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کرنے کے ہیں۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) کا موجد

مارٹن کوپر (Martin Cooper) کوئی بہت معروف نام نہیں لیکن دنیا کی
آدھی سے زیادہ آبادی ان کی ایجاد سے آشنا ہے۔ فون (Phone) ہاتھ میں لے کر
گھومنے کا خیال ان ہی کے ذہن میں آیا تھا اور پھر موٹرولا (motorola) کی ٹیم کے
ساتھ انھوں نے 1973ء میں پہلا دستی ٹیلی فون (Telephone) بنایا جس کا وزن دو
کلو تھا۔ نیویارک (New York) کی ایک سڑک پر جب انھوں نے اس دستی فون
(Phone) سے پہلی کال (Call) کی تھی اس وقت وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ
ایجاد اتنی مقبول اور عام ہو جائے گی۔ ان دنوں دنیا بھر میں ایسی صنعتوں کا جال بچھ گیا
ہے جو موبائل فون (Mobile Phone) کی مختلف ٹیکنالوجیز (Technologies)
کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ 1983ء تک ایک موبائل فون (Mobile Phone) کی
قیمت چار ہزار (4000) تھی جو ڈالر کی آج کی قدر کے لحاظ سے دس ہزار بنتے ہیں۔
کوپر (Cooper) نے کہا کہ ان کی ٹیم کو جو بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ ہزار کی تعداد میں
آلات کے حجم کو کم سے کم کرنا تھا۔ انھوں نے کہا کہ صنعتی ڈیزائنز (Designs) بنانے
والوں نے یہ کام کر دکھایا اور جب تک وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوئے ان کے پاس
صرف چند ڈالر بچے تھے۔ اس نئے فون (Phone) کا دراصل ایک بڑا حصہ اس

بیٹری (Battery) پر مشتمل تھا اور اس کا وزن باقی فون (Phone) کے مقابلے میں چار سے پانچ گنا زیادہ تھا۔ اس بیٹری (Battery) کی زندگی صرف بیس منٹ تھی لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا کیونکہ فون (Phone) کا وزن اتنا تھا کہ اس کو کوئی اتنی دیر تک کان سے لگا کر بات نہیں کر سکتا تھا۔

اس وقت نیا چیلنج یہ تھا کہ کس طرح ایک ایسا نیٹ ورک (Network) یا نظام بنایا جائے جو تین میگا ہرٹز (Megahertz) یا پانچ چینلز (Channels) کے برابر ایک قوس بنائے اور جو اس وقت کی ضرورت کے مطابق پوری دنیا کا احاطہ کر لے۔ مارٹن (Martin) نے بی بی سی (BBC) کے پروگرام کلک (Click) میں بتایا کہ پہلا موبائل فون (Mobile Phone) بنانے پر موٹولا (motorola) کا تقریباً دس لاکھ خرچا آیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ وہ تمام انجینئرز (Engineers) جو اس فون (Phone) پر کام کر رہے تھے انھیں حقیقتاً متعین کر رکھا گیا۔ ہم مذاق کرتے تھے کہ مستقبل میں جب کوئی پیدا ہوگا تو اسے ایک موبائل نمبر (Mobile Number) دیا جائے گا اور جس دن اس کے موبائل فون (Mobile Phone) سے جواب آنا بند ہو گیا یہ سمجھا جائے گا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔^۱

ٹیکسٹ میسج (Text Message)

اب موبائل فون (Mobile Phone) بغیر تار کے صرف آواز منتقل کرنے کا آلہ ہی نہیں رہا بلکہ یہ بہت ساری سہولیات کا مجموعہ بن چکا ہے ان فیچرز (Features) میں سے کیمرہ (Camera) میسجز (messages) وائس میسج

۱۔ http://www.bbc.co.uk/urdu/world/2010_mobile_creator.shtml0042

(Voice Message) موبائل فون (Mobile Phone) میں انٹرنیٹ (Internet) کا استعمال، گیمز (Games) ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) اور ویڈیو کانفرنسنگ (video conferencing) سرفہرست ہیں۔ موبائل فون (Mobile Phone) کے فیچرز (Features) میں سے سب سے زیادہ پذیرائی ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو ہوئی ہے۔ چند سیکنڈ میں انسان ایک ملک سے دوسرے ملک موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ پیغام ارسال کر سکتا ہے۔

یوں تو پیغام رسانی کا سلسلہ حضرت آدم d سے شروع ہے لیکن پیغام رسانی کے طریقے ہر دور میں تبدیل ہوتے رہے کبھی فرشتوں سے پیغام رسانی کا کام لیا گیا کبھی انسانوں سے، کبھی پرندوں سے اور کبھی ڈاک کے ذریعہ۔ چنانچہ قرآن مجید نے ایک پرندے کے خط پہچانے کا واقعہ یوں ذکر کیا ہے۔

حضرت سلیمان d نے ہد ہد کو نہ پا کر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا الا یہ کہ وہ اپنی غیر حاضری کا معقول عذر بیان کرے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہد ہد آ گیا اس نے کہا کہ میں ملک سبا میں چلا گیا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں عورت کی بادشاہت چلتی ہے وہ اور اس کی قوم اللہ تعالیٰ کی اکیلی ذات کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کرتے ہیں جب ہد ہد اپنا بیان ختم کر چکا تو حضرت سلیمان d نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں اور تو جا کر اس خط کو وہاں ڈال دینا جہاں ملکہ سبا اور اس کے درباری بیٹھتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَاَلْقِهٖ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا

یَزَّجْعُون^۱

ترجمہ: ”میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کے پاس ڈال دے پھر ہٹ جانا پھر دیکھنا کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں۔“ (ترجمہ ختم)

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان d نے ایک پرندے سے پیغام رسانی کا کام لیا تھا۔

اسی طرح بغداد میں عباسی خلفاء نے پرندوں سے پیغام رسانی کا کام لینا شروع کیا جب انھوں نے یہ بات نوٹ کی کہ پرندے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں وہ اپنے مقام پر واپس آ جاتے ہیں۔^۲

موبائل فون (Mobile Phone) کی تعریف

موبائل فون (Mobile Phone) موبائل (Mobile) اور فون (Phone) کا مرکب ہے۔ موبائل (Mobile) کا مطلب آسانی اور آزادی سے حرکت کرنا۔ اور ٹیلیفون (Telephone) کو مختصر کر کے فون (Phone) لکھ دیا جاتا ہے۔ موبائل فون (Mobile Phone) ایک ایسا ٹیلی فون (Telephone) ہے جو موبائل ریڈیو (Mobile Radio) نظام سے مل کر کسی مادی کنکشن (Connection) کے بغیر وسیع علاقے میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

Mobile: Able to move or be moved freely or easily.

A telephone with access to a cellular radio system

۱۔ آیت نمبر ۲۸، سورۃ النمل، پارہ ۱۹،

۲۔ 1001 Inventions, P. 278

so it can be used over a wide area without a physical connection to a network.^۱

موبائل فون (Mobile Phone) کیسے کام کرتا ہے؟

جب کوئی آدمی موبائل فون (Mobile Phone) پر کسی متعلقہ آدمی کا نمبر ڈائل (Number Dial) کرتا ہے تو ٹرانسمیشن (Transmission) اس متعلقہ نیٹ ورک (Network) کے ٹاور (Tower) کی طرف بھیجی جاتی ہے پھر لینڈ لائن (Landline) کے سسٹم (system) میں منتقل ہو کر جس آدمی کو فون (Phone) کیا جا رہا ہے اس کے نیٹ ورک (Network) کے ٹاور (Tower) کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کے پاس O2 نیٹ ورک (Network) کی سم (Sim) اور لینڈ لائن (Landline) BT کی ہے اور جس کو فون (Phone) کیا جا رہا ہے اس کے پاس Orange کی سم (Sim) ہے چنانچہ جب کوئی O2 نیٹ ورک (Network) سے Orange نیٹ ورک (Network) پر رنگ (Ring) یعنی فون (Phone) کرے گا تو سب سے پہلے ٹرانسمیشن (Transmission) O2 نیٹ ورک (Network) کے ٹاور (Tower) کی طرف بھیجی جائی گی پھر وہ لینڈ لائن (Landline) یعنی BT کے سسٹم (system) سے ہوتے ہوئے Orange نیٹ ورک (Network) کے ٹاور (Tower) کی طرف منتقل کی جائی گی اور اگر کسی نے ایک ہی نیٹ ورک (Network) پر رنگ (Ring) کیا ہے تو سب سے پہلے ٹرانسمیشن (Transmission) O2 کے ٹاور (Tower) کی طرف منتقل کی جائے گی پھر لینڈ لائن (Landline) BT کے سسٹم (system) سے ہوتے ہوئے

۱۔ Oxford Dictionary Of English, Page no. 1127

O2 کے ٹاور (Tower) کی طرف منتقل کی جائی گی۔ اور اگر موبائل فون (Mobile Phone) سے لینڈ لائن (Landline) پر رنگ (Ring) کرنا ہو تو ٹرانسمیشن (Transmission) موبائل فون (Mobile Phone) کے نیٹ ورک (Network) کی طرف منتقل ہو کر لینڈ لائن (Landline) کے سسٹم (system) کی طرف ٹرانسفر (Transfer) ہوگی۔ مثلاً کسی کے پاس Vodafone کی سیم (Sim) ہے اور اس نے BT کے نمبر (Number) پر رنگ (Ring) کیا ہے تو سب سے پہلے ٹرانسمیشن (Transmission) Vodafone کے ٹاور (Tower) کی طرف منتقل کی جائی گی اور پھر BT کے سسٹم (system) کی طرف ٹرانسفر (Transfer) کی جائی گی۔^۱

لینڈ لائن (Landline) کیا ہے؟

لینڈ لائن (Landline) دور سے دو خبر دینے والے آلات کے درمیان ایک مادی کنکشن (connection) ہے۔ یہ اصطلاح وائرلیس فون (Wireless Phone) سے ممتاز کرنے کے لئے اکثر ٹیلی فون (Telephone) کے لئے استعمال ہوتی ہے جو سگنل (Signal) کو ٹاورز (Towers) کے ایک سلسلہ کے ذریعہ منتقل کرتا ہے۔

A landline is a physical connection between two telecommunications devices. The term is most frequently used to refer to a telephone, differentiating it from a wireless phone, which transmits a signal through

۱- http://www.youtube.com/watch?v=EPM_ba3G11w

۱۔ a series of relay towers.

ٹیکسٹ میسج (Text Message) کا موجد

ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو ایس ایم ایس (S.M.S) بھی کہتے ہیں جو (Short Message Service) کا مخفف ہے۔ ایس ایم ایس (S.M.S) موبائل فون (Mobile Phone) میں ایسا نظام ہے جس کے ذریعہ نیٹ ورک (Network) کی مدد سے دوسرے موبائل فون (Mobile Phone) پر پیغام ارسال کیا جاسکتا ہے۔ ٹیکسٹ میسج (Text Message) ۱۹۸۰ء کے اخیر میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی G.S.M ۱۔ کے ساتھ کام کرنے کیلئے ایجاد کیا گیا۔ سب سے پہلا ایس ایم ایس (S.M.S) ۱۹۹۲ء یو۔ کے (U.K) میں نیل پاپ وارت (Neil Papworth) نے اپنے ساتھی کو بھیجا جس میں کرسمس (Christmas) کی مبارک باد دی گئی تھی۔ ۲۔

ٹیکسٹ میسج (Text Message) کیسے کام کرتا ہے؟

جب کسی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر ایس ایم ایس (S.M.S) بھیجا جاتا ہے تو وہ میسج (S.M.S.C) Short Message Service Centre (Centre) حاشیہ جو کا مخفف ہے) سے ہوتا ہوا نیٹ ورک (Network) کے ٹاور (Tower) تک پہنچتا ہے اور پھر ٹاور میسج (Tower Message) کو متعلقہ موبائل

۱۔ <http://www.wisegeek.com/what-is-a-landline.html>

۲۔ جو Global System for Mobile Communications کا مخفف ہے۔

۳۔ <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2070892/0MG-Text-Messaging-turns-19-Meet-Neil-Papworth-Brith-thank.html>

فون (Mobile Phone) کی طرف ارسال کرتا ہے مٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) بھی اسی طرح کام کرتا ہے لیکن دونوں میں فرق فقط اتنا ہے کہ ایس ایم ایس (S.M.S) ہر موبائل فون (Mobile Phone) پر ریسیو (Receive) ہو جاتا ہے جبکہ مٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) صرف انہی موبائل فونز (Mobile Phones) پر ریسیو (Receive) ہوتا ہے جن میں مٹی میڈیا میسجنگ (Multimedia Messaging) کی سہولت ہوتی ہے۔ ذیل میں ایک نقشہ دیا جا رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ٹیکسٹ میسج (Text Message) کیسے کام کرتا ہے۔^۱



u

۱۔ <http://computer.howstuffworks.com/e-mail-messaging/sms.html>

”موبائل فون (Mobile Phone) اور

ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ نکاح

نکاح کی تعریف

نکاح مرد و عورت کے مابین ایک ایسا شرعی معاہدہ ہے جس کے ذریعہ ان کے درمیان جنسی تعلق صحیح ہو جاتا ہے اور اولاد کا نسب ثابت ہو جاتا ہے۔

نکاح کے معنی

نکاح کے لغوی معنی مل جانے اور جماع کرنے کے ہیں۔

نکاح کے شرعی معنی

نکاح کے شرعی معنی عورت اور مرد کے درمیان ایجاب و قبول کے ذریعہ ایسا عقد جس کے تحت وہ ازدواجی زندگی میں بندھ جائیں اور ان کے درمیان ازدواجی رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے سے منافع حاصل کرنا جائز اور ان سے پیدا ہونے والی اولاد کا شرعاً نسب ثابت ہو۔^۱

۱۔ ”(هو)..... (عقد يفيد ملك المتعة) أي حل استمتاع الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي..... (قصد) (قوله حل استمتاع الرجل) أي المراد أنه عقد يفيد حكمه بحسب الوضع الشرعي، وفي البدائع: أن من أحكامه ملك المتعة، وهو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً“۔ (الدر المختار مع رد المحتار: ج ۴، ص ۵۹، کتاب النکاح، بیروت)

”أما النكاح الصحيح فله أحكام بعضها أصلي، وبعضها من التوابع، أما الأصلية منها: فحل الوطاء..... ومنها: ثبوت النسب“۔ (بدائع الصنائع: ج ۳، ص ۶۰۵ تا ۶۰۷، کتاب النکاح / من فصل في بيان حكم النكاح الى فصل في ثبوت النسب، بیروت)

اسلام کی نظر میں نکاح کی اہمیت

اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جنسی خواہشات کا ایک فطری جذبہ رکھا ہوا ہے جیسے ہی انسان بچپن کی زندگی کا مرحلہ گزار کر جوانی کے زینے چڑھنے لگتا ہے تو یہ خواہشات اس کے اندر خوبخود انگڑائیاں لینا شروع ہو جاتی ہیں۔ جو انسان کو مرد اور عورت کے اجتماع پر مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ مگر اس طبعی و فطری تقاضا کی تکمیل کے لئے انسان کو ایک خاص ضابطہ و قانون کا پابند بنایا گیا ہے۔ جس کے اندر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے۔ ہر شریعت اور تہذیب یافتہ قوم نے انسان کو اس ضابطہ و قانون کا پابند بنایا ہے جس کو عقد نکاح کا نام دیا جاتا ہے۔ اس معاہدہ کے بغیر اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے والے مرد و عورت نہ صرف اپنے مذہب و دین اور قوم و ملت کے مجرم بنتے ہیں بلکہ ایک ایسا فعل انجام دے رہے ہوتے ہیں جو فقط حرام ہی نہیں بلکہ ہر مذہب معاشرہ اور مذاہب میں انتہائی گھٹیا اور قبیح تصور کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اپنے دین و مذہب کے محکم اصولوں کے مطابق زندگی بسر نہ کرے گی۔ اس لئے حضرت آدمؑ سے لے کر امام الرسل والانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر شریعت میں عقد نکاح کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے۔ چنانچہ صاحب درمختار رقمطراز ہیں:

”لیس لنا عبادة شرعت من عهد آدم الى الآن ثم تستمر في الجنة“

الا النکاح والايمان“۔^۱

ترجمہ: ”ہمارے لئے کوئی ایسی عبادت نہیں جو مشروع رہی ہو

۱۔ (الدر المختار: ص ۷۷، ۱، کتاب النکاح، بیروت)

حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر اب تک، پھر ہمیشہ
رہے جنت میں سوائے ایمان اور نکاح کے۔“ (ترجمہ ختم)
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن مجید کے اندر خطاب کر کے یوں فرمایا:
”قَانِكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ“
”ان عورتوں سے نکاح کر لو جو عورتیں تمہیں پسند ہوں۔“
(ترجمہ ختم)

اس آیت کے اندر انسان کی پسند کا پورا پورا خیال کیا گیا ہے۔ یہ بات عیاں
ہے کہ ایک اچھا انسان ایک اچھی ہی عورت کا انتخاب کرے گا۔ حضور سرور کونین
جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے بھی اپنی امت کو نکاح کے برکات و فضائل سے
روشناس کروا کر نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ حضور سرور دو عالم ﷺ کا
ارشاد گرامی ہے۔

”وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِرًا
مُطَهَّرًا فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَّ“۔^۲

ترجمہ: ”حضرت انس h سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ
نے فرمایا جو اس بات کا متمنی ہو کہ وہ پاکی اور پاکیزہ حالت میں
اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اسے چاہئے کہ آزاد عورتوں سے
نکاح کرے۔“ (ترجمہ ختم)

۱۔ (آیت نمبر، ۳، سورۃ النساء، پارہ، ۳)

۲۔ (مشکوٰۃ: ص، ۲۶۸، کتاب النکاح / الفصل الثالث، امدادیہ)

نکاح دو اشخاص میں محبت و مودت کا سبب ہے

نکاح دو انسانوں کے درمیان محبت کا سبب ہے چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ تَزَلْ لِمُتَحَابِّينِ مِفْلُ النِّكَاحِ“^۱

ترجمہ: ”حضرت عباس h سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نکاح کی مثل ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی ہوگی جو دو محبت کرنے والوں کے درمیان محبت کو زیادہ کرے۔“ (ترجمہ ختم)

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نو جوانوں سے خطاب

ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

”يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ“^۲

”اے نو جوانوں کی جماعت! جو شخص مجامعت کے لوازمات (یعنی بیوی بچوں کا نان و نفقہ) کی قدرت رکھتا ہو، تو اسے

۱۔ (مشکوٰۃ: ص، ۲۶۸، کتاب النکاح/ الفصل الثالث، امدادیہ)

۲۔ (صحیح البخاری: ج، ۳، ص، ۳۶۳، کتاب النکاح/ باب من لم يستطع الباءة فليصم، رقم الحديث، ۵۰۶۶، بیروت)

(و کذا فی مشکوٰۃ: ص، ۲۶۷، کتاب النکاح/ الفصل الاول، امدادیہ)

چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح نظر کو بہت چھپاتا ہے اور شرم گاہ کو بہت محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص جماع کی لوازمات کی استطاعت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے کیونکہ روزہ رکھنا اس کے لئے خصی کرنے کا فائدہ دے گا۔“ (ترجمہ ختم)

نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے

”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَلْذَّنْيَا كُلُّهَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدَّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ“۔^۱

ترجمہ: ”اور حضرت عبداللہ بن عمرو h کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ”پوری دنیا ایک متاع ہے اور دنیا کی بہترین متاع نیک بخت عورت ہے۔“

نکاح فراخی رزق کا سبب ہے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نکاح کا حکم دیتے ہوئے وسعت رزق کا وعدہ کیا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^۲

ترجمہ: ”اور تم میں سے جو بے نکاح ہو اور تمہارے غلام اور باندیوں میں سے جو نیک ہو ان کا نکاح کر دیا کرو اگر وہ

۱۔ (مشکوٰۃ: ص، ۲۶۷، کتاب النکاح / الفصل الاول، امدادیہ)

۲۔ (آیت نمبر، ۳۲، سورہ النور، پارہ ۱۸)

تنگدست ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا
اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔“ (ترجمہ ختم)

نکاح نصف دین ہے

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ
نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي“۔^۱

ترجمہ: ”اور حضرت انس h سے منقول ہے کہ رسول کریم
ﷺ نے فرمایا: جس بندہ نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا
دین پورا کر لیا اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے بارے میں
خدا سے ڈرے۔“ (ترجمہ ختم)

تکلف سے خالی نکاح بابرکت ہے

”وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً
أَيْسَرُهُ مَوْنَةً“۔^۲

ترجمہ: ”حضرت عائشہ k فرماتی ہیں کہ رسول اکرم ﷺ
نے فرمایا: بلاشبہ بہت زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو محنت کے
لحاظ سے آسان ہو۔“ (ترجمہ ختم)

نکاح معاملات کے مقابلے میں عبادت سے زیادہ قریب ہے حتیٰ کہ نکاح
میں مشغولی نقلی عبادت کے لئے خلوت و تنہائی اختیار کرنے سے افضل ہے۔ چنانچہ

۱۔ (مشکوٰۃ: ص، ۲۶۸، کتاب النکاح / الفصل الثالث، امدادیہ)

۲۔ (مشکوٰۃ: ص، ۲۶۸، کتاب النکاح / الفصل الثالث، امدادیہ)

ملا علی قاری m رقمطراز ہیں:

”وہو أقرب الی العبادات ، حتی أن الاشتغال به افضل من

التخلي عنه لمحض العبادۃ“۔^۱

تین صحابہ ازواج مطہرات کے ہاں آئے اور ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دریافت کیا کہ آپ رات کس طرح بسر کرتے ہیں؟ کس طرح اور کتنی عبادت کرتے ہیں؟ روزہ کس طرح رکھتے ہیں؟ ازواج مطہرات کے بتانے پر تینوں نے آپس میں طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری آپس میں کیا نسبت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرمادیئے ہیں۔ ہمیں اپنی عبادت زیادہ کرنی چاہیئے۔ لہذا ایک نے تمام رات جاگ کر عبادت میں مشغول ہونے کا عہد کیا دوسرے نے ساری زندگی شادی نہ کرنے کا عہد کیا اور تیسرے نے مسلسل روزے رکھنے کا عہد کیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں صحابہ کا حال معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا:

”أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأُخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتَّقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ،

وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلْيَسْ

مِنِّي“۔^۲

ترجمہ: ”اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے

والا ہوں اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہوں باوجود اس کے میں

۱۔ (مراقبة المفاتيح: ج، ۶، ص، ۲۳۷، کتاب النکاح/ الفصل الأول، بیروت)

۲۔ (صحيح البخاري: ج، ۳، ص، ۳۶۲، کتاب النکاح/ باب التَّزْوِيجِ فِي النِّكَاحِ،

رقم الحديث، ۵۰۶۳، بیروت)

کبھی نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا اور رات کے ایک حصہ میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو کبھی رات کا اکثر حصہ سونے میں بسر کرتا ہوں اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں۔“ (ترجمہ ختم)

نکاح کے فوائد

- (۱) نکاح کے بہت سارے فوائد ہیں ان میں سے چند یہ ہیں۔
نکاح سے انسان زنا جیسے مہلک مرض سے بچ جاتا ہے۔ اور اس سے اس کے اندر جنسی خواہشات اور ہیجان کی کمی ہوتی ہے۔
- (۲) نکاح انسان کو عائلی زندگی کا اطمینان و سکون میسر کرتا ہے۔ اور یہی ازدواجی زندگی حیات انسانی میں آنے والے اتار چڑھاؤ میں سہارا کا سبب بنتی ہے۔
- (۳) نکاح انسان کے اندر صبر اور برداشت پیدا کرتا ہے جس سے وہ عائلی زندگی میں آنے والے مشکلات کا استقامت سے مقابلہ کرتا ہے۔
- (۴) نکاح سے ہی نیک و صالح اولاد پیدا ہوتی ہے جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنتی ہے۔ جو ہر سلیم الطبع اور صحیح الفطرت انسان کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔
- (۵) نکاح سے انسان کے اندر ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے جو اس کو ہمیشہ اہل و عیال کی خدمت کے لئے چاق و چوبند رکھتا ہے۔
- (۶) نکاح سے خاندان آپس میں جڑتے ہیں اور ان میں باہمی محبت و الفت پیدا ہوتی ہے۔

ٹیلی فون (Telephone) یا موبائل فون

پرنکاح (Mobile Phone)

اکثر علماء کی رائے ہے کہ ٹیلی فون (Telephone) یا موبائل فون (Mobile Phone) پرنکاح صحیح نہیں کیونکہ نکاح کے صحیح ہونے کیلئے اتحاد مجلس شرط ہے۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) پرنکاح کے صحیح ہونے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لڑکا ٹیلی فون (Telephone) پر کسی کو اپنی طرف سے وکیل بنادے اور وہ لڑکے کی طرف سے ایجاب و قبول کر لے تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔^۲

آج کل کئی قسم کے ٹیلی فونز (Telephones) دستیاب ہیں۔

۱: وہ ٹیلی فون سیٹ (Telephone Set) جس سے صرف ایک آدمی آواز سن سکتا ہے۔

۲: وہ ٹیلی فون سیٹ (Telephone Set) جن کے ذریعے بات کرنے والے ایک دوسرے کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں۔

۳: وہ ٹیلی فون سیٹ (Telephone Set) جن کے ذریعے بات چیت

۱۔ ”ومن شرائط الايجاب والقبول: اتحاد المجلس“۔ (الدر المختار مع رد

المحتار: ج ۴، ص ۷۶، کتاب النکاح، بیروت)

”ومنها: أن يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج

۱، ص ۲۹۷، کتاب النکاح/باب فی تفسیرہ و شروطہ، بیروت)

۲۔ (فتاویٰ محمودیہ، ج ۱۰، ص ۶۸۰، فاروقیہ)

(وکذا فی جدید فقہی مسائل، ص ۱۳۸)

کرنے والوں کی آواز حاضرین مجلس بھی سن سکتے ہیں۔ اول الذکر میں نکاح منعقد نہ ہوگا، اس لئے کہ گواہوں کے لئے ایجاب و قبول کا ایک ساتھ سننا ضروری ہے جو یہاں مفقود ہے اور اخیرین میں چونکہ شہادت کے تمام تقاضے پورے ہو سکتے ہیں لہذا نکاح درست ہے۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) ٹیلی فون (Telephone) کی ایک جدید قسم ہے اس میں بھی آخر والی دونوں شرائط پائی جاتی ہیں لہذا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ نکاح جائز ہوگا۔ گوکہ آخر والی دونوں قسموں میں بھی بعض اہل علم کا اختلاف ہے۔ ان کے نزدیک ویڈیو کانفرنسنگ (Video conferencing) یا ہینڈز فری فون (Hands free Phone) وغیرہ کے ذریعہ نکاح کرنا درست نہیں اسلئے کہ عاقدین کی مجلس ایک نہیں۔ بندہ کی نظر میں اتحاد مجلس سے مراد اتحاد مکانی نہیں بلکہ اتحاد اقوال ہے اسی وجہ سے اتحاد مجلس کو شرط قرار دیا گیا۔ ویڈیو کانفرنسنگ (Video conferencing) کے ذریعہ عاقدین نہ کہ صرف ایک دوسرے کے کلام کو سن سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اگر جانبین کی طرف سے اطمینان کر لیا جائے تو ویڈیو کانفرنسنگ (Video conferencing) یا ہینڈز فری فون (Hands free Phone) کے ذریعہ نکاح درست ہو جائے گا اس لئے کہ ان ذرائع کے ذریعہ گواہان ایجاب و قبول کو سننے کے ساتھ ساتھ عاقدین کو اسکرین (Screen) پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اصل چیز قابل اطمینان رابطہ ہے جس کے ذریعہ ایجاب و قبول کا واقع ہونا یقینی ہو۔ فقہاء کے بیان کردہ اس جزیہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اتحاد مجلس کے لئے نہ تو تحدید مکانی ضروری ہے اور نہ جانبین کا ایک

دوسرے کا دیکھنا۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

”رجل قال لقوم: اشهدوا أنني تزوجت هذه المرأة التي في هذا البيت فقالت المرأة: قبلت فسمع الشهود مقالتها ولم يروا شخصها فان كانت في البيت وحدها جاز النكاح وان كانت في البيت معها أخرى لا يجوز“۔^۱

”ایک آدمی نے لوگوں سے کہا کہ تم گواہ رہو میں نے اس گھر میں موجود عورت کے ساتھ شادی کر لی، پس عورت نے اندر سے کہا میں نے قبول کر لیا اور گواہوں نے اس کے کلام کو سن لیا اور عورت کو نہ دیکھا تو اگر اس گھر میں یہی عورت تھی تو نکاح جائز ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور عورت بھی ہو تو نکاح جائز نہیں ہے۔“

عالمگیری کے اس جزیہ سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ اصل چیز جانبین کے مابین قابل اطمینان رابطہ ہے جس کے ذریعہ گواہان عاقدین کے ایجاب و قبول کو سن سکیں۔ ویڈیو کانفرنسنگ (Video conferencing) کے ذریعہ گواہان اور عاقدین کی مجلس گو متحد نہیں لیکن معنی متحد ہے۔ جس کے ذریعہ وہ عاقدین کے کلام کو سن بھی سکتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔

جسٹس تنزیل الرحمن صاحب ”مجموعہ قوانین اسلامی“ میں رقم طراز ہیں:

”موجودہ دور میں رسل و رسائل کی ترقی اور آسانی کے پیش نظر

۱۔ (الفتاویٰ الہندیۃ: ج، ۱، ص، ۲۹۶، کتاب النکاح/باب فی تفسیرہ و شروطہ، بیروت)

فون پر بھی نکاح کا ایجاب و قبول ہو سکتا ہے بشرطیکہ ایجاب و قبول دونوں گواہان بھی بیک وقت سن سکیں اور آواز پہچانتے ہوں۔^۱

نیز اس بات کی تائید دارالافتاء والارشاد ناظم آباد کراچی کے ایک فتویٰ سے بھی ہوتی ہے جو کہ ایک فتویٰ کے جواب میں لکھا گیا تھا فتویٰ اور جواب فتویٰ نظر قارئین ہیں۔

الاستفتاء

ٹیلی فون پر نکاح کا حکم کیا ہے؟

الجواب باسم ملہم الصواب

درج ذیل وجوہ کی بناء پر ٹیلی فون پر کیا ہوا نکاح منعقد نہیں ہوتا۔

- (۱) انعقادِ نکاح کی شرائط میں سے یہ بھی ایک شرط ہے کہ ایجاب و قبول دونوں ایک ہی مجلس میں ہوں، جبکہ یہاں اتحادِ مجلس نہ حقیقتاً ہے اور نہ معنی۔ صرف آواز کا اہل مجلس تک پہنچنا وحدۃ مجلس کے لئے کافی نہیں۔ کما فی الذین یمشیان ویسیران۔
- قال الامام الکاسانی رحمہ اللہ تعالیٰ: وأما الذي يرجع الى مكان العقد: فهو اتحاد المجلس اذا كان العاقدان حاضرين وهو أن يكون الايجاب والقبول في مجلس واحد، حتى لو اختلف المجلس لا ينعقد النكاح؛ بأن كانا حاضرين، فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد..... (بدائع الصنائع: ۳/۳۲۵)

وقال المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى : وصورة اختلاف المجلس
يوجب أحدهما فيقوم الآخر قبل القبول أو يكون قد اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف
المجلس ثم قيل لا ينعقد لأن الانعقاد هو ارتباط أحد الكلامين بالآخر وباختلاف
المجلس يتفرقان حقيقة وحكماً، فلو عقدا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة لا
يجوز وان كانا في سفينة سائرة جاز..... (فتح القدير: ۱۰۴/۳)

وقال في الهندية: (ومنها) أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد
حتى لو اختلف المجلس بان كانا حاضرين فأوجب أحدهما فقام الآخر عن المجلس
قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس لا ينعقد وكذا إذا كان أحدهما
غائباً لم ينعقد حتى لو قالت امرأة بحضرة شاهدين: زوجت نفسي من فلان وهو غائب
فبلغه الخبر فقال قبلت أو قال رجل بحضرة شاهدين تزوجت فلانة وهي غائبة فبلغها
الخبر فقالت زوجت نفسي منه لم يجز وان كان القبول بحضرة ذينك
الشاهدين..... (الهندية: ۲۶۹/۱)

(۲) عاقدین میں جہالت نہ ہو، ورنہ نکاح درست نہ ہوگا۔ جہالت کی مثال
حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ عورت اگر مجلس
میں پردے کے اندر بیٹھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری عورت بھی ہے تو اس وقت
اس کے ایجاب و قبول کا اعتبار نہ ہوگا۔ قریب قریب میں آنکھوں سے اوجھل، اصلی
بلا واسطہ آواز کو مکان جہالت کی وجہ سے غیر معتبر قرار دیا گیا ہے تو ٹیلی فون کی بالواسطہ
آواز تو بطریق اولیٰ غیر معتبر ہوگی۔

قال العلامة الطحطاوي رحمه الله تعالى : ولا بد من تمييز المنكوحة عند
الشاهدين لتتفي الجهالة ثم لا يخلو اما أن تكون حاضرة مرئية بشخصها واما أن
تكون مسموعة الكلام غير مرئية الشخص واما أن تكون غائبة عن المجلس فان
كانت حاضرة متنقبة كفى الإشارة إليها والاحتياط كشف وجهها وان سمعوا

کلامہما ولم یروا شخصہما فان كانت فی بیت و حدھا جاز النکاح لزوال الجهالة وان کان معها امرأة أخرى لا يجوز لعدم زوالها واذا وکلت بالتزویج فهو علی هذا التفصیل اه. قلت: فما یفعله بعض ذوی الهیات من أن الشهود یسمعون التوکیل من وراء باب أو ستارة مع اختلاطها بنساء لا یجوز ولیس هناك مخلص الا بجعله من نکاح الفضولي یتیم بعد باجازه قولاً أو فعلاً وان كانت غائبة ولم یسمعوا کلامها بأن عقد لها وکیلها فان کان الشهود یعرفونها کفی ذکر اسمها اذا علموا أنه أرادها وان لم یعرفوها فلا بد من ذکر اسمها واسم أبیها وجدها (حاشیة الطحطاوی علی الدر المختار: ۱۰/۲)

وقال العلامة ابن عابدين الشامي رحمه الله تعالى: (تحت قوله: مطلب الخصاص كبير في العلم يجوز الاقتداء به): {تنبيه} أشار بقوله فيما مر ولا المنكوحة مجهولة الى ما ذكره في البحر هنا بقوله: ولا بد من تمييز المنكوحة عند الشاهدين لتنتفي الجهالة، فان كانت حاضرة متنبهة كفى الاشارة اليها والاحتياط كشف وجهها فان لم يروا شخصها وسمعوا كلامها من البيت، ان كانت وحدها فيه جاز، ولو معها أخرى فلا لعدم زوال الجهالة، وكذا اذا وکلت بالتزویج فهو علی هذا اه. أي ان رأوها أو كانت وحدها في البيت يجوز أن يشهدوا علیها بالتوکیل اذا جحدته والا فلا لاحتمال أن الموکل المرأة الأخرى، ولیس معناه أنه لا یصح التوکیل بدون ذلك وأنه یصیر العقد عقد فضولي فیصح بالاجازة بعده قولاً أو فعلاً لما علمته آنفاً، فافهم. ثم قال في البحر: وان كانت غائبة ولم یسمعوا کلامها بأن عقد لها وکیلها فان کان الشهود یعرفونها کفی ذکر اسمها اذا علموا أنه أرادها، وان لم یعرفونها لا بد من ذکر اسمها واسم أبیها وجدها. وجوز الخصاص النکاح مطلقاً، حتی لو وکلت فقال بحضرتها: زوجت نفسي من موکلتی أو من امرأة جعلت أمرها بیدي فانه یصح عنده. قال قاضیخان: والخصاص کان كبيراً في العلم يجوز الاقتداء به و ذکر الحاکم

الشہید فی المنتقى كما قال الخصاف ۵۱.

قلت : في التتارخانية عن المضمرات : أن الأول هو الصحيح وعليه الفتوى، وكذا قال في البحر في فصل الوكيل والفضولي أن المختار في المذهب خلاف ما قاله الخصاف وإن كان الخصاف كبيراً ۵۱. وما ذكره في المرأة يجري مثله في الرجل - ففي الخانية: قال الامام ابن الفضل: ان كان الزوج حاضراً أشار إليه جاز ولو غائباً فلا مالم يذكر اسمه واسم أبيه وجده، قال: والاحتياط أن ينسب إلى المحلة أيضاً، قيل له: فإن كان الغائب معروفاً عند الشهود؟ قال: وإن كان معروفاً لأبد من إضافة العقد إليه، وقد ذكرنا عن غيره في الغائبة إذا ذكر اسمها لا غير وهي معروفة عند الشهود وعلم الشهود أنه أراد تلك المرأة يجوز النكاح ۵۱.

(رد المحتار: ۲۲/۳، ۲۱)

حضرت حکیم الامتہ مولانا محمد اشرف علی تھانوی، حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمہما اللہ تعالیٰ اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب (مدرسہ دارالعلوم سیل السلام، حیدرآباد دکن، انڈیا) زیدہ مجددہ کی تحریروں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلیفون پر نکاح درست نہیں، تینوں حضرات کی مکمل عبارات ذیل میں ملاحظہ ہوں۔

حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں: ایک کلام تو خود طریق بموجب میں ہے۔ سو اس کا سوال مقصود نہیں۔ دوسرا کلام ٹیلیفون کے واسطہ میں ہے۔ اور یہی مقصود سوال ہے سو اس کا جواب ظاہر ہے کہ جن احکام میں حجاب مانع مقبول ہے اس میں غیر معتبر ہے اور جن میں حجاب مانع نہیں اس میں اگر قرآن قویہ سے متکلم کی تعیین معلوم ہو جاوے تو معتبر ہے۔ (امداد الفتاوی: ۲/۹۵)

حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی (مفتی مظاہر العلوم سہارنپور و دارالعلوم دیوبند) رحمہ اللہ تعالیٰ بذریعہ ٹیلیفون نکاح سے متعلق ایک استفتاء کے جواب میں تحریر فرماتے

ہیں: جو شخص امریکہ میں ہے وہاں بذریعہ ٹیلیفون یا دیگر ذرائع (خط تا وغیرہ) سے کسی کو ہندوستان میں اپنا وکیل بنادے کہ وہ اس کی طرف سے فلاں لڑکی کے نکاح کو قبول کر لے۔ پھر یہاں مجلس نکاح منعقد کی جائے اور قاضی صاحب یا لڑکی کے والد وغیرہ جو بھی نکاح پڑھائے وہ کہیں کہ میں نے فلاں لڑکی کا نکاح فلاں شخص سے جو کہ امریکہ میں ہے کیا، اور وکیل کہے کہ میں نے اس لڑکی کو فلاں کے نکاح میں قبول کیا؛ پس اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا اور صحیح ہو جائے گا۔ (فتاویٰ محمودیہ: ۱۱/۱۶۳)

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تحریر فرماتے ہیں: صرف ٹیلیفون پر ایجاب و قبول کافی نہ ہوگا، اس لئے کہ ایک تو دونوں کی مجلس بالکل مختلف ہے..... الخ (جدید فقہی مسائل: ۱/۲۸۱)

تنبیہ: ٹیلیفون کی آواز قراۃ کتابت ایجاب و قبول فی مجلس الزکاح پر اور سفیر وکیل پر قیاس کرنا بدیہی البطلان ہے، کما لا یخفی علی اہل الفن والکمال..... واللہ سبحانہ وتعالیٰ أعلم وعلمہ اتم

کتبہ نعمت اللہ عفا اللہ تعالیٰ عنہ

الجواب صحیح

الجواب صحیح

محمد امین

محمد جمیل خان

۲۳ محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

۲۷ محرم الحرام ۱۴۲۷ھ

دارالافتاء جامعہ خلفائے راشدین

مدنی کالونی، گرینکس ماری پور، ہاکس بے روڈ کراچی

الجواب باسم ملہم الصواب

مذکورہ فتویٰ میں وحدت مجلس کی جو تشریح کی گئی ہے جس کی بنا پر فون پر کیے گئے نکاح کو نادرست اور غیر منعقد قرار دیا گیا ہے ہماری نظر میں یہ تشریح درست نہیں، فقہاء کرام نے نکاح، بیع، تقویض طلاق وغیرہ مسائل میں اتحاد مجلس کی جو شرط لگائی گئی ہے، مجموعی عبارات کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اتحاد مجلس سے مراد اتحاد مکانی نہیں جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے اور سمجھا گیا ہے بلکہ اتحاد مجلس سے مراد ایجاب و قبول کا آپس میں متصل اور مرتبط ہونا ہے یعنی ایجاب کے بعد ایسی چیز کا نہ پایا جانا جسے اعراض قرار دیا جاسکے۔ اس بنا پر کہا گیا ہے کہ ایجاب کے بعد اگر کسی مجلس میں وہ شخص جس کی طرف ایجاب متوجہ ہو کسی دوسرے کام (کھانے پینے، دوسری کوئی بات شروع کرنے) میں مشغول ہو جائے اس سے اتحاد مجلس ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد کیے ہوئے قبول کا اعتبار نہ ہوگا اگرچہ مکان ایک ہی ہے، لیکن اگر اختلاف مکان کے باوجود ایسا کوئی کام نہ پایا جائے جو دلیل اعراض ہو تو دوسری جگہ کچھ دیر بعد بھی کیے ہوئے قبول کا اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ ایک آدمی سواری پر ہے، دوسرا اسے کسی چیز کے متعلق ایجاب کرنا ہے لیکن قبل اس کہ وہ سوار شخص قبول کرے اس کی سواری بدک جائے اور اس کے اختیار سے نکل جائے، پھر وہ سواری کو روکتے ہوئے قبول کر لے تو یہ معاملہ منعقد ہوگا، کیونکہ اس صورت میں سواری کا بدک جانا اس شخص کے اختیار میں نہیں جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ اس نے ایجاب کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گھوڑے کو چلایا ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس شخص سے ایسا کوئی کام سرزد نہیں

ہوا جو اعراض کی دلیل ہو اور جب دلیل اعراض موجود نہیں تو اس کے قبول کو معتبر قرار دیا جائے گا۔

مرسلہ فتویٰ میں جس مسئلہ پر قیاس کیا گیا ہے کہ چلتے ہوئے ایجاب و قبول کیا جائے تو اتحاد مجلس نہ ہونے کی وجہ سے اس کا اعتبار نہیں، اس کی تطبیق میں بھی غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ اس مسئلہ کی حقیقت یہ ہے کہ خود آدمی کا چلنا یا ایسی سواری پر جانا جسے خود یہ شخص چلا رہا ہو خود اس شخص کا فعل ہے تو ایجاب کے بعد جب وہ اتنی دور چلا جائے (پیدل یا سواری پر) کہ اسے ایجاب سے اعراض کہا جاسکے تو اس کے بعد جو قبول کرے گا معتبر نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ نہیں کہ مکان ایک نہ رہا بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایسا فعل پایا گیا جو دلیل اعراض ہے، اسی وجہ سے کشتی سے سفر اور پیدل یا شخصی سواری پر چلنے میں فرق بھی کیا گیا ہے کہ کشتی کے ذریعے قطع مسافت کشتی میں بیٹھنے والوں کی طرف منسوب نہیں لہذا ایجاب کے بعد کشتی کے آگے جانے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دلیل اعراض پائی گئی، اور ایجاب و قبول میں اگرچہ مکان کے اعتبار سے اتحاد نہیں لیکن دلیل اعراض نہ پائی جانے کی وجہ سے اس مکانی فاصلے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔

فقہاء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر دو آدمی چلتے ہوئے ایجاب و قبول اس طرح کریں کہ ایجاب کے ختم ہونے کے بعد اتنی دیر نہ گزرے جسے ہم اعراض کہہ سکیں تو اگرچہ دوسرا آدمی ایک دو قدم آگے جانے کے بعد قبول کرے گا یہ عقد صحیح ہو جائے گا، کیونکہ یہاں ایجاب و قبول میں اتنا فاصلہ نہیں جسے ہم دلیل اعراض کہہ سکیں۔

مذکورہ بالا تفصیل سے واضح ہوا کہ اصل شرط (انعقاد کیلئے) تو ایجاب و قبول میں حقیقی اتصال ہے لیکن ہر معاملہ میں اس کی رعایت میں بہت دقت پیش آئے گی،

لہذا فقہاء کرام نے وحدت مجلس کو حقیقی اتصال کے قائم مقام قرار دے کر رفع حرج فرمایا ہے، لہذا جہاں بھی یہ اصل علت (اتصال) پائی جائے وہاں اگرچہ وحدت مکان نہ بھی ہو تب بھی اسے ایک ہی مجلس کہا جائے گا۔

نکاح بالخطاب کے بجائے نکاح بالکتاب صحیح ہونے کی علت بھی یہی ہے کہ وہاں ایجاب و قبول متصل ہو جاتے ہیں، کیونکہ خط کی صورت میں ایجاب کو اتنا طول دیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ دوسری مجلس تک عقد ہو سکے اور دوسری مجلس میں خط پڑھنے کے بعد جو قبول ہوگا وہ اس ایجاب کے ساتھ متصل مانا جائے گا لہذا اگر وہاں گواہ بھی موجود ہوں اور انھیں یہ ایجاب و قبول سنایا جائے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ الفاظ چونکہ موجود ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں دوسری مجلس تک طول پانے کی صلاحیت نہیں اور نتیجہ قبول ایجاب کے ساتھ متصل نہ ہونے کی وجہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

مذکورہ بالا تفصیل فقہاء کرام کی صریح عبارات میں موجود ہے، اب اس تفصیل کے پیش نظر ہم فون پر کیے گئے ایجاب و قبول پر غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اختلاف مجلس نہیں بلکہ اتحاد مجلس (بالمعنی الحقیقی) پایا جاتا ہے کیونکہ فون پر آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ ایسے پہنچ پاتی ہے کہ اس کے ختم ہوتے ہی قبول کیا جاسکے اور یہ بہت ہی ظاہر اور بدیہی بات ہے ایجاب و قبول میں اتصال زمانی پایا گیا تو یہی اتحاد مجلس ہے اور فون ہے۔

اتحاد مجلس کی تفصیل کے بعد اب آگے دو چیزیں رہ جاتی ہیں، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اگرچہ مرسلہ تحریر میں انھیں خلط کر کے بیان کیا گیا ہے پہلی چیز نکاح میں یہ شرط ہے کہ منکوحہ مجہول نہ ہو، یہ بات مسلم ہے لیکن اس تعیین کی ہوئی خاص

نوعیت فقہاء کرام نے شرط نہیں قرار دی، بلکہ یہ تفصیل ہے کہ اگر صرف نام لینے سے گواہوں اور شوہر کے سامنے بیوی کی تعیین ہو جاتی ہے تو نام لینا ہی کافی ہے اگر یہ کافی نہ ہو تو والد کا نام لینا بھی ضروری ہے وغیرہ وغیرہ۔ اگر گواہوں کو پہلے سے معلوم ہو کہ اس خاص لڑکی کے نکاح کی بات چل رہی ہے اور اس میں کوئی شبہ نہ ہو تو نام لینے کی بھی ضرورت نہیں، غرضیکہ کسی طرح بھی گواہوں کے علم میں ہو کہ فلاں (متعین لڑکی) نکاح کی بات ہو رہی ہے تو کافی ہے اب فون پر نکاح کی صورت میں بھی ایسی تعیین ضروری ہے لیکن اس کے لئے سامنے حاضر ہونا ضروری نہیں لہذا فون سے بات ہونے کی صورت میں یہ تعیین ہو سکتی ہے۔

دوسری چیز یہ کہ ایک آواز دوسرے کے مشابہ ہوتی ہے تو اس میں اشتباہ آتا ہے جب کہ نکاح میں لڑکی متعین ہونے کے باوجود اگر آواز میں اشتباہ کی صورت ہو تو عقد درست نہیں ہوگا، لہذا فون پر بات کرنے کی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا۔

اس میں تفصیل یہ ہے کہ گواہ پہلے سے فون پر بات کرنے والے شخص کی آواز اگر اچھی طرح پہچانتے ہوں اور قرآنِ قویہ سے معلوم ہو کہ یہ اسی کی آواز ہے تو اس صورت میں نکاح صحیح ہو جائے گا، فقہ میں جیسا کہ یہ قاعدہ ہے ”النعمة تشبه النعمة“، تو اس طرح یہ بھی قاعدہ ہے کہ ”الخط تشبه الخط“، لیکن اس کے باوجود نکاح بالکتابۃ کی جو صورت علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے اس میں خود خط پر گواہ بنانے کی شرط نہیں اور نہ ہی یہ شرط ہے کہ دوسری جانب اس کا مشاہدہ کرے، بلکہ خط غائب شخص ہی کو لکھا جاتا ہے، اس صورت میں فقہاء نے صرف یہ شرط لگائی ہے کہ جس کو خط لکھا گیا ہے وہ خط وصول کرنے کے بعد دو گواہ بلائے اور ان

کے سامنے خط کا مضمون (یعنی ایجاب) پڑھ کر سنائے اور پھر ان ہی کے سامنے قبول کرے تاکہ ایجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے ہو جائے۔

اس صورت میں (جبکہ یہ توکیل کی صورت نہیں ہے) جب ایجاب و قبول درست ہے حالانکہ یہ احتمال ہے کہ کسی اور کا خط ہو لیکن جب غلبہ ظن ہو تو اس احتمال کا اعتبار نہیں کیا گیا اور عقد کو صحیح قرار دیا گیا۔

فقہ میں جو مسئلہ ہے ایک کمرہ میں دو عورتیں ہوں اور ان میں کوئی ایک ایجاب یا قبول کرے تو درست نہیں یہ اس صورت پر محمول ہے جس میں شاہدین پہلے سے ایجاب و قبول کرنے والی عورت کی آواز کو اچھی طرح نہ پہنچانتے ہوں، اگر پہنچانتے ہوں اور تمیز کر سکتے ہوں کہ یہ کس عورت کی آواز ہے تو وہاں بھی نکاح درست ہوگا۔

مواصلات کے جدید آلات کے بارے میں اسلامی فقہ اکیڈمی کی ایک قرار

داد ملاحظہ ہو:

”جب ایسے دو غائب شخصوں کے درمیان معاہدہ مکمل ہو جائے جو ایک جگہ نہ ہوں اور نہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہوں اور نہ ایک دوسرے کا کلام سن سکتے ہوں اور ان دونوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ کتابت یا خط یا سفارت (قاصد) ہو اور دور جدید کے آلات: تار ٹیلیکس، فیکس اور کمپیوٹر کے سکرین وغیرہ پر بھی یہ صورت صادق آتی ہے اس صورت میں جب ایجاب دوسری طرف پہنچ جائے اور وہ اسے قبول کرے تو اس وقت عقد منعقد ہو جائے گا۔“

”جب طرفین کے درمیان معاہدہ ایک ہی وقت میں طے پا جائے جبکہ وہ دونوں علیحدہ علیحدہ جگہ پر ہوں، اس صورت کا اطلاق ٹیلیفون اور وائرلیس پر ہوگا۔ ایسے دو شخصوں کے درمیان ہونے والا عقد دو شخصوں کے درمیان ہونے والے عقد کی طرح سمجھا جائے گا اور اس صورت میں اصلی احکام نافذ ہوں گے جو فقہاء کے نزدیک طے شدہ ہیں۔“

آگے لکھتے ہیں:

”سابقہ قواعد نکاح کو شامل نہیں ہوں گے اس لئے کہ نکاح میں دو گواہوں کو شاہد بنانا شرط ہے اور نہ بیع صرف کو شامل ہوں گے اور نہ بیع سلم کو....“ (قراردادیں اور سفارشات، ص ۱۳۵، ۱۳۶)

انھوں نے ٹیلیفون پر بات کرنے کو دو حاضر شخصوں کے درمیان بات ہونے کی طرح قرار دینے کے بعد نکاح کا استثناء اس وجہ سے کیا ہے کہ اس میں صرف جانین کا ایک دوسرے کی بات سن لینا کافی نہیں بلکہ گواہوں کا سننا بھی ضروری ہے اور فون میں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن ہماری بات اس فون کے متعلق ہو رہی ہے جس کی آواز بیک وقت دوسرے لوگ بھی سن سکتے ہوں اور ظاہر ہے کہ اس میں شہادت کے تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں، لہذا نکاح کے استثناء کی کوئی وجہ نہیں رہی۔

معاصر فتاویٰ میں فتاویٰ حقانیہ اور خیر الفتاویٰ میں بھی اس وجہ سے نکاح کی صحت کا فتویٰ دیا گیا ہے۔

حکیم الامتہ m نے جو ضابطہ بیان فرمایا ہے اس کی رو سے بھی اگر مذکورہ

شرائط (آواز کی پہچان اور گواہوں کا سننا) کے تحت فون پر نکاح کیا جائے تو درست قرار پاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

جن احکام میں حجاب مانع قبول ہے اس میں غیر معتبر ہے، اور جن میں نہیں اس میں اگر قرآنِ قویہ سے متکلم کی تعیین ہو جاوے تو معتبر (۹۵/۱)

نکاح ایسی چیز نہیں جس میں حجاب بذات خود مانع ہو، کیونکہ اگر ایک نامعلوم عورت پردے کے پیچھے سے (جب وہ اکیلی ہو) ایجاب یا قبول کرے اور گواہ اس کی بات سن لیں تو نکاح صحیح ہو جائے گا۔ جب حجاب نکاح میں مانع نہیں ہے تو یہاں بھی قاعدہ جاری ہوگا کہ اگر قرآنِ قویہ سے متکلم کی تعیین ہو جائے تو کافی و معتبر ہے۔

قال في الشامية: فالمراد بالمجلس ما لا يوجد فيه ما يدل على الاعراض وأن لا يشغل بمفوت له فيه فان وجد (الاعراض) بطل ولو اتحد المكان - (۵۲۶/۳)

قال في الدر: ”ومن شرائط الايجاب والقبول اتحاد المجلس لو حاضرين“. وفي الحاشية: قوله: لو حاضرين: احترازه عن كتابة الغائب لما في البحر عن المحيط: الفرق بين الكتاب والخطاب أن في الخطاب لو قال: قبلت في مجلس آخر لم يجز، وفي الكتاب يجوز لأن الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الايجاب بالقبول في مجلس آخر. فأما الكتاب فقائم في مجلس آخر وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الايجاب بالقبول فصح ۵. ومقتضاه أن قراءة الكتاب في مجلس الآخر لا بد منها ليحصل الاتصال بين الايجاب والقبول، وحينئذ فاتحاد المجلس شرط في الكتاب أيضاً، وانما الفرق هو قيام الكتاب وامكان قراءته ثانياً.

وقال في الدر يقطع المجلس: (والفلك لها كالبیت وسیر دابتها

کسیرھا) حتی لا يتبدل المجلس بجري الفلك، ويتبدل بسير الدابة لاضافته اليه،
الأن تجيب مع سكوته، أو يكون في محل يقودهما الجمال فانه كالسفينة“.

وفي الحاشية: (الأن تجيب مع سكوته) لأنها لا يمكنها الجواب بأسرع
من ذلك فلا يتبدل حكماً، لأن اتحاد المجلس انما يعتبر ليصير الجواب متصلاً
بالخطاب وقد وجد اذا كان بلا فصل، كذا في الفتح.

وفسر الاسراع في الخلاصة بأن يسبق جوابها خطوتها. نهر وظاهر قول
الفتح: فلا يتبدل حكماً أنه لا يشترط هذا السبق، (أي سبق الجواب الخطوة التي
تخطوها. ناقل) لأنه لا يحصل به (بالخطوة المصدر. ناقل) التبدل لا حقيقة ولا
حكماً.

قوله: (فانه كالسفينة) يعني بجامع أن السير في كل منهما غير مضاف الى
راكب، وقياس هذا أنها لو كانت على دابة وثمة من يقودها أن لا يبطل بسيرها. نهر
واقره الرملي وينبغي أن الدبة لو جمحت وعجزت عن ردها أن تكون
كالسفينة، لأن فعلها حينئذ لا ينسب الى الراكب كما يأتي في الجنائيات.

وقال: وصورته (التزوج بارسال كتاب) أن يكتب اليها يخطبها، فاذا بلغها
الكتاب أحضرت الشهود، وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه لأن
سماع الشطرين شرط صحة النكاح أما الكتاب فصحيح بلا اشهاد،
وانما الاشهاد لتمكن المرأة من اثبات الكتاب اذا جمده الزوج كما في الفتح عن
مبسوط شيخ الاسلام. (۳/۱۳، ۳۱۸)

وفي شرح المجلة لعلی حیدر: يشترط في البيع اتحاد المجلس أي حصول
الايجاب والقبول في مجلس واحد واتحاد المجلس يكون بعدم
الاشتغال في المجلس بشيء غير سبب العقد والاعراض اما يكون

بالقول واما بالفعل، فان فعل أحد المتعاقدين مشيئا من ذلك بطل، وان كان مكان الاجتماع متحدا، لتفرق المجلس۔ (۱۳۲/۲)

محمد حسین

دارالافتاء والارشاد کراچی

۲۷/۴/۱۸

الجواب صحیح

سعيد الله

دارالافتاء والارشاد کراچی

۳ جمادی الاول ۱۴۲۷

الجواب صحیح

محمد

دارالافتاء والارشاد کراچی

۲۸ ربیع الثانی ۱۴۲۷

ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ ایجاب

اور عورت کا گواہوں کی موجودگی میں قبول کرنا

کسی نے عورت کو نکاح کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) ارسال کرتے ہوئے یوں لکھا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو اور بیوی نے دو گواہوں کے سامنے اس تحریری پیام کو نقل کرتے ہوئے یوں کہا کہ گواہ رہو میں نے قبول کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔^۱

۱۔ ”ینعقد النکاح بالکتاب کما ینعقد بالخطاب۔ وصورته: أن یکتب الیہا ینخطبها، فاذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته علیهم وقالت زوجت نفسی منه، أو تقول ان فلانا کتب الی ینخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسی منه“۔ (ردالمحتار: ج ۴، ص ۷۴، کتاب الطلاق/مَطْلَبُ: التَزْوِجُ بِأَسَالِ کِتَابٍ، بیروت)

شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) پر ایجاب اور بیوی کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ قبول کرنا

کسی نے عورت کو موبائل فون (Mobile Phone) پر یوں کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو پھر عورت نے گواہوں کی موجودگی میں ٹیکسٹ میسج (Text Message) ارسال کرتے ہوئے یوں لکھا کہ میں نے قبول کر لیا اور مرد کے الفاظ کو گواہوں کے سامنے نقل بھی کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔^۱

بیوی کا نکاح کے ٹیکسٹ میسج (Text Message)

کو بغیر گواہوں کے قبول کرنا

کسی نے عورت سے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ ایجاب کیا اور بیوی نے گواہوں کو تحریر سنائے بغیر اس کو قبول کر لیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔^۲

وائس میل (Voice Mail) کے ذریعہ ایجاب

مرد نے عورت کے وائس میل (Voice Mail) پر پیغام نکاح چھوڑتے

۱۔ (المرجع السابق)

۲۔ ”عن ابن عمر قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل“۔ (دارقطني: كتاب النكاح، ج ۳، ص ۵۸، رقم الحديث ۳۴۹۲) (اس اثر سے معلوم ہوا کہ گواہوں کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ عثمانی)

”أما لو لم تقل بحضورهم سوى زوجة نفسي من فلان لا ينعقد، لأن سماع الشطرين، شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين“۔ (ردالمحتار: ج ۴، ص ۷۳، ۷۴، كتاب النكاح / مَطْلَبُ: التَّرْوُجُ بِأَرْسَالِ كِتَابٍ، بيروت)

ہوئے یوں کہا کہ تم مجھ سے نکاح کر لو اور بیوی نے گواہوں کو وائس میل (Voice Mail) سنوایا اور اس کے بعد بیوی نے ان کی موجودگی میں کہا کہ میں نے قبول کیا تو نکاح صحیح ہو جائے گا بشرطیکہ گواہ اور عورت وائس میل (Voice Mail) کرنے والے مرد کو آواز سے پہچان لیں۔^۱

ڈاکٹر تنزیل الرحمن صاحب اپنی تصنیف ”مجموعہ قوانین اسلامی“ میں فرماتے ہیں کہ ”مستند تحریر یا ٹیپ ریکارڈڈ (Tape recorded) تقریر ایجاب کو مجلس عقد میں گواہوں پر ظاہر کر کے فریق ثانی کی طرف سے نکاح کا قبول ہو سکتا ہے بشرطیکہ قبول کے وقت ایجاب بھی گواہوں کی موجودگی میں بیان کر دیا گیا ہو کیونکہ قبول کے وقت ایجاب کے اظہار سے مجلس عقد متحد خیال کی جائے گی۔^۲

ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) کے

ذریعہ ایجاب

کسی نے موبائل ویڈیو (Mobile Video) میں عورت کو ایجاب کیا اور اس کو ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ ارسال کیا اور اس نے گواہوں کے سامنے اس ویڈیو (Video) کو ظاہر کر کے قبول کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔^۳

۱۔ (المراجع السابق)

۲۔ مجموعہ قوانین اسلامی: ج ۱، ص ۲۱، پاکستان

۳۔ (تقدم تخریجہ تحت المسئلة السابقة)

ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ

آمنے سامنے ایجاب و قبول کرنا

کسی نے عورت کے سامنے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ ایجاب کیا اور عورت نے گواہوں کی موجودگی میں قبول کر لیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا جب تک کہ زبانی ایجاب و قبول نہ ہوگا۔^۱

ایک ایس ایم ایس (S.M.S) میں ایجاب اور دوسرے

میسج (Message) میں انشاء اللہ سے استثناء

کسی نے عورت کو پہلے ٹیکسٹ میسج (Text Message) میں ایجاب کیا اور دوسرے میسج میں انشاء اللہ سے استثناء کیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔^۲

۱۔ ”(ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتب قبلة لم ينقد“.

(ردالمحتار: ۴، ۷۳، مَطْلَب: التَّزْوِجُ بِإِذْنِ كِتَابٍ، بيروت)

ولا ينقد بالكتابة من الحاضرین فلو كتب تزوجتك فكتب قبلة لم ينقد
هكذا في النهر الفائق“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج، ۱، ص، ۲۹۸، کتاب النکاح / الباب
الثانی فیما ینعقد بہ النکاح وما لا ینعقد بہ، بیروت)

”وقيد المصنف انعقاده باللفظ لأنه لا ينقد بالكتابة من الحاضرین فلو كتب
تزوجتك فكتب قبلة لم ينقد“ (البحر الرائق: ج، ۳، ص، ۱۴۸، کتاب النکاح، بیروت)

۲۔ ”(هو)..... (عقد يفيد ملك المتعة) (الدر المختار) العقد: مجموع
ایجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر أو كلام الواحد القائم مقامهما (ردالمحتار:
ج، ۴، ص، ۵۹، کتاب النکاح، بیروت)

(وينقد) (بایجاب) (و قبول) (وضعا للمضي) لأن الماضي أدل على التحقيق
(الدر المختار) وقوله على التحقيق أى تحقيق وقوع الحدث (ردالمحتار: ۶۹، ۴،
کتاب النکاح / مَطْلَب: کثیر أَمَا يَتَسَاهَلُ فِي إِطْلَاقِ الْمُسْتَحَبِّ عَلَى الشُّنَّةِ، بیروت)
وظاهران لا تحقیق مع الاستثناء (بحوالہ فتاویٰ دارالعلوم، ج، ۷، ص، ۵۹، کراچی)

مرد کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ ایجاب اور

عورت کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ قبول کرنا

کسی نے عورت سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایجاب کیا اور اس نے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ قبول کیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا بلکہ نکاح کے انعقاد کے لئے اس کی طرف سے زبانی قبول کرنا ضروری ہے۔

مرد کا عورت کو موبائل فون (Mobile Phone) پر

ایجاب اور عورت کا مجلس میں قبول نہ کرنا

کسی نے عورت سے موبائل فون (Mobile Phone) پر ایجاب کیا اور اس نے اپنی مجلس تبدیل کر لی اور بعد میں گواہوں کے سامنے قبول کیا تو اس سے نکاح منعقد نہیں ہوگا کیونکہ بالمشافہ معاملہ کرنے کی صورت میں اسی مجلس ایجاب کی منظوری ضروری ہے۔^۱

مذاق میں کیا گیا ایجاب کا ایس ایم ایس (S.M.S) قبول کرنا

اگر کسی لڑکے لڑکی نے مذاق میں گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ چنانچہ کسی لڑکے نے لڑکی کو مذاق میں ایجاب کرتے

۱۔ (اس کی صورتیں تفویض طلاق کے عنوان کے تحت دیکھی جاسکتی ہیں۔ عثمانی)

”الکتاب والخطاب سواء الا في فصل واحد، وهو أنه لو كان حاضراً فخطبها بالنكاح فلم تعجب في مجلس الخطاب ثم أجابت في مجلس آخر، فإن النكاح لا يصح“۔ (ردالمحتار: ج ۴، ص ۲۶، کتاب البیوع / مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ مَعَ الْهَزْلِ، بیروت)

ہوئے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ یوں لکھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور لڑکی نے گواہوں کے سامنے اس کی تحریر پڑھ کر سنائی اور ان کی موجودگی میں قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا اس لئے کہ مذاق میں بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔^۱

ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ جبراً ایجاب کروانا کسی آدمی کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ کسی عورت سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایجاب کرے اور عورت نے گواہوں کے سامنے اس کا ارسال کیا ہوا میسج (Message) پڑھ کر قبول کر لیا تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔^۲

ایجاب و قبول کیلئے تین بار ایس ایم ایس (S.M.S)

ارسال کرنا ضروری نہیں

نکاح نفس ایجاب و قبول کے صرف ایک مرتبہ کرنے سے منعقد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے لڑکی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایجاب کیا اور اس نے گواہوں کے سامنے لڑکے کی تحریر پڑھ کر قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو گیا ایجاب و قبول کے لئے تین مرتبہ ایس ایم ایس (S.M.S) کا ارسال کرنا ضروری نہیں اور نہ یہ امر

۱۔ ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدُّ وَهَؤُلَهْنَّ جَدُّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالزَّجْعَةُ“۔ (سنن أبی داؤد: ص، ۳۱۷، رقم الحدیث، ۲۱۹۴، باب فی الطلاق علی الہزل، دار السلام)

۲۔ ”أَنَّ الْمَرَادَ لَا كِرَاهٍ عَلَى التَّلْفِظِ بِالطَّلَاقِ، فَلَوْ أَكْرَهَ أَنْ يَكْتُبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَكُتِبَ لَا تَطْلُقُ، لِأَنَّ الْكِتَابَةَ أَقِيَمَتْ مَقَامَ الْعِبَارَةِ بِاعْتِبَارِ الْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ هُنَا“۔ (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۴۳۰، کتاب الطلاق / مَطْلَبُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّوَكُّيلِ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ، بیروت)

مستحب ہے۔^۱

۱۔ ”أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، حِينَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ خَدَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَتَوَفَّى بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ ، فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَيْثُ لَيْلِي ثُمَّ لَقَيْتَنِي فَقَالَ : قَدْ بَدَأَ إِلَيَّ أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا . قَالَ عُمَرُ : فَلَقَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصَّدِّيقَ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَّتْ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يَزِجْ إِلَيَّ شَيْئاً ، وَكُنْتُ أَوْ جَدَّ عَلَيْهِ مَنِّي عَلَى عُثْمَانَ ، فَلَيْثُ لَيْلِي ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ ، فَلَقَيْتَنِي أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَى حِينَ عَرَضْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئاً؟ قَالَ عُمَرُ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيمَا عَرَضْتُ عَلَى ، إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ ذَكَرَهَا ، فَلَمْ أَكُنْ لِإِشْيَ سِرِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلُهَا“ . (صحيح البخاري : ج ، ۳ ، ص ۳۷۶ ، كتاب النكاح / باب عَرَضَ الْإِنْسَانُ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ عَلَى أَهْلِ الْخَيْرِ ، رقم الحديث ، ۵۱۲۲ ، بيروت)

اس اثر سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حفصہ k کو پیغام نکاح دے کر ایک مرتبہ ایجاب کیا اور حضرت عمر h نے ”فأنكحتها“ کہہ کر ایک مرتبہ قبول فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ نکاح فقط ایک مرتبہ ایجاب و قبول سے منعقد ہو جاتا ہے۔ عثمانی

”وینعقد بلفظین یعبر باحدهما عن الماضي وبالأخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك“ (هداية: كتاب النكاح: ج ۲، ص ۳۲۵، رحمانیہ)

”ینعقد بالایجاب والقبول وضعاً للماضي أو وضع أحدهما للمضي والآخر لغيره مستقبلاً كان كالأمر أو حالاً كال مضارع كذا في النهر الفائق“ . (الفتاویٰ الہندیہ: ج ، ۱ ، ص ، ۲۹۸ ، كتاب النكاح / الباب الثاني فيما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد به ، بيروت)

”فی ”الأصل“ اذا قال لها : تزوجتك بكذا ، فقالت : فعلت تم النكاح ، وان لم يقل الزوج : قبلت ، واذا قال لها : جنتك خاطباً ، فقالت : فعلت ، أو قالت زوجتك نفسي ، كان نكاحاً تاماً . وكذلك اذا قال لها : خطبتك الى بقية حاشية اگلے صفحہ پر

عورت کا ایجاب کو ایس ایم ایس (S.M.S) ڈرافٹ

(Draft) میں محفوظ کرنا اور اس کو مجلس میں قبول نہ کرنا

کسی نے عورت کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایجاب کیا اور اس نے ایس ایم ایس (S.M.S) کو ڈرافٹ (Draft) میں محفوظ کر کے ایک مدت تک اس کو ظاہر نہ کیا اور بعد میں میسج (Message) کا مضمون گواہوں کو سنا کر قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔^۱

عورت کا مرد کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ

وکیل بالزکاح بنانا

اگر عورت نے کسی آدمی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعے وکیل بنایا کہ وہ اپنے آپ سے شادی کرادے اور اس نے گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کیا تو اس طرح نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اس لئے کہ ایک ہی آدمی ایک جانب سے اصل اور دوسری جانب سے وکیل بن سکتا ہے اور ایک ہی آدمی دو گواہوں کے سامنے اپنی

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ نفسک، فقلت: قد فعلت، کان نکاحاً تاماً ذکرہ شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى في "شرح الكافي". (المحيط البرهاني: ج، ۴ ص ۶، کتاب النکاح / الفصل الأول: الألفاظ التي يعقد بها النكاح، إدارة القرآن) ۱۔ "وفي الكتاب اذا بلغها وقرأت الكتاب ولم تزوج نفسها منه في المجلس الذي قرأت الكتاب فيه ثم زوجت نفسها في مجلس آخر بين يدي الشهود وقد سمعوا كلامها وما في الكتاب يصح النكاح". (رد المحتار: ج، ۷، ص، ۲۶، کتاب البيوع / مَطْلَبٌ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ مَعَ الْهَزْلِ، بيروت)

طرف سے ایجاب اور مؤکل کی طرف سے قبول کر سکتا ہے۔^۱

وکیل بالنکاح کا ایس ایم ایس (S.M.S) میں

نکاح کی نسبت اپنی طرف کرنا

کسی کو وکیل بالنکاح بنایا گیا اور اس نے ایس ایم ایس (S.M.S) میں نکاح کی نسبت مؤکل کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کر دی اور لڑکی نے دو گواہوں کی موجودگی میں اس کی تحریر کو پڑھ کر قبول کر لیا تو اس سے لڑکی کا نکاح وکیل کے ساتھ ہو گا نہ کہ مؤکل کے ساتھ۔ اس لئے کہ وکیل کے لئے شرط ہے کہ وہ نکاح کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے صراحتہ مؤکل کی طرف کرے۔^۲

۱۔ ”واذا أذنت المرأة للرجل ان يزوجه من نفسه فعقد بحضرة شاهدين جاز.“ (هدایہ: ج ۲، ص ۳۴۴، کتاب النکاح/فصل فی الوکالۃ بالنکاح وغیرہ، رحمانیہ)
 ”(ویتولی طرفی النکاح واحد) بایجاب یقوم مقام القبول فی خمس صور: کأن کان ولیاً، أو کیلاً من الجانبین، أو أصیلاً من جانب و وکیلاً، أو ولیاً من آخر، أو ولیاً من جانب و کیلاً من آخر: کزوجت بنتی من موکلی (لیس) ذلك الواحد (بفضولی) ولو (من جانب) وان تکلم بکلامین علی الراجع، لأن قبوله غیر معتبر شرعاً لما تقرّر أن الایجاب لا یتوقف علی قبول غائب.“ (الدر المختار مع رد المحتار: ج ۳، ص ۲۲۴، ۲۲۵، کتاب النکاح/باب الکفاءة، بیروت)

۲۔ ”حدثني عبد الله الهوزني يعني ابا عامر الهوزني قال: لقيت بلالا مؤذن النبي ﷺ يحلب..... فاذا المشرک فی عصابة من التجار فلما رآني قال: يا حبشي قلت يا لبيه فتجهمني وقال: قولا غليظا..... وقلت من كان يطلب ﷺ دينا فليحضر فما زلت ابيع واقضي واعرض واقضي حتى لم يبق على رسول الله ﷺ دين في الارض.“

اس اثر میں یہودی نے حضرت بلال h سے (جو وکیل تھے) بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

فضولی کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ نکاح

فضولی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو شریعت نے اہلیت کے مفقود ہونے یا کسی کا ولی یا وکیل نہ ہونے کی وجہ سے اختیار نہ دیا ہو۔ اگر ایسے شخص نے اپنا یا کسی اور کا نکاح جس کو اختیار ہے کر دیا تو یہ نکاح فضولی کہلاتا ہے۔ اگر صاحب اختیار فضولی کے کئے گئے نکاح کو برقرار رکھے تو نکاح جائز ورنہ باطل ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر فضولی نے کسی لڑکی کو کسی کی طرف سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایجاب کیا اور اس نے گواہوں کو تحریر سنا کر قبول کر لیا تو یہ اس شخص کی اجازت پر موقوف رہے گا۔^۱

گذشتہ صفحے کا باقیہ حاشیہ قرض طلب کیا اور انہوں نے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوئے ہدیہ سے قرض ادا کیا۔ جس سے معلوم ہوا کہ وکیل ان حقوق کا ذمہ دار ہوگا۔

(سنن للبیہقی، باب التوکیل فی المال وطلب الحقوق وقضاہا الخ، ج ۶، ص ۱۳۳، نمبر ۱۱۳۳۵، ماخوذ الشرح الثمیری، ج ۲، ص ۲۷۹، ۲۸۰)

”وکل عقد یضیفہ الی موکلہ کالنکاح والخلع والصلح عن دم العمد فان حقوقہ تتعلق بالمؤکل دون الوکیل لان الوکیل فیہا سفیر محض الا تری انہ لا یتغنی عن اضافۃ العقد الی المؤکل ولو اضافہ الی نفسه کان النکاح لہ“۔ (ہدایہ: کتاب الوکالۃ، ج ۳، ص ۱۸۸، رحمانیہ)

۱۔ ”شروع فی بیان الفضولی وبعض احکامہ، وهو من يتصرف لغيره بغير ولاية ولا وكالة أو لنفسه وليس أهلاً لہ“۔ (البحر الرائق: کتاب النکاح/فصل فی الکفاءة، ج ۳، ص ۲۴۲، بیروت)

” (ونکاح عبد و أمه بغير اذن السيد موقوف) على الاجازة (کنکاح الفضولی) توقف عقودہ کلہا ان لہا مجیز حالۃ العقد (الدر المختار) وقال فیہا فی فصل ببع الفضولی: لو باع الصبی مالہ أو اشتری أو تزوج أو زوج أمہ أو کاتب عبدہ ونحوہ توقف عن اجازة الولی، فلو بلغ هو فاجاز نفذ“۔ (الدر المختار مع رد المحتار: کتاب النکاح/باب الکفاءة: ج ۴، ص ۲۲۵، ۲۲۶، بیروت)

بالغ لڑکی لڑکے کا گواہوں کے بغیر ویڈیو کانفرنسنگ

(Video Conferencing) کے دوران ایجاب و قبول کرنا کسی بالغ لڑکی اور لڑکے نے ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران بغیر گواہوں کے ایجاب و قبول کر لیا تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا اس لئے کہ نکاح کے انعقاد کے لئے باقاعدہ دو گواہوں کی موجودگی ضروری ہے جو کہ یہاں مفقود ہے۔^۱

ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران

عاقدين کے ایجاب و قبول کی آواز کو کسی ٹیکنیکل

(Technical) خرابی کے باعث فقط ایک گواہ کو سنائی دینا

اگر عاقدين نے ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران ایجاب و قبول کیا اور ان کی آواز نیٹ ورک (Network) یا موبائل فون ۱۔ ”ومنها: الشهادة قال عامة العلماء: انها شرط جواز النكاح هكذا في البدائع.“ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۲۹۵، كتاب النكاح/ الباب الأول في تفسيره شرعا و صفته و ركنه و شرطه و حكمه، بيروت)

”ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين أو رجل وامرأتين.“ (الهداية: ج، ۲، ص، ۳۲۶، كتاب النكاح، رحمانية) ”قال ابن نجيم المصري: وهو الاشهاد فلم يصح بغير شهود لحديث الترمذي البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن من غير بينة.“ (البحر الرائق: ج، ۳، ص، ۱۵۵، كتاب النكاح، بيروت)

(Mobile Phone) میں کسی ٹیکنیکل (Technical) خرابی کی وجہ سے فقط ایک گواہ کو سنائی دی اور دوسرے نے نہ سنی تو اس صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا اس لئے کہ گواہوں کا ایجاب و قبول ایک ساتھ سننا ضروری ہے۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) سے مخطوبہ کی تصویر لینا

نکاح انسانی زندگی کا ایک ایسا مضبوط رشتہ ہے جس کے ذریعہ زوجین ایک دوسرے کے ساتھ پوری زندگی کا سودا کرتے ہیں۔ اس لئے شریعت مطہرہ نے انسانوں کے جذبات و خواہشات کا خیال کرتے ہوئے اس بات کی اجازت دی ہے کہ نکاح سے پہلے میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ صرف (جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو) مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت فرمائی ہے بلکہ تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ اگر لڑکی کی تصویر لڑکے کو موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ بھیجی جائے تاکہ وہ اپنی مخطوبہ کو دیکھ لے تو جب تک وہ کیمرہ کی حد تک محدود ہو اور اس کا باقاعدہ پرنٹ آؤٹ (Print out) نہ نکالا جائے تو ایسی تصویر اور نقوش جو موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر نظر آرہے ہیں بعض اہل علم کے نزدیک ان کا تصویر ہونا محل نظر ہے اس لئے ان تصاویر و نقوش کو موبائل فون (Mobile Phone) میں سیو (Save) کرنے کی گنجائش ہے لیکن مخطوبہ چونکہ

۱۔ ”فان سمع أحد الشاهدين كلامهما ولم يسمع الشاهد الآخر لا يجوز“.

(فتاویٰ قاضیخان: ج، ۱، ص، ۲۹۴، کتاب النکاح، بیروت)

”فلو سمعا كلامهما متفرقين لم يجوز ولو اتحدا المجلس، فلو كان أحدهما أصم فسمع صاحب السمع ولم يسمع الأصم حتى صاح صاحبه في أذنه أو غيره لا يجوز النكاح حتى يكون السماع معاً“۔ (البحر الرائق: ج، ۳، ص، ۱۵۶، کتاب النکاح، بیروت)

نکاح سے پہلے اجنبیہ ہے اس لئے اس کی تصویر کو ایک نظر دیکھ کر ڈیلیٹ (Delete) کر دے۔ بہر حال افضل یہی ہے کہ اس سے احتراز کیا جائے۔^۱

مخطوبہ کو موبائل ویڈیو کانفرنسنگ

(Mobile Video Conferencing) کے دوران دیکھنا

اگر کوئی شخص مخطوبہ (جس سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو) کو موبائل ویڈیو کانفرنسنگ (Mobile Video Conferencing) کے دوران ایک نظر دیکھ لے تو اس کی گنجائش ہے۔^۲

مگنیتر کی تصویر کا وال پیپر (Wall Paper)

کسی آدمی کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنی مگنیتر کی تصویر کو وال پیپر (wall Paper) کے طور پر موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (screen) پر لگائے اس لئے کہ وہ اس کے لئے نامحرم ہے۔

۱۔ ”عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ“۔ (سنن أبي داود: ص، ۳۰۱، رقم الحديث ۲۰۸۲، باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، دار السلام)

”اما الصورة التي ليس لها ثبات واستقرار، ليست منقوشة على شئ بصفة دائمة، فانها بالظّل أشبه منها بالصورة..... وقال بعد اسطر..... فتتزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل“ (تكملة فتح الملهم ج ۳، ۱۶۵، ۱۶۲، كراچی)

۲۔ (المرجع السابق)

مگکیتھر سے ایس ایم ایس (S.M.S) یا موبائل فون

(Mobile Phone) کے ذریعے رابطہ

مگکیتھر سبب محرمیت نہیں ہے بلکہ جب تک باضابطہ عقد نکاح نہ ہو جائے اس وقت تک شرعاً اجنبیت یعنی مگکیتھر کا ایک دوسرے کیلئے اجنبی ہونا باقی رہتا ہے۔ لہذا مگکیتھر کے ساتھ نکاح سے پہلے ایس ایم ایس (S.M.S)، موبائل فون (Mobile Phone) اور موبائل چیٹنگ (Mobile Chatting) وغیرہ سے بے تکلفی اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔^۱

بیوی کی تصویر کا اسکرین سیور (Screen Saver) یا

وال پیپر (Wall Paper)

موبائل فون (Mobile Phone) میں اسکرین سیور (Screen Saver) یا وال پیپر (Wall Paper) کے طور پر بیوی کی تصویر لگانا جائز نہیں کیونکہ کسی غیر مرد کی نظر اس کی بیوی پر پڑ سکتی ہے بالخصوص جب اس کا موبائل فون (Mobile Phone) دوسرے لوگ بھی استعمال کرتے ہوں البتہ بعض ایسے موبائل فونز (Mobile Phones) بھی ہیں جو لاک (Lock) ہو جاتے ہیں اور پاس ورڈ (Password) کے بغیر ان کو استعمال کرنا ممکن نہیں۔ ایسے موبائلز (Mobiles) میں بیوی کی تصویر کو اسکرین سیور (Screen Saver) یا وال پیپر (Wall Paper) کے طور پر لگانے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے جب کہ کوئی نامحرم اس کو نہ دیکھے اگرچہ بہتر یہی ہے کہ نہ لگائے۔

۱۔ ”فظهر الکف عورة علی المذهب (والقدمین) علی المعتمد، وصوتها علی الراجع“۔ (الدر المختار: ص، ۵۸، کتاب الصلاة/باب شروط الصلاة، بیروت)

سٹارٹ اپ اسکرین (Startup Screen) میں

بیوی کی تصویر لگانا

موبائل فون (Mobile Phone) کے فنکشنز (Functions) میں سے ایک فنکشن (Function) یہ بھی ہے کہ جب موبائل فون (Mobile Phone) کو سٹارٹ (Start) کیا جاتا ہے تو اس وقت اسکرین (Screen) پر کوئی چیز بھی فٹ (Fit) کی جاسکتی ہے اس کو سٹارٹ اپ اسکرین (Startup Screen) کہتے ہیں۔ چنانچہ جب موبائل فون (Mobile Phone) آن (On) ہوتا ہے تو وہ متعلقہ چیز اسکرین (Screen) پر چند سیکنڈ کیلئے نمایاں ہوتی ہے۔ شوہر کیلئے اس شرط کے ساتھ بیوی کی تصویر سٹارٹ اپ اسکرین (Startup Screen) پر لگانے کی اجازت ہو گی جب نامحرم اس کے موبائل فون (Mobile Phone) کو استعمال نہ کرتا ہو۔ اگرچہ اس سے احتراز بہتر ہے۔

موبائل فون کیمرہ (Mobile Phone Camera) سے

شادی کے موقع پر اپنی بیوی کی تصویر لینا

اگر کسی نے موبائل فون کیمرہ (Mobile Phone Camera) کے ذریعہ شادی کے موقع پر اپنی بیوی کی تصویریں لیں اور ان کا باقاعدہ پرنٹ آؤٹ (Print Out) نہ نکالا اور ان کو موبائل فون (Mobile Phone) ہی میں رہنے دیا تو اس کی گنجائش ہے۔^۱

۱۔ (تفصیل خیر جنت تحت عنوان ”موبائل فون (Mobile Phone) سے خطوبہ کی تصویر لینا“)

مسجد میں موبائل فون (Mobile Phone) سے نکاح کے

موقع پر لوگوں کی ویڈیو (Video) بنانا

مسجد میں نکاح کرنا مستحب ہے لیکن اگر مسجد میں نکاح ہو رہا ہو تو اس دوران موبائل فون (Mobile Phone) سے ویڈیو (Video) بنانا جائز نہیں۔ اس لئے کہ اس میں ایک تو مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے اور دوسرا نکاح کے خطبہ کے دوران لوگ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور آداب مسجد کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ جس کی وجہ سے وہ گناہ گار ہوتے ہیں نیز نکاح کا خطبہ سننا ضروری ہے۔^۱

نکاح سے پہلے موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ

ریکارڈ (Record) کیا گیا خطبہ نکاح سننا

نکاح میں خطبہ مسنون ہے شرط نہیں ہے اگرچہ بغیر خطبہ کے نکاح بھی ہو

۱۔ ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ.....“ (سنن الترمذی: ج، ۲، ص، ۷۵، ۱، کتاب النکاح/باب: مَا جَاءَ فِي إِعْلَانِ النِّكَاحِ، رقم الحديث، ۱۰۸۹، بیروت)

”ویندب اعلانه و تقدیم خطبہ و کونہ فی مسجد“۔ (الدر المختار مع رد المحتار: ج، ۴، ص، ۶۶، ۶۷، کتاب النکاح، بیروت)

”وفي الخلاصة كل ما حرم في الصلاة حرم حال الخطبة، ولو أمرا بمعروف، وفي السيد استماع الخطبة من أولها الى آخرها واجب وكذا استماع سائر الخطب كنخطبة النكاح والختم اه“۔ (حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح: كتاب الصلاة، ص، ۵۱۹، بیروت)

۲۔ (المرجع السابق)

جائے گا۔ اگر نکاح سے پہلے موبائل فون (Mobile Phone) سے ریکارڈ (Record) کیا گیا خطبہ سنا گیا تو خطبہ کی سنت ادا نہیں ہوگی اس لئے کہ وہ پڑھنے والے کی اپنی آواز نہیں ہے بلکہ اس کا عکس ہے جو کسی مخصوص آلہ کے ذریعہ سے محفوظ ہو کر انسان کو سنائی دے رہی ہے۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ

براہ راست خطبہ نکاح

اگر کوئی موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ براہ راست خطبہ نکاح پڑھے تو اس سے خطبہ نکاح کی سنیت ادا ہو جائے گی۔^۲

موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ

لائو (Live) خطبہ نکاح سننے کا حکم

خطبہ نکاح سنت ہے اور اس کا سننا واجب ہے اگر حاضرین میں سے کوئی خطبہ نکاح نہیں سنے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ حکم صرف خطبہ نکاح ہی کا نہیں بلکہ تمام

۱۔ ”وان سمعها من الصدی لا تجب علیہ کذا فی الخلاصة“۔ (الفتاویٰ الہندیۃ:

ج، ۱، ص، ۱۳۶، کتاب الصلاة/باب سجود التلاوة، بیروت)

” (لا) تجب (بسماعہ من الصدی والطیر) (الدر المختار مع رد المحتار: ج،

۲، ص، ۵۸۳، کتاب الصلاة/باب سجود التلاوة، بیروت)

”تقدم تخريجہ تحت عنوان ”مسجد میں موبائل فون (Mobile Phone) سے نکاح کے موقع پر لوگوں کی ویڈیو (Video) بنانا۔“

خطبوں کا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی مجلس نکاح میں موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ براہ راست پڑھا جانے والا خطبہ نکاح نہیں سنے گا تو گناہ گار ہوگا۔^۱

خطبہ نکاح کے دوران کال ریسپو (Call Receive)

یا ایس ایم ایس (S.M.S) کرنے کا حکم

آج کل لوگوں میں وقت اور جگہ کی مناسبت جانچے بغیر کال (Call) کو ریسپو (Receive) کرنے کا فیشن (Fashion) بن چکا ہے خواہ وہ مسجد یا بازار میں یا خطبہ جمعہ یا خطبہ عیدین کے دوران آئے۔ پھر اس چیز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ آیا اس وقت اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ حالانکہ بعض اوقات اس کا استعمال ناجائز ہوتا ہے۔ اسی کے پس منظر میں کسی شخص کے لئے جائز نہیں ہوگا کہ وہ خطبہ نکاح کے دوران اپنے موبائل فون (Mobile Phone) پر کال ریسپو (Call Receive) کرے یا ٹیکسٹ میسج (Text Message) ارسال کرے یا پڑھے۔^۲

بیوی سے موبائل فون (Mobile Phone) پر

سیکس (Sex) سے متعلق باتیں کرنا

اگر شوہر اپنی بیوی سے موبائل فون (Mobile Phone) پر سیکس (Sex) سے متعلق باتیں کرتا ہے اور وہاں کوئی اور ان کی گفتگو کو سن بھی نہیں رہا تو اس کا یہ عمل جائز ہے۔

۱۔ (تقدم تخریج تحت عنوان ”مسجد میں موبائل فون سے نکاح کے موقع پر لوگوں کی ویڈیو بنانا“)

۲۔ (المرجع السابق)

موبائل ویڈیو کانفرنسنگ (Mobile Video Conferencing)

کے دوران شوہر کا بیوی کے جسم کو دیکھنا

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ“

”وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو۔“

(ترجمہ ختم)

قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ زوجین کے مابین رشتہ ازدواج کی وجہ سے پردہ کی کیفیت نہیں رہتی اس لئے موبائل ویڈیو کانفرنسنگ (Mobile Video Conferencing) کے دوران شوہر کا بیوی کا جسم دیکھنا اور بیوی کا شوہر کا جسم دیکھنا جائز ہے جب کہ وہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ تاہم ایک دوسرے کی شرم گاہوں کو نہ دیکھنا اولیٰ ہے۔^۱

۱۔ (آیت نمبر، ۱۸۷، سورۃ البقرۃ، پارہ، ۲)

۲۔ ”عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا نَظَرْتُ أَوْ مَا رَأَيْتُ فَرَجَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَطُّ“۔ (سنن ابن

ماجہ: ج ۲، ص ۴۵۵، کتاب النکاح/باب التَّشَتُّرِ عِنْدَ الْجَمَاعِ، بیروت)

”قلت: وقد يجاب بأنه أغلبي (الی فرجھا) بشهوة وغيرھا، والأولیٰ تركه لأنه يورث النسيان“۔ (الدر المختار) وقال العلامة الشامي رحمه الله تعالى: (قوله: والأولیٰ تركه) قال في الهداية: الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما الى عورة صاحبه، لقوله عليه الصلوة والسلام: اذا أتى أحدكم أهله فليستتر ما استطاع، ولا يتجزدان تجزذ العير“۔ ولأن ذلك يورث النسيان لورود الأثر“۔ (رد المحتار: ج ۹، ص ۵۲۷، کتاب الحظر والاباحه/فصل فی التَّنْظَرِ وَالْمَسِّ، بیروت)

”أما النظر الى زوجته ومملو كنه فهو حلال من قرنھا الى بقية حاشية اگلے صفحہ پر

نوٹ: بیوی کے جسم کی طرف دیکھنا جائز ہے مگر بلا ضرورت برہنہ ہونا حیاء و آداب کے خلاف ہے۔ نیز ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) میں بھی اس کی کاپی محفوظ ہو جانے کا احتمال ہے۔

ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے

ذریعہ اعضاء مخصوصہ کی تصویر بھیجنا

شوہر اور بیوی ملٹی میڈیا میسج (Multimedia message) کے ذریعہ ایک دوسرے کو اعضاء مخصوصہ کی تصویریں نہیں بھیج سکتے اس لئے کہ جو بھی میسج (Message) بھیجا جاتا ہے اس کی کاپی محفوظ کر لی جاتی ہے۔ جو لوگ موبائل کمپنی (Mobile Company) میں کام کرتے ہیں وہ کسی وقت بھی بھیجے ہوئے میسجز (Messages) کو دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی تصاویر کو ایک دوسرے کے موبائل فون (Mobile Phone) پر بھیجنا ناجائز ہے نیز اعضاء مخصوصہ کو خواہ زوجین

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ قدمہا عن شهوة وغير شهوة وهذا ظاهر الا أن الأولى أن لا ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۵، ص، ۴۰۴، کتاب الکراهية/الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر إليه وما لا يحل له وما يحل له مسه وما لا يحل، بيروت)

”قال الطوري تحت قول النسفي: (وينظر الرجل إلى فرج امته وزوجته) يعني عن شهوة وغير شهوة قال عليه الصلاة والسلام غض بصرک الا عن زوجتک وأمتک وما روي عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ في اناء واحد . (البحر الرائق: ج، ۸، ص، ۳۵۴، کتاب الکراهية / فصل في النظر واللمس، بيروت)

کا ہو بدن سے الگ ہو جانے کے بعد بھی دیکھنا درست نہیں۔^۱

موبائل ویڈیو کانفرنسنگ (Mobile Video Conferencing)

کے دوران بیوی کے ساتھ مشیت زنی (Masterbation) کرنا شوہر کا بیوی کے ساتھ موبائل فون (Mobile Phone) یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران مشیت زنی کرنا جائز نہیں۔ حدیث شریف میں اس فعل کی مذمت آئی ہے۔ البتہ اگر شوہر دوسرے ملک میں ہو اور اس کا زنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہو تو بیوی کے ساتھ موبائل فون (Mobile Phone) پر مشیت زنی (Masterbation) کی گنجائش ہے۔ لیکن اس کو عادت بنالینا جائز نہیں بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔^۲

۱۔ ”والأصح أن كل عضو لا يجوز النظر اليه قبل الانفصال لا يجوز بعده كشعر رأسها وقلامه رجليها وشعر عانته كذا في الزاھدي“۔ (الفتاوى الهندية: ج ۵، ص ۴۰۶، كتاب الكراهية / الباب الثامن فيما يحل للرجل النظر اليه وما لا يحل له وما يحل له مسه وما لا يحل، بيروت)

۲۔ ”سبعة لا ينظر الله اليهم يوم القيمة ولا يزكيهم ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار أول الداخلين الا أن يتوبوا ومن تاب تاب الله عليه الناكح يده“۔ الحديث۔ (تفسير ابن كثير: ج ۳، ص ۲۴۴، سورة المؤمنون، بيروت)

”وفي السراج: ان أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبالا زوجة له ولاأمة، أو كان الا أنه لا يقدر على الوصول اليها العذر قال أبو الليث: أرجو أن لا وبال عليه، وأما اذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم“۔ (رد المحتار: ج ۳، ص ۳۷۱، كتاب الصوم / مَطْلَبُ فِي حُكْمِ لَا سِتْمَنَاءَ بِالْكَفِّ، بيروت)

رخصتی کے وقت دلہن پر موبائل فون (Mobile Phone) میں

ڈاؤن لوڈ (Download) کیا ہوا قرآن مجید کا سایہ کرنا

جدید موبائل فونز (Mobile Phones) میں ہر قسم کی اسلامی اسپیکیشنز

(Applications) ڈاؤن لوڈ (Download) کی جاسکتی ہیں مثلاً قرآن مجید،

احادیث اور ادعیہ ماثورہ وغیرہ۔ جسے پڑھنے کے ساتھ سنا بھی جاسکتا ہے۔ آج کل

مسلم معاشرے میں چند عجیب و غریب اور ہندوانہ رسمیں پائی جاتی ہیں پھر ان کو

باعث ثواب بھی سمجھا جاتا ہے ان میں سے ایک رسم رخصتی کے وقت لڑکی کے سر پر

قرآن مجید کا سایہ کرنا ہے۔ اگر کوئی اس رسم کو پورا کرنے کے لئے رخصتی کے وقت

دلہن پر موبائل فون (Mobile Phone) میں ڈاؤن لوڈ (Download) کیا ہوا

قرآن مجید کا سایہ کرے تو یہ عمل غیر شرعی ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کی اہانت پر مبنی ہوگا

لہذا ایسے فعل و رسم سے احتراز لازم ہے۔^۱

بیوی کا شوہر سے موبائل فون (Mobile Phone) یا

موبائل کارڈ (Mobile Card) کا مطالبہ کرنا

بیوی اپنے شوہر سے موبائل کارڈ (Mobile Card) یا موبائل فون

(Mobile Phone) میں بیلنس ٹرانسفر (Balance Transfer) کرنے یا موبائل

فون (Mobile Phone) کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ شوہر کے حقوق میں شامل نہیں ہے کہ

وہ اس کو موبائل کارڈ (Mobile Card) یا موبائل فون (Mobile Phone)

۱۔ (کذا فی آپ کے مسائل اور ان کا حل: ج: ۵، ص: ۲۰۲)

لے کر دے اگر وہ اس کو موبائل فون (Mobile Phone) یا موبائل کارڈ (Mobile Card) لے کر دیتا ہے تو یہ اس کا احسان ہے۔ ورنہ یہ اس کے ذمہ میں واجب نہیں ہے۔

بیوی کا موبائل فون (Mobile Phone) کا

بل (Bill) شوہر کے ذمہ نہیں

بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) کا بل (Bill) شوہر کے ذمہ واجب نہیں اگر وہ اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے تو یہ تبرع اور احسان ہوگا۔^۱

غیر محرم سے موبائل ویڈیو کانفرنسنگ

(Mobile Video Conferencing)

کے ذریعہ بات یا ایس ایم ایس (S.M.S)

کرنے والی عورت کا نفقہ ساقط نہیں ہوتا

اگر کوئی عورت غیر محرم سے موبائل ویڈیو کانفرنسنگ (Mobile Video Conferencing) کرتی ہو تو اس صورت میں اس کا نفقہ ساقط نہیں ہوگا لیکن غیر محرم سے بلا ضرورت کلام کرنا بالخصوص بغیر پردہ کے فعل شنیع اور ممنوع ہے۔^۲

۱۔ ”النفقة هي لغة: ما ينفقه الانسان على عياله، وشرعا: (هي الطعام والكسوة والسكنى)، كذا فسرهما محمد بالثلاثة“۔ (الدر المختار مع رد المحتار: ج، ۵، ص، ۷۵ تا ۷۸، ۲، كتاب الطلاق/باب النفقة، بيروت)

۲۔ (المرجع السابق)

۳۔ ”النفقة واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت أو كافرة إذا سلمت نفسها الى منزله“۔ (هداية: ج، ۲، ص، ۴۱، ۴۲، كتاب الطلاق/باب النفقة، رحمانية)

شادی کے موقع پر لڑکے کا موبائل فون

(Mobile Phone) کی فرمائش کرنا

آج کل شادیوں میں لڑکوں کی طرف سے فرمائش ہوا کرتی ہے کہ ہمیں موبائل فون (Mobile Phone) دیا جائے اور اس کے لینے پر زور اصرار کیا جاتا ہے اور دینے والے با امر مجبوری دیتے ہیں۔ اس طرح شرعاً لڑکی والوں پر لڑکے والوں کی طرف سے کی گئی فرمائش کو پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ اس طرح کی فرمائشیں کرنا بے جا اور غلط ہے۔^۱

شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے موبائل فون

(Mobile Phone) سے رنگ (Ring) کرنا یا

ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا

اگر شوہر نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) سے رنگ (Ring) کرنے یا ایس ایم ایس (S.M.S) کرنے کی اجازت دی ہو تو بیوی شوہر کے موبائل فون (Mobile Phone) کا استعمال کر سکتی ہے اور اگر اس نے موبائل فون (Mobile Phone) کے استعمال کی اجازت نہیں دی تو بیوی کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے موبائل فون (Mobile Phone) سے کال (Call) ملائے

۱۔ ”وَعَنْ أَبِي حَزْزَةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا لَا تَظْلِمُوا أَلَا لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ“۔ (مشکوٰۃ: ص ۲۵۵، باب الغصب والعارية / الفصل الثاني / امدادیه)

یا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرے۔^۱

جہیز میں دیا ہوا موبائل فون (Mobile Phone)

کس کی ملکیت ہے؟

جو موبائل فون (Mobile Phone) عورت کو اس کے والدین کی طرف

سے ملا ہے وہ اسی کی ملکیت ہے۔ شوہر کا یا سرکار اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔

جہیز میں دیا ہوا موبائل فون (Mobile Phone) استعمال

کرنے سے خراب ہو جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟

جہیز میں دیا ہوا موبائل فون (Mobile Phone) جس حالت میں ہے وہ

عورت کا حق ہے لیکن استعمال سے اس میں جو خرابی پیدا ہو جائے خواہ سافٹ

ویئر (Software) کی ہو یا ہارڈ ویئر (Hardware) کی شوہر یا سرکار والوں

سے وصول نہیں کیا جاسکتا کیونکہ اس کو عورت کی خوشی اور رضامندی سے استعمال کیا گیا

ہوگا۔^۲

بیوی کے ویزا (Visa) کے لئے موبائل فون

(Mobile Phone) سے تصاویر لینا

اگر کوئی شخص دوسرے ملک میں رہائش پذیر ہے اور وہ اپنی بیوی کو لیکر جانا

۱۔ (المرجع السابق)

۲۔ ”ولو زلق المستعر في السراويل فتخرق لم يضمن كذا في الينابيع، وفي فتاویٰ

الديناري اذا انتقص عين المستعار في حالة الاستعمال لا يجب الضمان بسبب

النقصان اذا استعمله استعمالاً معهوداً كذا في الفصول العمادية“۔ (الفتاویٰ

الهندية: ج، ۴، ص، ۴۰۹، كتاب العارية/باب تضييع العارية وما يضمنه المستعير،

بيروت)

چاہتا ہے تو اس کے ویزا (Visa) کے حصول کے لئے ایمگریشن (Immigration) کی طرف سے بعض اوقات کیس (Case) کی نوعیت خراب ہونے کے باعث یہ قید لگائی جاتی ہے کہ شادی کے موقع پر بنائی گئی تصاویر کو پیش کیا جائے۔ تاکہ بیوی کا ویزا (Visa) لگایا جاسکے۔ اگر کوئی شادی کے موقع پر اپنے موبائل فون (Mobile Phone) سے تصاویر لے کر ویزا (Visa) کے لئے جمع کرواتا ہے (اور بغیر تصاویر کے ویزا ملنا مشکل ہے) تو ان شاء اللہ امید ہے کہ اس سے مواخذہ نہ ہوگا اس لئے کہ وہ اس مسئلہ میں مجبور ہے۔^۱

زوجین کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) یا

موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ تبریک پیش کرنا دلہا اور دلہن کو شادی کی مبارک باد پیش کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی ٹیکسٹ میسج (Text Message) یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعے ان کو مبارک باد پیش کرتا ہے تو یہ جائز ہے۔ لیکن خیال رہے کہ رفا اور بنین (نکاح کرنے والے کے لئے دعا ہے کہ تم دونوں اتفاق سے رہو اور تمہارے بیٹے پیدا ہوں) جیسے الفاظ سے احتراز کرنا چاہیے اس لئے کہ یہ الفاظ زمانہ جاہلیت میں مبارک باد کے لئے استعمال ہوتے تھے۔ نیز یہ الفاظ مردوں کے لئے خوشی و مسرت اور عورتوں کے لئے غم

۱۔ ”وَيَأْتِي أَنْ غَيْرَ ذِي الرُّوحِ لَا يَكْرَهُ. قَالَ الْقَهْطَسْتَانِي: وَفِيهِ اشْعَارُ بِأَنَّهُ لَا تَكْرَهُ صُورَةَ الرَّأْسِ، وَفِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي اتِّخَاذِهَا كَذَا فِي الْمَحِيطِ“ (رد المحتار: ج ۲، ص ۴۱۶، کتاب الصلاة/باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مَطْلَبٌ: إِذَا تَرَدَّدَ الْحُكْمُ بَيْنَ سَنَوٍ وَبَدْعَةٍ كَانَ تَرْكُ السَّنَةِ أَوْلَى، بیروت)

و خوف کا باعث ہیں۔ مبارک باد ان الفاظ میں دینی چائیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں چنانچہ حضرت ابو ہریرہ h سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص شادی کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مبارک باد دیتے اور دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ”اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور تمہارے اوپر برکت ڈالے اور تمہارے درمیان خیر پیدا فرمائے۔“

حضرت حسن h سے روایت ہے کہ عقیل بن ابی طالب h نے بنی جشم کی ایک خاتون سے نکاح کیا تو اسے دعا کے طور پر المرفا و البنین کہا تو حضرت حسن h نے فرمایا کہ اس طرح نہ کہو بلکہ اس طرح کہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے لئے برکت دے۔“

حرمت بسبب نظر بشہوة

ناجائز اسباب کی وجہ سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے اس کو حرمت مصاہرت کہتے ہیں۔ چنانچہ کسی مرد نے عورت سے زنا کیا یا اس کو شہوت سے چھو لیا یا کسی مرد نے عورت کے اندرون شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھا مثلاً ٹیک لگا کر بیٹھی تھی کپڑا ہٹ گیا اندر کے حصے کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ چنانچہ

۱۔ ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَا قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ وَبَارَكَ عَلَيْكُمْ وَجَمَعَ بَيْنَكُمْ فِي خَيْرٍ“۔ (سنن ابن ماجہ: ج، ۲، ص، ۴۲۸، کتاب النکاح/باب: تَهْنِئَةُ النِّكَاحِ، رقم الحديث، ۱۹۰۵، بیروت)

”عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي جَشْمٍ فَقَالُوا: يَا رَفَاءُ وَالْبَنِينَ فَقَالَ: لَا تَقُولُوا هَكَذَا وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ“۔ (سنن ابن ماجہ: ج، ۲، ص، ۴۲۸، کتاب النکاح/باب: تَهْنِئَةُ النِّكَاحِ، رقم الحديث، ۱۹۰۶، بیروت)

اگر کسی نے موبائل ویڈیو کانفرنسنگ (Mobile Video Conferencing) کے دوران کسی عورت کے اندرون شرمگاہ کو شہوت کے ساتھ دیکھا تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔^۱

ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) میں عورت کے فرج داخل کو دیکھنے سے حرمت مصاہرت

کسی نے ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) میں عورت کی اندرون شرمگاہ کو شہوت سے دیکھ لیا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی۔^۲

۱۔ ”(و) حرم أيضاً بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزني الوطء الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الرأس (الدر المختار) خرج به المسترسل (شامی) بحائل لا يمنع الحرارة (و أصل ماسته وناظرة الى ذكره والمنظور الى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه“ . (الدر المختار مع ردالمحتار: ج ۴، ص ۱۰۷، ۱۰۸، كتاب النكاح / فَضْلُ فِي الْمُخَرَّمَاتِ، بيروت)

۲۔ ”ولو نظر في امرأة ورأى فيها فرج امرأة فنظر عن شهوة لا تحرم عليه أمها وابتنتها لأنه لم ير فرجها وانما رأى عكس فرجها“ . (الفتاوى العالمية الكبرى: ج ۱، ص ۳۰۲، كتاب النكاح / باب المحرمات، القسم الثاني المحرمات بالصهرية، بيروت)

”و كذلك لو نظر الى فرج امرأة من وراء ستر حرمت عليه ابتنتها، ولو نظر اليه في امرأة وفي الخانية: أو في ماء: لا يحنث في يمينه ولا تحرم عليه ابتنتها“ . (الفتاوى الناتارخانية: ج ۳، ص ۵۰۲، كتاب الايمان / نوع آخر في النظر واللقاء والرؤية والمشاهدة والجمع، بيروت)

”(لا) تحرم (المنظور الى فرجها الداخل) اذا رآه (من امرأة أو ماء) لأن المرئي مثاله (بالانعكاس) . (الدر المختار: ج ۴، ص ۱۰۹، ۱۱۰، كتاب النكاح / فَضْلُ فِي الْمُخَرَّمَاتِ، بيروت)

مہر

عورت سے بوجہ عقد نکاح مرد پر جو رقم یا جنس واجب ہوتی ہے اس کو مہر کہا جاتا ہے۔^۱

مہر کا ثبوت قرآن مجید سے

”وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُ“^۲

ترجمہ: اور تم عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ ادا کر دو۔“ (ترجمہ ختم)

وَأَجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ^۳

ترجمہ: اور تمہارے لئے حلال کی گئیں ہیں وہ عورتیں جو ان کے علاوہ ہیں کہ تم اپنے مالوں کے بدلہ طلب کرو اس حال میں کہ تم پاک دامنی اختیار کرنے والے ہو، پانی بہانے والے نہ ہو۔ (ترجمہ ختم)

۱۔ ”ثم عرف المهر في العناية بأنه اسم للمال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع، اما بالنسبة أو بالعقد، واعتراض بعد شموله للواجب بالوطء بشبهة، ومن ثم عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء.“ (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۲۳۰، باب المهر، بيروت)

۲۔ (آیت نمبر، ۴، سورۃ النساء، پارہ، ۴)

۳۔ (آیت نمبر، ۲۴، سورۃ النساء، پارہ ۵)

مہر کا ثبوت حدیث شریف سے

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ“ ۱۔

مہر کی اقسام

مہر کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ مہر معجل ۲۔ مہر مؤجل

مہر معجل کی تعریف

معجل لفظ تعجیل سے بنا ہے جس کے معنی جلدی کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں ایسے مہر کو مہر معجل کہتے ہیں جو نکاح کے وقت دیا جائے۔

مہر معجل کا حکم

زوجہ اپنے شوہر سے پورے یا نصف مہر معجل کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتی ہے اگر چاہے تو طے شدہ نقد مہر کی وصولی کے بغیر مرد کو مباشرت سے روک سکتی ہے۔ ۲

۱۔ (صحیح البخاری: ج، ۳، ص، ۳۸۴، کتاب النکاح / باب المہر بالغرض)

وَحَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، حدیث نمبر، ۵۱۵، بیروت)

۲۔ ”(ولها منه من الوطاء) دواعیہ..... (لأخذ ما بين تعجيله) من المهر كله

أو بعضه (أو) أخذ (قدر ما يعجل لمثلها عرفاً) به يفتى، لأن المعروف كالمشروط

(الدر المختار) أي ان لم يبين تعجيله أو تعجيل بعضه فلها المنع لأخذ ما يعجل لها منه

عرفاً“۔ (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۲۹۰، ۲۹۱، کتاب النکاح / باب المہر، مَطْلَب

:فِي مَنَعِ الزَّوْجَةِ نَفْسَهَا لِقَبْضِ الْمَهْرِ، بیروت)

مہر مؤجل کی تعریف

مؤجل لفظ اجل سے بنا ہے جس کے معنی مدت مقرر کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں مہر مؤجل ایسے مہر کو کہتے ہیں جس کی ادائیگی کے لئے کچھ وقت طے کیا گیا ہو خواہ وہ وقت قریب ہو یا دور۔

مہر مؤجل کا حکم

مہر مؤجل کا حکم یہ ہے کہ زوجہ مرد سے وقت مقررہ سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اگر وقت طے نہیں کیا گیا تو پھر اس کا انتہائی وقت عرف یا جدائی (فسخ نکاح، طلاق) پر ہے یا میاں بیوی میں سے کسی کی موت پر ہے۔ نیز عورت طلاق رجعی سے بھی مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے اگرچہ مرد نے رجوع کر لیا ہو۔^۱

مہر کی کم از کم مقدار

مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے، اس سے کم جائز نہیں، اور مہر کی یہ تحدید حدیث سے ثابت ہے۔ جدید وزن کے اعتبار سے ۳۰ گرام ۶۱۸ ملی گرام چاندی ہوتا ہے۔^۲

۱۔ ”لا خلاف لأحد أن تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهر أو سنة صحيح وإن كان لا إلى غاية معلومة فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يصح وهو الصحيح وهذا لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق أو الموت وبالطلاق الرجعي يتعجل المؤجل ولو راجعها لا يتأجل“ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۳۵۰، كتاب النكاح / باب المهر، الفصل الحادي عشر في منع المرأة نفسها بمهرها والتأجيل في المهر وما يتعلق بهما، بيروت)

۲۔ ”رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر رضي الله عنه عن عمرو بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

مہر فاطمی کی مقدار

حضرت فاطمہ K کا مہر جس کو ہمارے عرف عام میں مہر فاطمی کہا جاتا ہے چار سو (۴۸۰) مثقال چاندی تھی۔ جو کہ ایک سواکتیس تولہ تین ماشہ ہوتی ہے۔ موجودہ گرام کے اعتبار سے ۱۴۶۹ گرام اور ۶۶۴ ملی گرام بنتی ہے۔^۱

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ بن عبد اللہ الأودی بسندہ ثم أوجدنا بعض أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر . قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، حدثنا وكيع عن عباد بن منصور قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: سمعت جابر أَرْضَى الله عنه يقول: قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "ولا مهر أقل من عشرة" من الحديث الطويل. قال الحافظ: انه بهذا الاسناد حسن ولا أقل منه". (فتح القدير: ج، ۳، ۲۸۱، ۲۸۲ كتاب النكاح/فصل في الكفاءة، بيروت) (حافظ ابن حجرؒ کی اس تصریح سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ یہ روایت حسن ہے۔ عثمانی)

"أقل المهر عشرة دراهم مضروبة أو غير مضروبة حتى يجوز وزن عشرة تبرأ وان كانت قيمته أقل كذا في التبيين". (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۳۳۲، كتاب النكاح/باب المهر، الفصل الأول في بيان أدنى مقدار المهر وبيان ما يصلح مهرأ وما لا يصلح مهرأ، بيروت)

مہر کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے جس کا وزن دو تولہ ساڑھے سات ماشہ (۳۰ گرام ۶۱۸ ملی گرام) چاندی ہے لہذا کم کی مقدار ہر دور میں اور ہر ملک میں اس دور کے اور اس ملک کے وزن میں اتنی ہوگی، جس سے دو تولہ ساڑھے سات ماشہ (۳۰ گرام ۶۱۸ ملی گرام) چاندی حاصل ہو سکے، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ (مجموعہ قوانین اسلامی: ۱۰۱، دفعہ ۱۲۹)

۱۔ حضرت فاطمہ K کے مہر کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک ۴۸۰/درہم = ۶۲۹۶ء اکلو چاندی۔ دوسری روایت ۴۰۰ مثقال = ۹۴۴ء اکلو چاندی مقدار اول متعدد روایات حدیث و سیرت سے ثابت ہے اور دوسری روایت صرف سیرت خمیس کی ہے بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

یاد رہے کہ مہر فاطمی سنت اور باعث برکت ہے ایسے شخص کے لئے اس سنت پر عمل کرنا بہتر ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو مگر اس کی ادائیگی پر اصرار نہیں کہ باندھنا ہی چاہیے بلکہ اگر کوئی اس مقدار میں ادا کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ اپنی بساط کے مطابق ہی باندھے تاکہ آسانی کے ساتھ ادا ہو سکے۔^۱

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صاحبزادیوں کا مہر

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ ^k اور اپنی دختر حضرت فاطمہ ^k کے سوا تمام بیٹیوں اور بیویوں کا مہر پانچ سو درہم چاندی مقرر فرمایا تھا۔^۲

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ لہذا مقدار اول رائج ہے۔ (احسن الفتاویٰ: ج ۵، ص ۳۱، سعید) نوٹ: چاندی کی قیمت چونکہ گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے اس لئے مہر کی ادائیگی کے وقت بازار سے قیمت معلوم کر کے ادا کیا جائے۔ عثمانی۔

۱۔ ”عن ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، قال: ما علمت رسول ﷺ نکح شیئاً من نسائه، ولا أنکح شیئاً من بناته علی أكثر من اثنتی عشرة أوقیة. رواه احمد، والترمذی، وأبو داؤد، والنسائی، وابن ماجه، والدارمی“ (من اثنتی عشرة أوقیة) وہی أربع مائة وثمانون درهماً۔^۱ (مرقاۃ المفاتیح: ج ۶، ص ۳۲۹، کتاب النکاح/باب الصداق، الفصل الثانی، بیروت)

”ثم ذکر السيد جمال الدين المحدث فی روضة الأحاب: أن صداق فاطمة رضی اللہ عنہا کان أربعة مائة مثقال فضة. وكذا ذكره صاحب المواهب ولفظه: أن النبی ﷺ قال لعلی: ان الله تعالى عز وجل أمرنی أن أزوجه فاطمة علی أربع مائة مثقال فضة۔“ (مرقاۃ المفاتیح: ج ۶، ص ۳۳۰، کتاب النکاح/باب الصداق، الفصل الثانی، بیروت)

۲۔ پانچ سو درہم کی مقدار پانچ سو پچتر (۵۷۵) ماشہ اور تقریباً ایک سو اکتیس (۱۳۱) تولہ چاندی ہے۔ اور آج کے حساب سے ایک کلو ۵۳۰ گرام اور ۹۰۰ ملی بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ K کا مہر چار ہزار چار سو (۴۴۰۰) دینار مقرر ہوا تھا جس کا وزن بارہ ہزار چھ سو (۱۲۶۰۰) ماشہ چاندی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مہر خود ادا نہیں کیا تھا بلکہ نجاشی نے ادا کیا تھا۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) بطور مہر

کسی نے بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) بطور مہر دیا اور اس کی قیمت مہر کی کم از کم مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو مہر ادا ہو جائے گا۔^۲

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ گرام چاندی ہوتی ہے۔ مہر ازواج مطہرات اور مہر فاطمی کے درمیان تفاوت ۲۰ درہم یعنی ۶۱ گرام ۲۳۶ ملی گرام کا ہے۔

۱۔ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لَأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْ قِيَّةً وَنَشَأُ. قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشَأُ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَتْ: نِصْفُ أَوْ قِيَّةٍ. فَبَلَكَ خُمُسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ. فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَأَزْوَاجِهِ. (صحیح مسلم: ج، ۲، ص، ۱۰۴۲، کتاب النکاح/باب الصداق، رقم الحدیث، ۱۴۲۶، بیروت)

۲۔ ”وغير الدراهم يقوم مقامها باعتبار القيمة وقت العقد في ظاهر الرواية حتى لو تزوجها على ثوب أو مكيل أو موزون وقيمتها يوم العقد عشرة فصارت يوم القبض أقل ليس لها الرد وفي العكس لها ما نقص كذا في النهر الفائق، ولو انتقص الثوب لفوات جزء منه قبل القبض فلها الخيار إن شئت أخذته وإن شئت أخذت عشرة دراهم هكذا في محيط السر حسي، المهر انما يصح بكل ما هو مال متقوم والمنافع تصلح مهر أغير أن الزوج إذا كان حراً أو قد تزوجها على خدمته أياها جاز النكاح ويقضي لها بمهر المثل عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى هكذا في الظهيرية“

(الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص ۳۳۲، کتاب النکاح/باب المہر، الباب السابع، بیروت)
 ”(وأقله عشرة دراهم) أي أقل المهر شرعاً للحدیث لا مهر أقل من عشرة دراهم و مراد المصنف أن أقله عشرة أو ما يقوم مقامها بالقيمة“. (البحر الرائق: ۳، ۲۴۹، ۲۵۰، کتاب النکاح/باب المہر، بیروت)

موبائل فون (Mobile Phone) میں بطور مہر

بیلنس (Balance) ٹرانسفر (Transfer) کرنا

کسی نے اپنی بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) میں بطور مہر بیلنس ٹرانسفر (Balance Transfer) کیا اور اس کی قیمت مہر کی اقل مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو مہر ادا ہو جائے گا۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) میں بطور مہر معجل

بیلنس (Balance) کا تاخیر سے پہنچنا

اگر شوہر نے بیوی کو پورا مہر معجل ادا نہیں کیا تو شوہر کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو سفر سے روکے، یا اپنے اہل خانہ کی زیارت سے روکے۔ چنانچہ کسی نے اپنی بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) میں بطور مہر معجل کے بیلنس (Balance) ٹرانسفر (Transfer) کیا اور وہ نیٹ ورک (Network) کی خرابی کی وجہ سے بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) میں تاخیر کے ساتھ موصول ہوا۔ تو جب تک بیلنس (Balance) بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) میں ریسیو (Receive) نہ ہوگا اس وقت تک شوہر بیوی کو سفر یا اپنے اہل خانہ کی زیارت کے لئے جانے سے نہیں روک سکتا اور عورت شوہر کو طبی سے روک سکتی ہے۔^۲

۱۔ (المرجع السابق)

۲۔ ”أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي رَافِعٍ رَوَى عَنْهُ لَمَّا تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَمَنْعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَغْطِيَهَا شَيْئًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَيْسَ لِي شَيْءٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَأَعْطَاهَا دِرْعًا، فَأَعْطَاهَا دِرْعًا ثَمَّ بَقِيَتْ حَاشِيَا لُكْلَةٍ صَفْرَى، بَرطانیہ

بیوی کو بطور مہر موبائل کنٹراکٹ

(Mobile Contract) لے کر دینا

اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مہر کے طور پر موبائل کنٹراکٹ (Mobile Contract) لے کر دیتا ہے اور اس کنٹراکٹ (Contract) کی قیمت مہر کی اقل مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو جائز ہے۔^۱

کنٹراکٹ (Contract) کیا ہے؟

موبائل فون کمپنی (Mobile Phone Company) اور کسی شخص کے درمیان ایک خاص مدت تک معاہدے کا نام کنٹراکٹ (Contract) ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ آدمی موبائل فون کمپنی (Mobile Phone Company) سے سم (Sim) خریدتا ہے اور کمپنی (Company) اس کو مخصوص پیسوں کے عوض سم (Sim) استعمال کرنے کے لئے ٹیکسٹ میسجز (Text Messages) یا منٹس (Minutes)

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ دَخَلَ بِهَا“۔ (سنن أبی داؤد : ص ۳۰۷، رقم الحدیث ۲۱۲۶، باب فی الرجل یدخل بامرأته قبل أن ینقذہا شیناً، دار السلام)

”وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر وتمنعهُ أن یخرجها أی یسافر بها لیتعین حقها فی البدل کما تعین حق الزوج فی المبدل وصار کالبیع ولبس للزوج أن یمنعها من السفر والخروج من منزله وزیارة أهلها حتی یوفیها المهر کلّه أی المعجل“۔ (ہدایۃ: کتاب النکاح/باب المہر، ج ۲، ص ۳۵۴، ۳۵۵، امدادیہ)

۱۔ ”عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال: لا صداق دون عشرة دراهم“۔ (دارقطنی: کتاب النکاح، ج ۳، ص ۷۳، ۷۴، نمبر ۳۵۶۰، بحوالہ اثمار الہدایۃ، ج ۴، ص ۱۵۶)

مہیا کرتی ہے اور متعلقہ شخص کو ہر مہینے بل (Bill) ادا کرنا پڑتا ہے۔ یہ معاہدہ ایک سال کا بھی ہوتا ہے اور دو سال کا بھی۔

موبائل فون (Mobile Phone) کی سم (Sim) بیوی

کو مہر میں دینا

اگر کسی نے اپنی بیوی کو موبائل سم (Sim) مہر میں دی اور اس کی قیمت مہر کے اقل مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو صحیح ہے۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) کا میموری کارڈ

(Memory Card) بطور مہر

اگر کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) کا میموری کارڈ (Memory Card) بطور مہر دیا اور اس کی قیمت مہر کی اقل مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو جائز ہے۔^۲

بیوی کو موبائل کارڈ (Mobile Card) بطور مہر دینا

کسی نے اپنی بیوی کو موبائل کارڈ (Mobile Card) مہر کے طور پر دیا اور اس کارڈ (Card) کی مالیت مہر کی اقل مقدار کے برابر یا اس سے زیادہ ہو تو مہر ادا ہو جائے گا۔ اور اگر کم ہے تو مہر ادا نہیں ہوگا۔

۱۔ ”عن جابر رضی اللہ عنہ قال: سمعت رسول اللہ ﷺ قال: ولا مہر اقل من عشرة“۔ (اعلاء السنن، ج: ۱، ص: ۹۳، ۹۴، ابواب المہر / باب لا مہر اقل من عشرة در اہم، بیروت)

۲۔ (تقدم تخریجہ تحت المسئلة السابقة)

بیوی کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ مہر معاف

کر کے انکار کرنا

بیوی نے بحالت صحت ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ مہر معاف کر دیا اور بعد میں منکر ہو گئی تو مرد عورت کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو ثبوت کے طور پر پیش نہیں کر سکتا بلکہ مہر کی معافی کے ثبوت لئے شوہر کو شرعی شہادت کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس شرعی شہادت نہ ہو تو عورت سے مہر معاف نہ کرنے پر حلف لیا جائے گا۔^۱

بیوی سے جبراً یاد دھوکے سے مہر کی معافی کا ایس ایم ایس

(S.M.S) شوہر کے موبائل فون (Mobile Phone)

پراسال کروانا

اگر کسی نے بیوی کو ڈرا دھمکا کر یاد دھوکے سے مہر کی معافی کا ایس ایم ایس (S.M.S) شوہر کے موبائل فون (Mobile Phone) پر ارسال کروایا تو اس صورت میں مہر معاف نہیں ہوگا۔^۲

۱۔ ”(و) نصابها (لغيرها من الحقوق سواء كان) الحق (مالاً أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة ووصية (..... رجلان) (أو رجل وامرأتان)“.

(الدرا المختار مع رد المختار: ج، ۸، ص، ۸، ۷، ۸، كتاب الشهادات، بيروت)

۲۔ ”ولا بد في صحة حطها من الرضا حتى لو كانت مكرهة لم يصح“.

(البحر الرائق: ج، ۳، ص، ۲۶۴، كتاب الطلاق / باب المهر، بيروت)

فَإِنْ طَلَبْنِ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هٰذَا بِمِثْلِهِ ۚ

ترجمہ: سو اگر وہ تمہارے لئے اس میں سے نفس کی خوشی سے کچھ
چھوڑ دیں تو اس سے مبارک طور پر خوشگوا ری کے ساتھ کھا لو۔
(ترجمہ ختم)

بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) کے بل

(Bill) میں مہر کا روپیہ

زید کی زوجہ کا مہر 300 پاؤنڈ (Pound) ہے بیوی کے پاس اتنے پیسے نہیں
کہ وہ اپنے موبائل فون (Mobile Phone) کا بل (Bill) ادا کر سکے جو کہ 300
پاؤنڈ (Pound) ہے تو اس صورت میں اگر زید نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تمہارے
موبائل فون (Mobile Phone) کا بل (Bill) تمہارے مہر کے رقم سے ادا کر
دوں، اور اس نے اجازت دے دی تو مہر ادا ہو گیا اور اس کے ذمہ مہر باقی نہیں رہا،
ورنہ جتنی رقم بل (Bill) ادا کرنے کے لئے خرچ کرے گا تبرع اور احسان ہوگا جو مہر
میں محسوب نہ ہوگا۔^۲

۱۔ (آیت نمبر، ۴، سورۃ النساء، پارہ ۴)

۲۔ ”(کما لا یلزمہ مداواتھا) أي اتیانہ لها بدواء المرض ولا أجرۃ الطیب
ولا الفصد ولا الحجامة“۔ (رد المحتار: ج، ۵، ص، ۲۸۵، کتاب الطلاق/باب
النفقة، مطلب: لَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ الصَّغِيرِ، بیروت)

غیر محرم سے موبائل فون (Mobile Phone)، ایس ایم ایس

(S.M.S) یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing)

کے ذریعہ رابطہ رکھنی والی عورت کا مہر ساقط نہیں ہوتا

اگر بیوی غیر محرم سے موبائل فون (Mobile Phone)، ایس ایم ایس (S.M.S) یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ رابطہ رکھے تو اس سے اس کا مہر ساقط نہیں ہوتا گو کہ اس کا یہ عمل قبیح ہے۔ نفس مہر تو محض نکاح سے لازم ہو جاتا ہے، پھر زوجین جب تنہائی میں اکٹھے ہوں تو مہر مؤکد ہو جاتا ہے اور اگر قبل خلوت صحیحہ تفریق ہوگئی تو نصف مہر واجب ہوگا۔^۱

ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) سے

خلوت صحیحہ ثابت نہیں ہوتی

اگر کسی نے رخصتی سے پہلے اپنی بیوی سے ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing)

۱۔ ”ویتأكد (عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما)“ (الدر المختار) قوله: (ویتأكد) أي الواجب من العشرة أو الأكثر، وأفاد أن المهر وجب بنفس العقد..... (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۲۳۳، کتاب الطلاق/باب المہر، بیروت)

”والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة: الدخول، والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك إلا بالبراءة.“ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۳۳۴، کتاب النکاح/باب المہر، الفصل الثاني فيما يتأكد به المهر والمتعة، بیروت)

کی تو اس سے خلوت صحیحہ ثابت نہیں ہوگی خواہ وہ ایک دوسرے کے جسموں کو دیکھ لیں۔ اس لئے کہ خلوت صحیحہ یہ ہے نکاح صحیح کے بعد زوجین ایک ایسی جگہ جمع ہوں جہاں مباشرت کرنے میں کوئی شرعی، طبی یا حسی چیز مانع نہ ہو۔^۱

شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ بیوی کے

اکاؤنٹ (Account) میں مہر معجل کی رقم ٹرانسفر

(Transfer) کرنا اور بیوی کو رقم کا نہ ملنا

شوہر نے بیوی کے اکاؤنٹ (Account) میں مہر معجل کی رقم اپنے موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ آن لائن (Online) ٹرانسفر (Transfer) کی لیکن بیوی کو نہ ملی یا نصف ملی تو اس صورت میں وہ نقد مہر وصول کئے بغیر اپنے شوہر کو واپس اور مباشرت سے روک سکتی ہے اس لئے کہ یہ اس کا حق ہے۔^۲

۱۔ ”(والخلوة)..... کالوطء (بلامانع حسی) کمرض لأحدہما یمنع الوطء (وطبعی) کوجو دثالث عاقل..... (وشرعی) کاحرام لفرض أو نفل (و) من الحسی (رتق)..... (وقرن)..... (وعفل)..... (وصغر) ولو بزواج (لا یطاق معہ الجماع و)..... (الدر المختار مع رد المحتار: ج، ۴، ص، ۲۴۹، کتاب النکاح/باب المہر، بیروت)

۲۔ ”(ولہا منعہ من الوطء) دواعیہ..... (لأخذ ما بین تعجیلہ) من المہر کلہ أو بعضہ (أو) أخذ (قدر ما یعجل لمثلہا عرفاً) بہ یفتی، لأن المعروف کالمشروط (الدر المختار) أي ان لم یبین تعجیلہ أو تعجیل بعضہ فلہا المنع لأخذ ما یعجل لہا منہ عرفاً۔ (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۲۹۰، ۲۹۱، کتاب النکاح/باب المہر، بیروت)

ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ولیمہ کی دعوت

اگر ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ لوگوں کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اس لئے کہ ایک ہی وقت میں سینکڑوں لوگوں کو پیغام ارسال کیا جاسکتا ہے اس میں وقت کی بچت بھی ہے اور پیسے کی بھی۔ اس طرح انسان اسراف سے بھی بچ جاتا ہے۔

زوجین کا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing)

کے دوران ایک دوسرے کو دیکھ کر دوسرے دن ولیمہ کرنا

اگر میاں بیوی نے ایک دوسرے کو ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران دیکھ لیا اور دوسرے دن ولیمہ کر لیا تو اس سے ولیمہ کی سنت ادا نہیں ہوگی اس لئے کہ لفظ ”ولیمہ“ ولم سے مشتق ہے جس کا معنی اجتماع ہے لہذا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعے زوجین کا اجتماع نہیں ہوتا۔ نیز بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ شب زفاف کے بعد کیا تھا۔^۱

۱۔ ”عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ ابْنُ عَشْرِ سِنِينَ، مَقْدَمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَكَانَ أُمَّهَاتِي يَوَاطِنُنِي عَلَى خِدْمَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَخَدَمْتُهُ عَشْرَ سِنِينَ، وَتَوَفَّيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَيْنِ سَنَةً، فَكُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أُنْزِلَ، وَكَانَ أَوَّلَ مَا أَنْزَلَ فِي مُبْتَدِئِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَنِي نَبْتِ ابْنَةِ جَحْشٍ: أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ بِهَا عَزُوسًا، فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَابُوا مِنَ الطَّعَامِ، ثُمَّ خَرَجُوا..... (صحيح البخاري: ج، ۳، ص، ۳۸۸، بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ کتاب النکاح / باب الولیمة حق، رقم الحدیث، ۵۱۶۶، (بیروت)

اس حدیث میں حضرت زینب K کے ولیمہ اور حجاب کے واقعہ کا ذکر ہے اور اس میں ”أصبح النبی ﷺ بها عروساً“ سے واضح ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت زینب سے نکاح کا ولیمہ شب عروس کی صبح کو کیا تھا۔ چنانچہ صاحب فتح الباری رقم طراز ہیں:

”وحدیث أنس رضی اللہ عنہ فی هذا الباب صریح فی أنها بعد الدخول لقوله فيه ”أصبح عروساً بزینب فدعا القوم“. (فتح الباری: ج، ۱، ص، ۲۸۷، کتاب النکاح / باب الولیمة حق، رقم الحدیث ۵۱۶۶، بیروت)

”عَنْ بَيَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ: بَنَى النَّبِيُّ ﷺ بِأَمْرَاقٍ، فَأَزَّسَنِي، فَدَعَوْتُ رَجُلًا إِلَى الطَّعَامِ“. (صحيح البخاري: ج، ۳، ص، ۳۸۹، کتاب النکاح / باب الولیمة ولو لبشاة، رقم الحدیث ۵۱۷۰، بیروت) نیز حدیث انس میں ہے:

”حَتَّى إِذَا كَانَ بِأَطْرَاقِي جَهَّزْتَهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ. فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ. فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَزُوسًا. فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ قَالَ: وَيَسْطُ نَظْعًا. قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالْأَقِطِ. وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ. وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ. فَحَاسُوا حَيْسًا - فَكَانَتْ وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (صحيح مسلم: ج، ۲، ص، ۱۰۴۴، کتاب النکاح / باب فضیلة اعتاق أمته ثم يتزوجها، رقم الحدیث، ۱۳۶۵، بیروت)

اس اثر سے معلوم ہوا کہ حضرت صفیہ بنت حی K کا ولیمہ شب زفاف کی صبح کو دیا گیا تھا۔ ”(أو لم ولو بشاة) أي اتخذ ولیمة. قال ابن الملك: تمسك بظاهره من ذهب الی ایجابها، والأكثر على أن الأمر للندب. قيل: أنها تكون بعد الدخول، وقيل عند العقد، وقيل: عندهما“. (مرقات المفاتیح: ج، ۶، ص، ۳۳۵، کتاب النکاح / باب الولیمة، الفصل الأول، بیروت)

”ولیمة العرس سنة وفيها مثوبة عظيمة وهي اذا بنى الرجل بامرأته ينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء ويزبح لهم ويصنع لهم طعاماً“. (الفتاوى الهندية: ج، ۵، ص، ۴۲۲، کتاب الکراهية / باب الهدایا والضيافات، بیروت)

(موبائل فون کے ذریعہ طلاق)

طلاق کے لغوی معنی

طلاق کے لغوی معنی آزاد کرنے اور جدائی اختیار کرنے کے ہیں۔

طلاق کا شرعی معنی

شرعی معنی مخصوص الفاظ کے ذریعہ رشتہ نکاح کو ختم کر دینا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی m ہدایہ کے حاشیہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ^۱

طلاق کی حقیقت

رشتہ نکاح اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ذریعہ دو خاندانوں کے درمیان یگانگت والفت پیدا ہوتی ہے اور انسان زنا کاری و بدکاری جیسی رذیل جرم کا مرتکب ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ نیز انسانی معاشرہ بھی ان برائیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لئے کہ اس نعمت کی بدولت جو محبت و خلوص پیدا ہوتا ہے اس میں سادگی ہوتی ہے۔ جس کے سائے تلے آنے والی نسلوں کے کردار و عادات نکھرتے، سنورتے اور بننے ہیں۔ چنانچہ اسلام نے انسانی معاشرہ کی اس خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لئے طلاق جیسی مبغوض چیز کو بعض ناگزیر حالات میں جائز رکھا ہے۔ کیونکہ بسا اوقات

۱۔ ”فالطلاق فی اللغة عبارة عن رفع القيد وفي عرف الفقهاء عبارة عن حکم شرعی

یرفع القيد النکاحی بالفاظ مخصوصة“۔ (ہدایہ: ص، ۳۷۳، ج، ۲، کتاب الطلاق

/باب طلاق السنة، حاشیہ، ۵، رحمانیہ)

انسان کئی اسباب کی بنا پر نکاح جیسی عظیم نعمت کی برکات سے محروم رہ جاتا ہے جن میں معاش کی تنگی، ایک دوسرے کو پسند نہ کرنا، دوزخا جوں کا آپس میں نہ ملنا، جنسی کمزوری کا فقدان اور برے اخلاق شامل ہیں۔ انسان اس نعمت سے صلہ رحمی، محبت و الفت اور ہمدردی کے جذبات حاصل کرنے کے بجائے کینہ، بغض و عداوت، اور دشمنی جیسی تباہ کن امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ زندگی رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے۔ اس طرح ازدواجی زندگی کے اس خوبصورت رشتہ کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے اس نازک موڑ پر تفریق کی ضرورت پڑتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایسی پیچیدہ صورت حال میں طلاق کو روا رکھا ہے تاکہ زوجین ایک دوسرے سے جدائی حاصل کر کے خوشحال زندگی بسر کر سکیں تاکہ ایک مضبوط اور توانا معاشرے کی جڑیں کمزور نہ ہونے پائیں۔

بلا وجہ طلاق دینے پر تہدید

دین اسلام نے طلاق کو استعمال کرنے کا ایک تفصیلی قانون وضع کیا ہے جو انسانوں کو اس کا بے جا استعمال کرنے سے منع کرتا ہے۔ بلکہ اس اختیار کو ایسی ناقابل برداشت صورت حال میں روا رکھا ہے جس میں زوجین کا باہمی نباہ دشوار ہو جائے۔ قرآن مجید نے زوجین کو طلاق کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے اختلافات کو باہمی صلح و مصالحت کے ذریعہ ختم کرنے کا حکم دیا ہے اور حتی الامکان اس سے بچتے رہنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اختلافات کو مٹانے کے چار طریقے بیان کئے گئے ہیں جن میں سے تین میں مرد سے خطاب کیا گیا ہے۔

وَالَّتِي تَخَافُفْنَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

وَاصْبِرْ بُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكَ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا
ترجمہ: ”اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو ان کو نصیحت کرو
اور انہیں لینے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، سوا گروہ
تمہاری فرمانبرداری کریں تو ان پر زیادتی کرنے کے لئے بہانہ
نہ ڈھونڈو۔“ (ترجمہ ختم)

اس آیت میں نافرمان عورت کی اصلاح کا پہلا مرحلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ
اسے ناصحانہ طور پر سمجھایا جائے۔ اگر وہ اصلاح نہ کریں تو ان کے بستروں کو علیحدہ کر دو
جو ایک عاقلہ عورت کے لئے اچھی سزا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر یہ طریقے
کارآمد نہ ہوں تو مار پیٹ کو اختیار کیا جاسکتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا:

”فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ . فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانٍ اللَّهِ .
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ . وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا
يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ . فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاصْبِرْ بُوْهُنَّ
صَبْرًا غَيْرَ مَبْرَحٍ . وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ“۔^۱

ترجمہ: ”عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ کیونکہ تم
نے ان کو ایسے عہد کے ذریعہ حاصل کیا ہے جو تمہارے اور اللہ
تعالیٰ کے مابین ہے۔ اور تم نے ان کی شرم گاہوں کو شریعت کے

۱۔ (آیت نمبر، ۳۴، سورۃ النساء، پارہ ۵)

۲۔ (صحیح مسلم: ج، ۲، ص، ۸۸۹، ۸۹۰، کتاب الحج / باب حجة النبی
ﷺ، بیروت)

مطابق حلال کیا ہے ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی کو نہ آنے دیں، جسے تم ناگوار سمجھتے ہو، پس اگر وہ ایسا کریں تو ان کو ایسا مارنا مارو کہ جس سے ہڈی پسلی نہ ٹوٹے، اور تم پر ان کی خوراک اور پوشاک واجب ہے۔“ (ترجمہ ختم)

دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں:

”وَإِنْ أَمَرَاكَ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا.^۱

ترجمہ: ”اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی طرف سے بد مزاجی کا یا بے رخی کا اندیشہ کرے تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی خاص طریقہ پر صلح کر لیں۔“ (ترجمہ ختم)

بہر حال اگر وہ اس آخری سرزنش سے نافرمانی سے باز آجائے تو شوہر کا مقصد پورا ہو گیا۔ مگر بسا اوقات زوجین میں نزاع اور باہمی کشمکش اتنا طول پکڑ لیتی ہے کہ اصلاح کے یہ طریقے کار گر ثابت نہیں ہوتے۔ ایسی نازک صورت حال میں اسلام نے ازدواجی رشتہ کو توڑنے کے بجائے اصلاح کا چوتھا طریقہ بتلایا ہے۔

”وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّي اللَّهُ بَيْنَهُمَا^۲

ترجمہ: ”اور اگر تم کو شوہر اور بیوی کے آپس کے اختلاف کا ڈر ہو تو بھیج دو ایک آدمی فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے اور ایک

۱۔ (آیت نمبر، ۱۲۸، سورۃ النساء، پارہ ۵)

۲۔ (آیت نمبر، ۳۵، سورۃ النساء، پارہ ۵)

آدمی فیصلہ کرنے والا عورت کے خاندان میں سے اگر دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرمادے گا۔“ (ترجمہ ختم)

مذکورہ آیات سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ طلاق کے استعمال سے پہلے اصلاح کے ان تمام مراحل سے گزرنا ضروری ہے تاکہ اس اختیار کا بے جا استعمال نہ کیا جائے اور حتی الامکان مصالحت کے ذریعہ باہمی تنازعات کو حل کیا جائے۔ اگر ان تمام طریقوں کو آزمانے کے بعد پھر بھی معاملات صحیح نہ ہوں تو ایسی صورت حال میں شریعت مطہرہ نے مرد کو طلاق کی اجازت دی ہے۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی باور کروادیا گیا ہے کہ

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "أَبْغَضُ الْحَلَائِلِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ".^۱

ترجمہ: ”حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔“ (ترجمہ ختم)

اسی طرح بہت ساری احادیث کے اندر رسول اکرم ﷺ نے بلاوجہ طلاق لینے اور دینے پر بڑی سخت وعیدیں بیان فرمائیں ہیں چنانچہ چند احادیث سپرد قلم کی جاتی ہیں۔

”عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ“.^۲

۱۔ (سنن أبي داؤد: ص ۳۱۵، كتاب الطلاق / باب في كراهية الطلاق، رقم الحديث، ۲۱۷۸، دار الفیحاء)

۲۔ (سنن أبي داؤد: ص ۳۲۲، كتاب الطلاق / باب في الخلع، رقم الحديث، ۲۲۲۶، دار الفیحاء)

ترجمہ: ”حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: جو عورت اپنے خاوند سے کسی سخت تکلیف کے بغیر طلاق کا سوال کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔“
(ترجمہ ختم)

حضرت علی h سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا:
”تزو جوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه عرش الرحمن“۔^۱
ترجمہ: ”نکاح کرو اور طلاق نہ دو کیونکہ طلاق سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔“ (ترجمہ ختم)

”وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ
أَمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانٌ ثُمَّ قَالَ: أَيْلَعِبُ بِكِتَابِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَنْ أَظْهَرَ كُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ أَلَا أَقْتُلُهُ؟“۔^۲

ترجمہ: ”اور حضرت محمود ابن لبید کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کو اس آدمی کے بارے میں بتلایا گیا جس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دی تھیں تو آپ ﷺ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جاتا ہے در آنحالیکہ میں تمہارے درمیان ہوں؟ ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ کیا میں اس آدمی کو قتل نہ

۱۔ (معارف القرآن: ج ۸، ۴۹۲، ادارۃ المعارف)

۲۔ (مشکوٰۃ: ص ۲۸۳، الفصل الثالث/باب الخلع والطلاق، امدادیہ)

کردوں۔“ (ترجمہ ختم)

اس طرح حضرت معاذ h سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا:

”يَا مَعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ

وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ“۔^۱

ترجمہ: ”کہ اے معاذ h اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر جتنی

چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے اس کے نزدیک سب سے زیادہ

پسندیدہ چیز غلام و لونڈی آزاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے روئے

زمین پر جتنی (حلال) چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے اس کے

نزدیک سب سے زیادہ بری چیز طلاق دینا ہے۔“

مذکورہ بالا احادیث کی روشنی میں یہ بات عیاں ہو گئی کہ طلاق اللہ اور اس

کے رسول ﷺ کے نزدیک کتنی بری چیز ہے۔ مگر افسوس ان لوگوں پر جو چھوٹی چھوٹی

باتوں پر طلاق کے اختیار کو بے جا استعمال کرتے ہیں اور اپنی بیوی بچوں کی زندگی کے

آئینے کو پارہ پارہ کر دیتے ہیں پھر شرمندہ ہو کر دوبارہ بیوی سے نکاح کرنے کی راہیں

تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اس رویے سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا

سکتا ہے کہ وہ بھی طلاق کو پسند نہیں کرتے۔

کثرت طلاق کے اسباب

یہ ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے کہ آج دنیا میں طلاق کا بے جا استعمال

ہورہا ہے۔ جس کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے چند نظر قارئین ہیں۔

۱۔ (مشکوٰۃ: ص، ۲۸۴، الفصل الثالث/باب الخلع والطلاق، امدادیہ)

۱۔ طلاق دینے کا سب سے بڑا سبب انسان میں عدم برداشت ہے۔ جس کی پاداش میں وہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے اور الفاظ طلاق کا استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا بلکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کا استعمال عقل مندی سمجھتا ہے جس کے بعد وہ کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے۔ اسی لئے رسول اکرم ﷺ نے غصہ کو برداشت کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد نبوی نقل کرتے ہیں:

”لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ“۔^۱

ترجمہ: ”طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑے بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔“ (ترجمہ ختم)

ایک اور حدیث میں حضور ﷺ نے غصہ کو دور کرنے کا علاج بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالمَاءِ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ“۔^۲

ترجمہ: ”غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔“ (ترجمہ ختم)

ایک اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

۱۔ (مشکوٰۃ: ص ۴۳۳، الفصل الاول / باب الغضب والكبر، امدادیہ)

۲۔ (سنن أبي داود: ص ۶۷۸، کتاب الادب / باب ما يقال عند الغضب، رقم احديث ۴۷۸۴، دار الفیحاء)

”اِنِّیْ لِأَعْلَمَ کَلِمَةً، لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا یَجِدُ، لَوْ قَالَ: اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ“۔^۱

ترجمہ: ”میں ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ یہ اگر اسے کہہ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے وہ کلمہ ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ۔“
(ترجمہ ختم)

۲۔ طلاق دینے کا دوسرا سبب لوگوں کی دین سے دوری، رشتہ ازدواج کی ناواقفیت اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کو نہ پہچاننا ہے۔ بالفاظ دیگر طلاق کی شرح میں اضافے کا سب سے بڑا سبب لاعلمی اور جہالت ہے۔ اسی لئے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کے اندر ازدواجی رشتہ کی اہمیت کو اجاگر کریں اور اسلام کے اختیار طلاق کو بے جا استعمال کرنے پر وعیدوں سے ان کو روشناس کروایا جائے۔

۳۔ طلاق کا تیسرا سبب خاندانی اور گھریلو ناچاقیاں ہیں۔ خسر ساس مند بھاج کے درمیان لڑائیاں رشتوں میں زیادہ کشیدگی پیدا کرتی ہیں۔ جس کی وجہ سے گھر میں سکون کی بجائے حسد و بغض، عداوت اور انتقام کی ایسی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو کبھی بجھتی نہیں اور والدین اور رشتہ داروں کی ذاتی عداوت و نفرت شوہر کو طلاق دینے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ بلا وجہ اپنے

۱۔ (صحیح البخاری: ج، ۴، ص، ۱۱۳، کتاب الأدب/باب الحذر من الغضب، رقم الحدیث، ۶۱۱۵، بیروت)

(وکذا فی صحیح مسلم: ج، ۴، ص، ۲۰۱۵، کتاب البر والصلة والآداب/باب فضل من یملك نفسه عند الغضب وبأی شیء یذهب الغضب، رقم الحدیث، ۲۶۱۰، بیروت)

والدین اور رشتہ داروں کے کہنے پر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے جس سے اس کی بیوی اور بچوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ بلا وجہ والدین یا رشتہ داروں کی ذاتی عداوت کی وجہ سے اپنی بیوی کو طلاق دینا خلاف شریعت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔

”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“۔^۱

ترجمہ: ”مخلوق کے اس حکم کی تابع داری جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔“ (ترجمہ ختم)

۴۔ طلاق کا ایک سبب عورت کا بدخلق ہونا اور دستور کے مطابق شوہر کی فرمانبرداری نہ کرنا۔

۵۔ شوہر کا اپنی بیوی پر ظلم و تشدد کرنا اور انصاف سے کام نہ لینا۔

۶۔ زوجین کا ایک دوسرے کے حقوق کو نہ پہچاننا۔

۷۔ زوجین کا شراب، منشیات اور تمباکو کا استعمال کرنا جو کہ یورپ میں اب ایک فیشن (Fashion) ہے۔ اعاذنا اللہ منہ۔

۸۔ عورت کا صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کرنا اور اپنے شوہر کے سامنے زیب و زینت کا نہ کرنا۔

۹۔ بیوی کا اپنے شوہر سے اچھے انداز سے گفتگو نہ کرنا۔

۱۰۔ زوجہ کا اپنے شوہر سے ملاقات کے وقت خوشی اور مسرت کا اظہار نہ کرنا۔

تلك عشرة كاملة

۱۔ (زاد الطالبین: ص، ۳۳، دار الہدی)

بلا ضرورت بیوی کو طلاق دینے کا حکم

جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے کہ طلاق حلال ہونے کے باوجود اچھی چیز نہیں اور علماء نے طلاق دینے کو بلا وجہ ممنوع قرار دیا ہے چنانچہ صاحب درمختار رقم طراز ہیں:

” (الأصح حظره) أي منعه (الإلحاجة)“۔^۱

”صحیح قول کے مطابق بلا وجہ طلاق ممنوع ہے۔“

نیز علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں:

”اتفقوا على أن الطلاق مكروه في حالة استقامة الزوجين بل قال

أبو حنيفة بتحريمه“۔^۲

ترجمہ: اس پر اتفاق ہے کہ میاں بیوی کی درستی و سلامت روی

کی حالت میں طلاق دینا مکروہ ہے حالانکہ امام ابوحنیفہ کا قول یہ

ہے کہ حرام ہے۔ (ترجمہ ختم)

طلاق کا رکن

زبان سے ایسے مخصوص الفاظ کا تلفظ کرنا جن میں طلاق کا معنی و مفہوم پایا

جاتا ہو یا ایسی چیز پر طلاق کے الفاظ کو لکھنا جس پر لکھائی واضح اور باقی رہنے والی ہو رکن طلاق ہے۔^۳

۱۔ (الدر المختار: ص، ۲۰۵، کتاب الطلاق، بیروت)

۲۔ (المیزان للشعرانی: ج، ۲، ص، ۱۳۵، ماخوذ خزینۃ الفقہ، ج، ۲، ص، ۵۱)

۳۔ ”ورکنه لفظ مخصوص خال عن الاستثناء (الدر المختار) قوله: (ورکنه لفظ

مخصوص) (هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية“

(رد المحتار: ج، ۴، ص، ۴۳۱، کتاب الطلاق / مَطْلَبُ طَلَاقِ الدَّوْرِ، بیروت)

کیا ایس ایم ایس (S.M.S) یا موبائل فون

(Mobile Phone) کے ذریعہ طلاق دینے والے

کو مالی جرمانہ کیا جاسکتا ہے؟

کئی ممالک میں ٹیکسٹ میسج (Text Message) یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ طلاق دینے والے کو مالی جرمانہ کیا جاتا ہے۔ جن میں ملیشیا سرفہرست ہے۔ جیسا کہ ملیشیا کے سینیٹر (Senator) کو موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ طلاق دینے پر جرمانہ کیا گیا تھا۔^۱

احناف سمیت جمہور ائمہ کے نزدیک مالی جرمانہ جائز نہیں۔ احناف میں صرف امام ابو یوسف سے جواز کا قول ملتا ہے لیکن وہ بھی ضعیف روایت ہے۔ مالی جرمانہ ابتدائے اسلام میں جائز تھا لیکن بعد میں منسوخ کر دیا گیا۔ ہاں البتہ بغرض تنبیہ اگر تارک صلوٰۃ والزکوٰۃ کو مالی جرمانہ کرنا ہو تو اس کے جواز کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس شخص سے لئے ہوئے مالی جرمانہ کو الگ رکھا جائے پھر جب وہ اس گناہ سے رک جائے تو مال اس کو واپس کر دیا جائے یا اس کی رضامندی سے کسی کارخیر میں خرچ کر دیا جائے۔ احقر کی رائے میں اگر یہ صورت مالی جرمانہ کی اختیار کر لی جائے ان لوگوں کے لئے جو ٹیکسٹ میسج (Text Message) یا موبائل فون (Mobile Phone) کو بلا ضرورت آلہ انفصال بناتے ہیں تو جائز ہی نہیں بلکہ غیر شرعی طریقہ سے طلاق دینے والوں کی شرح میں بھی کمی کے لئے مؤثر ثابت ہو

۱- http://www.textually.org/textually/archives/2006_html.011254/01

سکتا ہے۔^۱

مسئلہ:..... موبائل فون (Mobile Phone) من وجہ ایک ملاقات ہے جس طرح بیوی کے سامنے یا اس کی غیر موجودگی میں طلاق کے الفاظ سے اس پر طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اسی طرح موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ بھی الفاظ طلاق کے تلفظ سے اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ طلاق دینے کے مسائل درج ذیل ہیں۔

ٹیلی فون (Telephone) سے طلاق

اگر کوئی شخص ٹیلی فون سے طلاق دے تو واقع ہو جائے گی۔ طلاق کے لئے بیوی کی موجودگی ضروری نہیں۔ البتہ محض فون کی آواز طلاق کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں، اس لئے کہ دو آوازوں میں کافی مماثلت اور یکسانیت پائی جاتی ہے، اس لئے محض فون سے طلاق ثابت نہیں ہو سکتی، اگر شوہر انکار کرے کہ اس نے فون نہیں کیا تھا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ عورت کے لئے جائز ہوگا کہ وہ اپنا نفس مرد کے حوالے

۱۔ ”(لا بأخذ مال في المذهب) بحر . وفيه عن البزازیة : وقيل يجوز ، ومعناه أن يمسكه مدة لينزجر ثم يعيده له ، فان أيس من توبته صرفه الى ما يرى . وفي المجتبى أنه كان في ابتداء الاسلام ثم نسخ . (الدر المختار) قوله : (لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح : عن أبي يوسف : يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال . وعندهما وباقي الأئمة : لا يجوز ۱۵ . ومثله في المعراج ، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف . قال في الشرنبلالية : ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه ۱۵“ . (رد المحتار ج ۶ ، ص ۱۰۵ ، ۱۰۶ ، كتاب الحدود / باب التعزير ، مَطْلَبُ : فِي التَّعْزِيرِ بِأَخْذِ الْمَالِ ، بيروت)

کرے۔ (لیکن اگر عورت کو ظن غالب ہے کہ اس کو طلاق اس کے شوہر نے دی ہے تو پھر اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرے جبکہ شوہر نے ایسے الفاظ کہے ہوں جن سے طلاق بائن یا مغلفہ ہوتی ہے) مرد اگر جھوٹ بول رہا ہے تو عند اللہ سخت گناہگار ہوگا اور زانی قرار پائے گا۔ ہاں اگر مرد کو خود ہی اقرار ہو یا دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں اس بات کی شہادت دیں کہ انھوں نے خود مرد کو فون پر طلاق دیتے ہوئے دیکھا اور سنا ہے تو اب شرعی اصول کے مطابق طلاق ثابت ہو جائے گی۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) پر زبردستی طلاق دلوانا

اگر کسی آدمی کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر زبانی طلاق دے۔ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

مسئلہ: اگر شوہر نے متصلاً ان شاء اللہ کہہ دیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۳

۱۔ (جدید فقہی مسائل، حصہ اول، ص ۱۶۶)

۲۔ ”عن ابراہیم قال: طلاق المکرہ جائز“۔ (مکرہ کی طلاق جائز ہے یعنی واقع ہو جاتی ہے) (المصنف لابن أبی شیبہ، ص ۵۷۴، ج ۹، کتاب الطلاق/باب من کان یری طلاق المکرہ جائز، رقم الحدیث، ۸۳۴۳، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

۳۔ ”(ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل)..... (ولو عبداً أو مکرهاً) فان طلاقه صحیح“۔ (الدر المختار مع رد المحتار: کتاب الطلاق، ج ۴، ص ۴۳۸، بیروت)

۳۔ ”(قلو)..... (قال لها أنت طالق ان شاء الله متصلاً)..... مسموعاً بحيث لو قرب شخص أذنه الى فيه يسمع (لا يقع)“۔ (الدر المختار: ج ۴، ص ۶۲۶، ۶۲۳ کتاب الطلاق، باب التعليق، بیروت)

شوہر سے موبائل فون (Mobile Phone) پر

جبراً اقرارِ طلاق

اگر کوئی شخص جبراً شوہر سے کہے کہ اپنی بیوی کو فون (Phone) کر کے کہو کہ میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے تو اس طرح طلاق کا جبراً جھوٹا اقرار کرنے سے اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی جبکہ شوہر نے واقعتاً طلاق نہ دی ہو۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) پر نشہ میں طلاق

نشہ کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر نشہ ایسی چیز کے استعمال سے پیدا ہوا ہو جس کا کھانا پینا حلال ہے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ لہذا اگر کسی نے نشہ میں موبائل فون (Mobile Phone) پر اپنی بیوی کو طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

۱۔ ”قال فی التنویر (ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل)..... (ولو عبداً أو مکرهاً)، وفي الشرح فان طلاقه صحيح لا اقراه بالطلاق“ (الدر المختار مع رد المحتار: ج، ۴، ص، ۴۳۸، ۴۳۹، کتاب الطلاق، بیروت)

”لو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع“ (بحر الرائق: ج، ۳، ص، ۴۲۸، کتاب الطلاق، بیروت)

”وأجمعوا على أنه لو أكره على الاقرار بالطلاق لا ينفذ اقراه“ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۳۸۸، کتاب الطلاق / الباب الاول في تفسيره وركنه وشرطه، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه، بیروت)

۲۔ ”عن مجاهد قال: طلاق السكران جائز“ (مصنف لابن أبي شيبة، ج، ۹، ص، ۵۵۴، باب من أجاز طلاق السكران، رقم الحديث، ۱۸۲۵۸، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

”عن الحكم قال: من طلق في سكر من الله، فليس طلاقه بشيء، ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز“ (مصنف لابن أبي شيبة: ج، ۹، ص، ۵۵۶، من أجاز طلاق السكران، رقم الحديث، ۱۸۲۷۳، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

ڈرگ (Drug) کے نشہ میں موبائل فون

پر طلاق (Mobile Phone)

کسی کو ڈرگ (Drug) کے استعمال کی وجہ سے نشہ ہو گیا اور اس نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر کسی نے ڈرگ (Drug) استعمال کی اور اس کی وجہ سے اس کو نشہ ہو گیا اور اس نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

شوہر کا بیوی کو ودہیلڈ (Withheld) نمبر (Number)

کے ساتھ طلاق دینا

موبائل فونز (Mobile Phones) میں ایک مخصوص آپشن (Option) دبانے سے اپنے نمبر (Number) کو کسی دوسرے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر ظاہر ہونے سے روکا جاسکتا ہے اور دوسرے کے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر نمبر (Number) کے ظاہر ہونے کے بجائے پرائیویٹ کال (Private Call) یا انانیمس کال (Anonymous Call) کا پیغام دکھائی دیتا ہے۔ اسی عمل کو ودہیلڈ (With Held) کا نام دیا گیا ہے۔ چنانچہ کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) کا نمبر (Number) ود

۱۔ ”ومن سکر من البنج يقع طلاقه، ويحد لفشو هذا الفعل بين الناس، وعليه الفتوى في زماننا“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۳۸۸، کتاب الطلاق / الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه، بيروت)

ہیلڈ (Withheld) کر کے طلاق دی تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع ہو جائے گی بیوی کا نمبر (Number) کو پہچاننا ضروری نہیں یا نمبر (Number) کا اس کی اسکرین (Screen) پر ظاہر ہونا ضروری نہیں۔^۱

وائس چینج (Voice Change)

آپلیکیشن (Application) کے ذریعہ طلاق

جدید فونز (Phones) مثلاً آئی فون (Iphone) یا بلیک بیری (Blackberry) موبائل فون (Mobile Phone) میں ایک ایسی آپلیکیشن (Application) ہے جس کے ذریعہ انسان اپنی آواز کسی مرد و عورت کی آواز میں تبدیل کر سکتا ہے اس آپلیکیشن (Application) کو وائس چینج (Voice Change) کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس آپلیکیشن (Application) کے ذریعہ طلاق دی تو اس صورت میں طلاق کا تلفظ کرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی بیوی کا آواز کو پہچاننا ضروری نہیں۔^۲

۱۔ ”لابد فی وقوعہ قضاء و دیانہ من قصد اضافة لفظ الطلاق الیہا عالمًا بمعناہ“۔ (رد المحتار: ج ۴، ص ۴۶۱، کتاب الطلاق / باب الصَّرِیح، مَطْلَبٌ فِي قَوْلِ الْبُخَرِ: إِنَّ الصَّرِیحَ يَحْتَاجُ فِي وَقُوعِهِ دِيَانَةً إِلَى الثَّبُوتِ بِبِرْوَتِ)

” (لترکہ الاضافة) أي المعنوية فانها الشرط والخطاب من الاضافة المعنوية، وكذا الاشارة..... ولا يلزم كون الاضافة صريحة في كلامه.....

وظاهره أنه لا يصدق في أنه لم يرد أمراته للعرف“۔ (رد المحتار: ج ۴، ص ۴۵۸، ۴۵۹، کتاب الطلاق / باب الصَّرِیح، مَطْلَبٌ: سن بوش يَقَعُ بِهِ الرَّجْعِيُّ، بِبِرْوَتِ)

۲۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

بیوی کو طلاق کا وائس میسج (Voice Message) ارسال کرنا

موبائل فونز (Mobile Phones) سے نہ صرف ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیے جاسکتے ہیں بلکہ وائس میسجز (Voice Messages) بھی ارسال کیے جاسکتے ہیں۔ یعنی اپنی ریکارڈ (Record) کی ہوئی یا دوسری ریکارڈ (Record) کی ہوئی آوازوں کو وائس میسج (Voice Message) کے ذریعہ دوسروں کے موبائل فونز (Mobile Phones) پر ارسال کیا جاسکتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر وائس میسج (Voice Message) کے ذریعہ طلاق ارسال کی تو طلاق کا تلفظ کرتے ہی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی بیوی کے پاس وائس میسج (Voice Message) کا پہنچنا ضروری نہیں اور نہ ہی اس کا سننا ضروری ہے۔^۱

ریکارڈ شدہ (Recorded Video) ویڈیو میں بیوی کو طلاق کسی نے ویڈیو (Video) میں اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کو موبائل فون میں محفوظ کر کے ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ بیوی کو ارسال کیا تو طلاق کے تلفظ کے ساتھ ہی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ خواہ بیوی کو میسج (Message) پہنچے یا نہ پہنچے۔^۲

وائس ٹو میسج (Voice To Message) کے ذریعہ طلاق

آج کل موبائل کمپنیوں (Mobile Companies) نے اپنے کلائنٹس

۱۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

۲۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

(Clients) کو سہولت فراہم کی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر وائس میل (Voice Mail) چھوڑتا ہے تو وہ وائس میل (Voice Mail) اس متعلقہ آدمی کے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر لفظوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ آدمی وائس میل (Voice Mail) کو سننے کی بجائے پڑھ سکتا ہے۔ اس کو وائس ٹو میسج (Voice To Message) کہتے ہیں اگر کسی نے اپنی بیوی کے وائس میل (Voice Mail) پر طلاق کا میسج (Message) چھوڑا اور وہ بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر لفظوں کی صورت میں ظاہر ہوا بیوی خواہ اس میسج (Message) کو پڑھے یا نہ پڑھے وائس میل (Voice Mail) پر شوہر کے طلاق کا تلفظ کرتے ہی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگئی۔^۱

شوہر کا بیوی کے وائس میل (Voice Mail) پر

طلاق کا پیغام چھوڑنا

موبائل فونز (Mobile Phones) کے اندر ایک سہولت وائس میل (Voice Mail) کی بھی ہے اگر کسی آدمی سے فی الفور موبائل فون (Mobile Phone) پر رابطہ ممکن نہ ہو تو اس کے وائس میل (Voice Mail) پر کسی قسم کا پیغام چھوڑا جاسکتا ہے جس کو متعلقہ شخص ایک مخصوص نمبر ڈائل (Dial) کر کے سن سکتا ہے۔ چنانچہ اگر شوہر نے بیوی کو رنگ (Ring) کیا اور وہ کسی وجہ سے کال (Call) ریسیو (Receive) نہ کر سکی اور وائس میل (Voice Mail) آن (On) ہو گیا اور اس نے

۱۔ (تقدم تخریجه تحت المسئلة السابقة)

اس کے وائس میل (Voice Mail) پر طلاق کا پیغام چھوڑ دیا تو اس کی بیوی پر تلفظ کے ساتھ ہی طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ وقوع طلاق کیلئے صرف محل ہونا شرط ہے عورت کا موجود یا سامنے ہونا یا طلاق کے الفاظ کو سننا ضروری نہیں۔^۱

بیوی کے غیر استعمال شدہ نمبر (Number) کے وائس میل

(Voice Mail) پر طلاق کا پیغام چھوڑنا

اگر کسی نے اپنی بیوی کے ایسے نمبر (Number) کے وائس میل (Voice Mail) پر طلاق کا پیغام چھوڑا جو اس کے استعمال میں نہیں ہے تو اس سے بھی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی خواہ اس کو اس کا علم ہو یا نہ ہو اور خواہ وہ سیم (Sim) آن (On) کرے یا نہ کرے۔ اور اس کا وائس میل (Voice Mail) سننا بھی ضروری نہیں۔^۲

کیا غیر محرم مرد سے غلط مقصد کے لئے موبائل فون

(Mobile Phone) کے ذریعہ بات یا ٹیکسٹ (Text)

کرنے والی بیوی کو چھوڑ دینا ضروری ہے؟

اگر کسی شخص کی بیوی غیر محرم سے کسی برے مقصد کے لئے موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ رابطہ رکھتی ہے اور اس کا

۱۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

۲۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

شوہر اس کی اصلاح سے مایوس ہو گیا ہو اور اسے طلاق دینے کے بعد مہر دینے میں مشکل نہ ہو تو اس صورت میں ایسی عورت کو طلاق دینا مستحب ہے۔^۱

بیوی کا شوہر کے موبائل فون (Mobile Phone) کی

کال (Call) کا ٹنایا اس کی بیٹری (Battery) کا ختم ہو جانا یا

شوہر کا کال ہولڈ (Hold) پہ لگانا

اگر شوہر نے بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر کال (Call) کے دوران اتنا ہی کہا تھا کہ تجھے طلاق ہے اور بیوی نے کال (Call) کاٹ دی یا پھر اس کے موبائل فون (Mobile Phone) کی بیٹری (Battery) بند ہو گئی یا نیٹ ورک (Network) کی خرابی کے باعث کال (Call) کٹ گئی یا شوہر کے موبائل فون (Mobile Phone) پر کسی کی کال (Call) آگئی اور اس نے بیوی کی کال (Call) ہولڈ (Hold) پہ لگا دی اور شوہر نے کچھ دیر کے بعد یا فوراً ہی کال (Call) ملائی یا کال (Call) کو ان ہولڈ (On Hold) کیا اور کہا کہ تین۔ اگر تو اس کا سکوت سانس لینے کے لئے ہوتا تو تین طلاقیں واقع ہو جاتیں لیکن اس کا یہ سکوت سانس کیلئے نہیں تھا بلکہ کسی اور وجہ سے تھا لہذا اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع نہیں ہوئیں بلکہ ایک طلاق واقع ہوئی ہے۔

اگر بیوی کو کہا کہ تجھے طلاق ہے اور کسی وجہ سے کال (Call) کٹ گئی اور

۱۔ ”بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلاة“۔ (الدر المختار) ”الظاهر أن ترك الفريض غير الصلاة كالصلاة“۔ (ردالمحتار: ج، ۴، ص، ۴۲۸، کتاب الطلاق، بیروت)

دوبارہ کال (Call) ملانے پر بیوی نے پوچھا کہ کتنی طلاقیں؟ تو شوہر نے کہا تین تو بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔^۱

شوہر نے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کی

”طا“ کہی تو بیوی نے کال (Call) کاٹ دی

اگر کسی نے بیوی کو طلاق کی طاہی کہی تھی کہ کسی نے اسے روک دیا یا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور وہ خاموش ہو گیا تو اس کی درج ذیل صورتیں ہیں۔

۱۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق دینے کا ارادہ کیا اور لفظ ”طا“ ہی کہا تھا کہ کسی کا فون (Phone) آگیا اور اس نے کال (Call) ریسیو (Receive) کر لی تو طلاق واقع نہ ہوگی اگرچہ طلاق کی نیت کی ہو۔

۲۔ اگر کسی نے موبائل فون (Mobile Phone) پر ابھی طلاق کی طاہی کہی تھی کہ بیوی نے لائن (Line) کاٹ دی یا شوہر نے کال (Call) میوٹ (Mute) یا ہولڈ (Hold) پہ لگا دی اور وہ طلاق کا پورا لفظ نہ بول سکا تو طلاق نہیں ہوگی۔

نوٹ: اگر بیوی نے لائن (Line) کاٹ دی مگر شوہر نے طلاق کا لفظ پورا کہہ دیا تو اس صورت میں بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

۱۔ ”رجل قال لامرأته: أنت طالق وسكت ثم قال: ثلاثاً أن كان السكوت لانقطاع النفس يقع الثلاث وان كان لا لانقطاع النفس لا يقع الثلاث ولو قال: أنت طالق فقليل له: بعد ما سكت كم قال: ثلاثاً يقع الثلاث كذا في الخلاصة“۔ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۳۹۴، کتاب الطلاق/باب في إيقاع الطلاق، بيروت)

۲۔ ”ولو حذف اللام والقاف بأن قال أنت طاو وسكت أو أخذ انسان فمه لا يقع وان نوى“۔ (البحر الرائق: ص ۴۴۴، ج ۳، کتاب الطلاق/باب الطلاق، بيروت)

فضولی کا کسی کی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) یا

ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دینا

ایک آدمی نے کسی کی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دے کر اس آدمی کو اطلاع دی کہ میں نے تیری بیوی کو طلاق دے دی ہے تو اس پر اس نے علی وجہ الائنکار یوں کہا کہ تو نے اچھا کیا یا برا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہ اس کی طرف سے اجازت نہیں۔ البتہ اگر اس نے کہا کہ بہت اچھا اللہ تجھ پر رحم کرے تو نے مجھے چھٹکارا دیا تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہے جس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) کے لاؤڈ اسپیکر

(Loudspeaker) پر ایک بیوی کو پکارا دوسری نے جواب دیا کسی شخص کی دو بیویاں تھیں ان میں سے ایک کا نام زینب اور دوسری کا نام عمرہ تھا وہ زینب سے موبائل فون (Mobile Phone) کے لاؤڈ اسپیکر (Loudspeaker) پر بات چیت کر رہا تھا۔ دوران گفتگو اس نے زینب کو پکارا تو اس کا جواب زینب کی بجائے عمرہ نے ہاں یا جی کہہ کر دیا شوہر نے کہا کہ تجھے تین طلاق تو عمرہ پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

اگر عمرہ اس کی منکوحہ نہیں تو شوہر کا جملہ باطل ہوگا۔ اگر بعد میں شوہر کو معلوم

۱۔ ”رجل قال لغيره طلقت امرأتك فقال أحسنت أو قال أسأت على وجه الانكار لا يكون أجازة، ولو قال أحسنت یرحمك الله حیث خلصتني منها کان أجازة ۵۱۔“ (البحر الرائق: ج، ۳، ص، ۴۲۷، کتاب الطلاق، بیروت)

ہوا کہ میری پکار کا جواب زینب نے نہیں دیا تھا بلکہ عمرہ نے دیا تھا تو اس پر اگر شوہر نے کہا کہ میں نے زینب کو طلاق دینے کی نیت کی تھی تو زینب پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر اس نے زینب کو پکارا اور کہا کہ تو طلاق والی ہے (أنت طالق) دونوں میں کسی نے اس کو جواب نہیں دیا تو زینب پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے

دوران غیر زوجہ کو زوجہ سمجھ کر نام لیکر طلاق

اگر کسی شخص نے ویڈیو کال (Video Call) کے دوران کسی اجنبی عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر بغیر اشارہ کیے کہا کہ اے زینب (اس کی بیوی کا نام تھا) تجھ کو طلاق اور بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے جس عورت کو طلاق دی تھی وہ کوئی اور عورت تھی تو اس کی بیوی زینب پر قضاء طلاق واقع ہو جائے نہ کہ دیائے^۲

۱۔ ”رجل له امرأتان عمرة وزینب فقال یا زینب، فأجابته عمره فقال أنت طالق ثلاثاً وقع الطلاق على التي أجابت ان كانت امرأته، وان لم تكن امرأته بطل؛ لأنه أخرج الطلاق جواباً بالكلام التي أجابت، وان قال نويت زینب طلقت زینب، ولو قال یا زینب أنت طالق، فلم يجبه أحد طلقت زینب“۔ (فتاویٰ قاضی خان: ج ۱، ص ۳۹۶، کتاب الطلاق، بیروت)

۲۔ ”رجل رأى شخصاً وظن أنها عمرة فقال يا عمرة أنت طالق ولم يشر الى هذا الشخص فاذا الشخص غير عمرة وامرأته عمرة تطلق امرأته لأن المعتبر عند عدم الإشارة هو الاسم وقد وجد“۔ (فتاویٰ قاضی خان: ج ۱، ص ۴۰۶، کتاب الطلاق، بیروت)

”ولو قال يا زینب أنت طالق ولم يشر الى شيء غير أنه رأى شخصاً ظنه زینب وهي غير ها طلقت زینب قضاء لا ديانة كذا في التتارخانية“۔ (الفتاویٰ الهندية: ج ۱، ص ۳۹۳، کتاب الطلاق/باب في ايقاع الطلاق، بیروت)

ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران

عمرہ کو زینب سمجھ کر اشارے سے طلاق دینا

کسی شخص کی دو بیویاں تھیں ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران اپنی دوسری بیوی عمرہ کو زینب سمجھ کر اشارہ کر کے کہا کہ اے زینب (جو اس کی پہلی بیوی کا نام تھا) تو طالق ہے تو اس سے عمرہ پر طلاق واقع ہو جائے گی نہ کہ زینب پر اس لئے کہ اشارے کی وجہ سے نام باطل ہو گیا۔^۱

گوئنگے کا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing)

کے ذریعہ اشارے سے طلاق دینا

اگر گوئنگا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ اشارے سے طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لئے کہ شریعت مطہرہ میں گوئنگے کے اعمال کو اشارات متعارفہ کے ذریعہ معتبر قرار دیا گیا ہے۔ گوئنگے کے اشارات و کنایات کو بھی تکلم کے قائم مقام قرار دے کر طلاق میں معتبر قرار دیا جائے گا اور طلاق واقع کی جائے گی۔^۲

۱۔ ”ولو قال لامرأته: ينظر اليها ويشير اليها يا زينب أنت طالق فاذا هي امرأته أخرى اسمها عمره يقع الطلاق على عمره تعتبر الاشارة وتبطل التسمية“۔ (الفتاوى

الهندية: ج، ۱، ص، ۳۹۳، كتاب الطلاق/باب في ايقاع الطلاق، بيروت)

۲۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهَا قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

(آیت نمبر: ۲۹، سورۃ مریم، ۱۹، پارہ ۱۶)

ترجمہ: سومریم نے بچہ کی طرف اشارہ کر دیا وہ لوگ کہنے لگے کہ بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

پڑھے لکھے گونگے کا ویڈیو کال (Video Call)

کے ذریعہ طلاق دینا

اگر گونگا لکھنا پڑھنا جانتا ہو اور وہ ویڈیو کال (Video Call) کے ذریعہ

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ہم اس سے کیے بات کریں جو گہوارہ میں ابھی بچہ ہی ہے۔ (ترجمہ ختم) (اس آیت سے معلوم ہوا کہ اشارہ کلام کے درجے میں ہے۔ عثمانی)

”عَنْ سَهْلِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئاً“۔ (صحيح البخاري: كتاب الطلاق / باب اللعان، ج ۳، ص ۲۲۵، حدیث نمبر، ۵۳۰۴، بیروت)

(اس اثر میں انگلی کے اشارے سے قربت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عثمانی)

”وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ لِرِمَّةٍ. وَقَالَ حَمَّادُ: الْأَخْرَسُ وَالْأَصَمُّ قَالَ بَرُّ أَبِيهِ جَازٍ“۔ (الصحيح البخاري: ج ۳، ص ۲۲۲، كتاب الطلاق / باب اللعان، رقم الحديث، ۵۳۰۰، بیروت)

(اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گونگا اگر اشارے سے طلاق دے تو واقع ہو جاتی ہے۔

(عثمانی)

”ولو كان الزوج أخرس فان الطلاق يقع بأشارته لأنها صارت مفهومة“۔

(البحر الرائق: ج ۳، ص ۳۳۳، كتاب الطلاق، بیروت)

ترجمہ: اگر شوہر گونگا ہو تو اس کی طلاق اشارہ سے واقع ہوگی اس لئے کہ اشارات لوگوں میں معروف ہوتے ہیں۔ (ترجمہ ختم)

”(بأشارته) المعهودة، فإنها تكون كعبارة الناطق استحساناً“۔ (الدر المختار

مع رد المختار: ج ۴، ص ۲۲۸، كتاب الطلاق، بیروت)

”وأما الإشارة فجعلت حجة في حق الأخرس في حق هذه الأحكام للحاجة الى ذلك لأنها من حقوق العباد ولا تختص بلفظ دون لفظ، وقد ثبت بدون اللفظ“۔

(هداية مسائل شتى ماخوذة من فتح القدير: ج ۱۰، ص ۵۵۸، كتاب الخنثى، بیروت)

اپنی بیوی کو اشارے سے طلاق دے تو معتبر نہیں بلکہ لکھ کر طلاق دینا ضروری ہوگا۔^۱

ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) بطور ثبوت

اگر کسی نے اپنی بیوی کو ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ طلاق دی یا وائس میل (Voice Mail) پر طلاق کا پیغام چھوڑا اور اس کی بیوی نے اسے موبائل فون (Mobile Phone) میں محفوظ (Save) کر لیا۔ شوہر نے بعد میں طلاق سے انکار کر دیا اور بیوی کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں تو بیوی اس ریکارڈ (Record) شدہ ویڈیو کال (Video Call) کو ثبوت کے طور پر کورٹ (Court) یا پنچائیت کے سامنے پیش کر سکتی ہے۔ اور اگر تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ موبائل فون (Mobile Phone) میں سیو (Save) کی گئی آواز شوہر کی ہے اور اگر کورٹ (Court) یا پنچائیت اس بنا پر طلاق کے واقع ہونے کا فیصلہ صادر کر دے تو شرعی اور قانونی طور پر طلاق نافذ ہو جائے گی۔

نوٹ: طلاق بغیر گواہوں کے بھی واقع ہو جاتی ہے بیوی کی موجودگی ضروری نہیں۔ اگر شوہر طلاق دینے کے بعد طلاق سے انکار کرتا ہے اور بیوی کے پاس گواہ و ثبوت نہیں

۱۔ ”وقال بعض المشايخ: ان كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه بالاشارة لاندفاع الضرورة بما هو أدل على المراد من الاشارة“ (البحر الرائق: ج، ۳، ص، ۴۳۳، كتاب الطلاق، بيروت) قال العلامة الشامي: تحت (قوله وقال بعض المشايخ) أقول: هذا القول تصريح بما هو المفهوم من ظاهر الرواية ففي كافي الحاكم ما نصه: فان كان الآخر س لا يكتب وكان له اشارة تعرف في طلاقه ونكاحه وشرائه وبيعه فهو جائز، وان لم يعرف ذلك منه أو شك فيه فهو باطل ۵۱. فقد رتب جواز الاشارة على عجزه عن الكتابة فيفيد أنه ان كان يحسن الكتابة لا تجوز اشارته. (منحة الخالق على البحر الرائق، كتاب الطلاق)

اور اس کو ظن غالب ہے کہ میرے ہی شوہر نے مجھے تین طلاق یا طلاق بائن دی ہے تو اس کے لئے اپنے آپ کو مرد کے حوالہ کرنا جائز نہیں۔^۱

شوہر کا غلطی سے دوسری بیوی کے موبائل فون

(Mobile Phone) پر کال (Call) کر کے طلاق دینا

ایک شخص کی دو بیویاں تھیں جن کا نام زینب اور عمرہ تھا شوہر نے زینب کو طلاق کے ارادے سے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) سے کال (Call) ملائی اور زینب کو فون (Phone) کرنے کے بجائے غلطی سے عمرہ کو رینگ (Ring) کر کے طلاق دے دی بعد میں معلوم ہوا کہ میں نے زینب کے بجائے غلطی سے عمرہ کو طلاق دے دی ہے تو اس سے عمرہ پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لئے کہ غلطی میں طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔^۲

۱۔ ”لو ادعت أن زوجها أبانها بثلاث فأنكر فحلفه القاضي فحلف والمرأة تعلم أن الأمر كما قالت لا يسعها المقام معه“ . (ردالمحتار: ج، ۸، ص، ۹۶، کتاب القضاء/مطلب في القضاء بشهادة الزور، بيروت)

”والمراة كالقاضي اذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحل لها تمكينه“ . (ردالمحتار: ج، ۴، ص، ۴۶۳، کتاب الطلاق/باب الصريح، بيروت)

”والمراة كالقاضي لا يحل لها أن تمكنه اذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها“ . (تبين الحقائق: ج، ۳، ص، ۴۱، کتاب الطلاق/باب الطلاق، بيروت)

۲۔ ”بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجری علی لسانه الطلاق أو تلفظ به غیر عالم بمعناه أو غافلاً أو ساهياً أو بألفاظ مصحفة بقع قضاء فقط، بخلاف الهازل واللاعب فإنه يقع قضاء وديانة، لأن الشارع جعل له به جداً“ . (الدر المختار مع ردالمحتار: ج، ۴، ص، ۴۲۸، ۴۲۹، کتاب الطلاق، بيروت)

شوہر کا غلطی سے رانگ نمبر (Wrong Number)

ملا کر غیر زوجہ کو طلاق دینا

اگر شوہر نے اپنی بیوی کو کال (Call) ملائی اور اتفاق سے رانگ نمبر (Wrong Number) مل گیا کسی اور عورت نے فون (Phone) اٹھایا اور اس نے اس کو اپنی بیوی سمجھ کر طلاق دے دی تو طلاق واقع نہ ہوگی۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) کو ڈائیورٹ

(Divert) پہ لگانا

جدید موبائلز (Mobiles) کے اندر ڈائیورٹ (Divert) کی سہولت موجود ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے نمبر (Number) کو کسی دوسرے نمبر (Number) پر ڈائیورٹ (Divert) کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر رینگ (Ring) کیا اور اس نے اپنا موبائل نمبر (Mobile Number) اپنی بہن کے نمبر (Number) پر ڈائیورٹ

۱۔ ”لو قال: طالق، فقيل له من عني؟ فقال امرأتى طلقت امرأته..... لو قال: امرأة طالق، أو قال: طلقت امرأة ثلاثاً، وقال: لم أعن امرأتى، يصدق ۱ھ. ويفهم منه أنه لو لم يقل ذلك، تطلق امرأته، لأن العادة أن من له امرأة انما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها، فقله: اني حلفت بالطلاق ينصرف اليها مالم يرد غيرها، لأنه يحتمله كلامه.....“ (ردالمحتار: ص، ۴۵۸، ج، ۴، كتاب الطلاق، مَطْلَب: سن بوش يَقَعُ بِهِ التَّرْجِعِيُّ، بیروت) (مزید حوالہ کے لئے دیکھئے تحت عنوان ”شوہر کا ودیہ نمبر کے ساتھ طلاق دینا“)

(Divert) کیا ہوا تھا تو شوہر نے اپنی سالی کو بیوی سمجھ کر طلاق دے دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

شوہر کا نیٹ ورک (Network) خراب ہونے کی وجہ سے
بار بار طلاق کا لفظ دہرانا

اگر شوہر نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر ایک طلاق دی اور بیوی نے نیٹ ورک (Network) کی خرابی کے باعث نہیں سنی یا شوہر کی آواز کٹ رہی تھی اور اس نے شوہر سے سوال کیا کہ تو نے مجھے کیا کہا تھا؟ تو اس نے اس کو دہرا دیا یعنی کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دے دی اس تکرار اور طلاق کے دوبارہ استعمال سے طلاق کے اندر تکرار لازم نہیں آئے گا۔ اس لئے کہ وہ دی ہوئی طلاق کی خبر دے رہا ہے۔^۲

نیٹ ورک (Network) کی خرابی کے باعث موبائل
فون (Mobile Phone) پر آواز کا گونج کر آنا

اگر آدمی اپنی زوجہ کو موبائل فون (Mobile Phone) پر ایک طلاق دیتا

۱۔ (تقدم تخریجه تحت المسئلة السابقة)

۲۔ ”ولو قال لامرأته: أنت طالق فقال له رجل ما قلت فقال: طلقتهأ أو قال قلت: هي طالق فهي واحدة في القضاء كذا في البدائع“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۳۹۰، كتاب الطلاق / باب في ايقاع الطلاق، بيروت)

”ولو قال أنت طالق فقال له رجل أو امرأة ماذا قلت فقال طلقتهأ، أو قلت هي طالق يقع واحدة في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى“۔ (فتاوى قاضى خان، ج، ۱، ص، ۳۹۶، ۳۹۷، كتاب الطلاق، بيروت)

ہے اور نیٹ ورک (Network) کی خرابی کے باعث طلاق کی آواز بیوی کو کئی مرتبہ سنائی دیتی ہے تو اس سے اس کی زوجہ پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔^۱

ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ

بیوی کے جسم کو دیکھنے سے حلالہ کا تحقق نہیں ہوتا ہے

تین طلاق مغلطہ کے بعد مرد اگر مطلقہ بیوی سے دوبارہ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے لئے حلالہ کرنا ضروری ہوگا۔ چنانچہ اگر کسی نے عورت سے نکاح کیا اور ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران اس کے جسم کو دیکھ لیا تو اس سے حلالہ کا تحقق نہیں ہوگا اس لئے حلالہ کے لئے وطی شرط ہے جو یہاں مفقود ہے۔^۲

۱۔ ”وان سمعها من الصدی لا تجب علیہ کذا فی الخلاصة“۔ (الفتاویٰ الہندیہ:

ص، ۱۴۶، ج، ۱، کتاب الصلاة/باب سجود التلاوة، بیروت)

۲۔ ”أَنَّ امْرَأَةً رَفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبِتُّ طَلَاقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْبِرِ الْقُرْظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهَذْبَةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تُزْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا، حَتَّى يَذُوقَ غُسَيْلَتَكَ وَتَذُوقِي غُسَيْلَتَهُ“۔ (الصحيح البخاري: ج، ۳، ص ۴۱۲، كتاب الطلاق/باب مَنْ أَجَارَ طَلَّاقَ الثَّلَاثِ، رقم الحديث، ۵۲۶۰، بیروت)

”ومنها الدخول من الزوج الثاني، فلا تحل لزوجها الأول بالنكاح الثاني، حتى يدخل بها. وهذا قول عامة العلماء. (بدائع الصنائع: ج، ۴، ص، ۴۰۷، كتاب الطلاق، بیروت)

” (لا) ینکح (مطلقة) (بہا) أي بالثلاث (لو حرة وثنتين لو أمة) (حتى يطأها غيره) (تمضي عدته)“۔ (رد المحتار مع الدر المختار: ج، ۵، ص، ۴۰ تا ۴۳، كتاب الطلاق/باب الرجعة، بیروت)

زوجین کا آپس میں موبائل فون (Mobile Phone)

یا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ رابطہ نہ ہونے

سے طلاق نہیں ہوتی

اگر کوئی شخص اپنی زوجہ سے دور رہ رہا ہے اور وہ اس سے کسی وجہ سے موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ رابطہ نہیں رکھتا تو اس سے ازدواجی رشتہ متاثر نہیں ہوتا اور نہ ہی رشتہ نکاح ختم ہوتا ہے۔ کمافی کتاب الفتاویٰ۔^۱

شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) کے لاؤڈ اسپیکر

(Loudspeaker) پر طلاق اور لڑکی کے باپ کی گواہی

اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) کے لاؤڈ اسپیکر (Loudspeaker) پر طلاق دی اور اس نے بعد میں انکار کر دیا کہ میں نے طلاق نہیں دی اور اس کو لاؤڈ اسپیکر (Loudspeaker) پر طلاق دیتے ہوئے لڑکی کے باپ اور چچا نے سنا تو چونکہ گواہوں میں لڑکی کا باپ شامل ہے اور اس کی گواہی بیٹی کے حق میں قبول نہیں لہذا فیصلہ قسم پر ہوگا۔ اگر مرد قسم کھالے کہ میں نے طلاق نہیں دی تو عورت کیلئے جائز ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو مرد کے حوالے کر دے اور اگر حقیقت میں شوہر نے زوجہ کو طلاق دی تو وہ گناہ گار اور زانی کہلائے گا ہاں اگر باپ

۱۔ (کتاب الفتاویٰ: ج ۵، ص ۵۹، زمزم زمزم پبلشرز)

کے علاوہ کوئی اور شخص ہو تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔

بیوی کا نام طالق ہونا یا شوہر کا بیوی کا نام موبائل فون

(Mobile Phone) میں طلاق سن لکھنا

آج کل جدید فونز (Phones) میں یہ سہولت موجود ہے کہ نمبرز (Numbers) کو ناموں کے ساتھ محفوظ کیا جاسکتا ہے اور اگر کوئی ان نمبرز (Numbers) کو ڈائل (Dial) کرنا چاہے تو فون بک (Phone book) میں جانے کے بجائے اگر وہ موبائل فون (Mobile Phone) کے ایک مخصوص بٹن (Button) کو دبانے کے بعد اس محفوظ کیے ہوئے نام کو پکارے گا تو وہ نمبر (Number) اس متعلقہ شخص کے نمبر (Number) پر خود بخود ڈائل (Dial) ہو جائے گا۔ موبائل فون (Mobile Phone) کے اس فیچر (Feature) کو وائس ٹاگ (Voice Tag) کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی

۱۔ ”والد لأبویہ وجدیہ وعکسہ وأحد الزوجین للآخر.....“ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام: لا تقبل شہادۃ الولد لوالدہ، ولا والد لولدہ، ولا المرأة لزوجہا“ (تبیین الحقائق: ج ۵، ص ۷۳، ۱، کتاب الشہادۃ/باب من تقبل شہادۃ ومن لا تقبل، بیروت)

”لا تجوز شہادۃ الوالدین لولدہما“۔ (الفتاویٰ الہندیۃ: ج ۳، ص ۷۳۷، کتاب الشہادات/باب فیمن تقبل شہادۃ ومن لا تقبل، الفصل الثالث فیمن لا تقبل شہادۃ للثمۃ أو لزوم التناقض أو لزوم نقض القضاء، بیروت)

”قال رحمہ اللہ: (ولغیرہا رجلان أو رجل وامرأتان) أي یشتراط لغير الحدود والقصاص وما لا یطلع علیہ الرجال شہادۃ رجلین أو رجل وامرأتین سواء کان الحق مالاً أو غیر مال کالنکاح والطلاق والعقاق والوکالۃ والوصایۃ ونحو ذلک مما لیس بمال“۔ (تبیین الحقائق: ج ۵، ص ۱۵۱، کتاب الشہادۃ، بیروت)

نے اپنی بیوی کا نام فون بک (Phone Book) میں طلاقن یا مطلقہ لکھا ہوا تھا اور وہ اس کا نمبر (Number) وائس ٹاگ (Voice Tag) کے ذریعہ ڈائل (Dial) کرتے ہوئے طلاقن یا طالق کہتا ہے تو اس صورت میں اگر اس کی نیت طلاق کی ہوگی تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی ورنہ نہیں۔^۱

شوہر کا لینڈ لائن (Landline) پر طلاق کے پیغام کو چھوڑنا اگر کسی نے بیوی کے لینڈ لائن (Landline) کے نمبر (Number) پر رنگ (Ring) کر کے طلاق کا پیغام چھوڑا تو اس پر فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

u

۱۔ ”کان اسمها طالقاً أو حرة فنادها ان نوى الطلاق أو العتاق وقعا“۔ (الدر المختار مع رد المحتار: ج ۴، ص ۵۲۱، کتاب الطلاق / باب طلاق غیر المدخول بها، بیروت)

”رجل سمی امرأته مطلقه فقال: سمیتك مطلقه لا يقع الطلاق علیها لا فیما بینہ و بین اللہ تعالیٰ ولا فی القضاء کذا فی فتاویٰ قاضیخان“۔ (الفتاویٰ الہندیۃ: ج ۱، ص ۳۹۴، کتاب الطلاق / باب فی ایقاع الطلاق، بیروت)

۲۔ ”ولو قال لغيره قل لها أنها طالق طلقت للحال“۔ (فتاویٰ قاضی خان: ج ۱، ص ۴۰۶، کتاب الطلاق، بیروت)

ایس ایم ایس S.M.S کے ذریعہ طلاق

تحریر انسانی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب کوئی آدمی کسی چیز کی اطلاع دینے کے لئے دوسرے کے پاس خود حاضر نہیں ہو سکتا تو وہ کتابت و مراسلت کا سہارا لیتا ہے اور اس کے ذریعہ ایک دوسرے سے نہ صرف اپنے جذبات و خیالات کا تبادلہ کرتا ہے بلکہ معاملات اور کاروبار میں بھی اسی کا سہارا لیتے ہوئے گھبراتا نہیں۔ اسلام نے تحریر کا اعتبار کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ“،^۱

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم مقررہ مدت تک ادھار لینے دینے کا معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو۔ (ترجمہ ختم)

قرآن مجید کی اس آیت سے یہ بات عیاں ہو گئی کہ اسلام نے تحریر کا ایک گونہ اعتبار کیا ہے۔ نیز اس بات کی تائید رسول اکرم ﷺ کی عادت شریفہ سے بھی ہوتی ہے آپ نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے خطوط لکھے۔ ایک صحابی کے ذریعہ زکوٰۃ کے مسائل تحریری شکل میں حضرت حکیم بن حزام h کو پہنچائے۔ رسول اکرم ﷺ نے یہود کو حضرت عبد اللہ بن سہل کے قتل پر خط لکھا جس کے جواب میں انھوں نے لکھا کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر h نے اپنے عامل کو حدود کے بارے میں لکھا۔

اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تحریر کا اعتبار اس وقت ہوتا ہے کہ جب

۱۔ (آیت نمبر، ۲۸۲، سورۃ البقرۃ، پارہ، ۳)

دوسرے طرق سے اس بات کا غالب گمان ہو جائے کہ یہ تحریر واقعہ اسی آدمی کی ہے جس کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اس لئے اثر اور فقہاء کی عبارتوں میں الخط تشبہ الخط کا اصول ملتا ہے کہ ایک خط دوسرے خط کے مشابہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے مکتوبات پر آپ کی مہر ثبت ہوتی تھی۔ جو اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ تحریر آپ ﷺ کی جانب سے بھیجی گئی ہے۔

چنانچہ فقہاء نے کتاب القاضی الی القاضی کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح دوکانداروں کے جوہی کھاتوں کو معتبر قرار دیا گیا ہے۔^۲

۱۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج، ۳، ص، ۳۵۹، کتاب أدب القاضي/باب فی کتاب القاضي الی القاضي، الباب الثالث والعشرون فی کتاب القاضي الی القاضي، بیروت) (عن أبي معاوية قال: سألت الشعبي، قلت: يشهدني الرجل على الرجل بالشهادة، فأوتى بكتاب يشبه كتابي، وخاتم يشبه خاتمي، ولا أذكر. فقال الشعبي: لا تشهد حتى تذكر“.

(مصنف عبد الرزاق: ج، ۸، ص، ۲۷۶، باب الشاهد يعرف كتابه، ولا يذكره، رقم الحديث، ۱۵۶۰۸، بیروت)

۲۔ ”أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَبِيرٍ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ، فَأَخْبَرَ مُحَيِّصَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ قُتِلَ وَطَرِحَ فِي قَبْرِ أَوْعَيْنَ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ، قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللَّهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَلَذَّكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ خُوَيْصَةَ. وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَبِيرٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبْرًا. يُرِيدُ الشَّنَّ فَتَكَلَّمَ خُوَيْصَةَ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِمَّا أَنْ يَدُوصَا جَبْجَبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنَا بِحِزْبٍ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ: مَا قَتَلْنَاهُ..... (صحيح البخاري: ج، ۴، ص، ۳۹۰، باب كِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَمَّالِهِ، وَالْقَاضِي إِلَى أَمَنَائِهِ، رقم الحديث، ۷۱۹۲، بیروت)

”وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْخُدُودِ“. بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

جس طرح دوسرے امور میں تحریر پر اعتماد کیا گیا ہے اس طرح طلاق وغیرہ امور میں بھی اس پر اعتماد کیا گیا ہے۔ جیسے تکلم سے طلاق واقع ہو جاتی ہے تو اسی طرح لکھنے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ لکھنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ٹیکسٹ میسج، (Text Message) ای میل (Email) اور ٹائپ رائٹر (Typewriter) وغیرہ کے ذریعہ جو کچھ لکھا جاتا ہے وہ تحریر ہی کے حکم میں ہے لہذا ان مذکورہ چیزوں کے ذریعہ دی گئی طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق بالکتابت کئی قسم کی ہے۔

۱۔ مستینہ

۲۔ غیر مستینہ

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ (صحیح البخاری: ج، ۴، ص، ۳۷۹، باب الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ، وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ، وَكِتَابُ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي، رقم الحديث، ۷۱۶۲، بیروت)

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ، قَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ ﷺ خَاتَمًا مِنْ فِصَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِهِ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. (صحیح البخاری: ج، ۴، ص، ۳۸۰، باب الشهادة على الخط المختوم..... رقم الحديث، ۷۱۶۲، بیروت)

”قَالَ ابْنُ أَبِي هَيْمٍ: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ.“ (صحیح البخاری: ج، ۴، ص، ۳۸۰، باب الشَّهَادَةُ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ..... رقم الحديث، ۷۱۶۲، بیروت)

”وَأَمَّا خَطُّ الْبَيْعِ وَالصَّرَافِ وَالسَّمْسَارِ فَهُوَ حُجَّةٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُصَدَّرًا مَعْنُونًا تَعْرِفُ ظَاهِرَ ابْنِ النَّاسِ، وَكَذَا مَا يَكْتُبُ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً لِلْعَرَفِ ۱۵۔ (رد المحتار: ج، ۸، ص، ۱۳۶، كتاب القضاء/باب كتاب القاضي الى القاضي وغيره، مَطْلَبٌ: فِي دَفْتَرِ الْبَيْعِ وَالصَّرَافِ وَالسَّمْسَارِ، بیروت)

پھر مستینہ کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ مرسومۃ

۲۔ غیر مرسومۃ

مستینہ وہ ہے کہ طلاق کو کسی کاغذ یا دیوار یا ایسی چیز پر تحریر کرنا جس سے لکھائی واضح اور باقی رہنے والی ہو۔

غیر مستینہ وہ ہے جس کی تحریر ظاہر، واضح اور پڑھنے کے قابل نہ ہو۔ جیسے پانی یا ہوا میں ہاتھ کا چلا کر طلاق لکھنا وغیرہ۔

مرسومہ وہ ہے جس کو باضابطہ عنوان دے کر لکھا جائے جیسے اسٹامپ پیپر (Stamp Paper) وغیرہ پر لکھا جاتا ہے یا معتاد طریقہ سے لکھا جائے۔

غیر مرسومہ وہ ہے جو بیوی کو مخاطب کیے بغیر اور باقاعدہ عنوان کے تحت نہ لکھی گئی ہو یا طلاق اور خط کے معتاد طریقے کے خلاف لکھی گئی ہو۔

مرسومہ سے مطلقاً قضاء و دیانۃ طلاق واقع ہو جاتی ہے خواہ نیت ہو یا نہ ہو۔ اور غیر مرسومہ سے اگر نیت ہو تو قضاء و دیانۃ طلاق ہو جاتی ہے اور غیر مرسوم میں اگر نیت نہ ہو تو نہ قضاء طلاق ہوتی ہے اور نہ دیانۃ۔ غیر مستینہ میں نیت ہو یا نہ ہو طلاق واقع نہیں ہوتی نہ قضاء نہ دیانۃ۔^۱

۱۔ ”عن ابراہیم اذا کتب الطلاق بیدہ و جب علیہ“۔ (مصنف لابن ابی شیبہ: ج ۹، ص ۵۲۲، باب فی الرجل یکتب طلاق امرأته بیدہ، شركة دار القبلۃ، المملكة العربیۃ السعودیۃ)

” (کتب الطلاق.....) قال فی الهندیۃ: الكتابة علی نوعین: مرسومۃ، وغیر مرسومۃ. ونعني بالمرسومة أن يكون مصدر أو معنواً مثل ما یکتب الی الغائب، وغیر المرسومۃ أن لا یكون مصدر أو معنواً، وهو علی وجهین: بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

نوٹ: آج کل ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دینے کا جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ ہمارے عرف میں لوگ ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعے مختصر الفاظ میں ہی طلاق دیتے ہیں۔ مثلاً میں نے تمہیں طلاق دی یا انگریزی میں ”I Divorce You“ کے الفاظ کے ساتھ طلاق دی یہ سب مرسومہ میں داخل ہیں۔ ہاں اگر صرف طلاق کا لفظ لکھا تو یہ غیر مرسومہ ہو گا اور بدون نیت طلاق واقع نہ ہوگی۔ اگر ای میل (Email) باضابطہ عنوان دے کر لکھا جائے جس طرح ہمارا عرف ہے تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔

شوہر کا فون بک (Phone Book) میں ایک ہی بیوی

کے نام کے تحت دوسری بیویوں کے نمبرز (Numbers)

کو محفوظ کر کے غلطی سے سب کو طلاق کا ٹیکسٹ میسج

(Text Message) ارسال کرنا

فون بک (Phone book) میں ایک ہی نام کے تحت کئی لوگوں کے نام

محفوظ کیے جاسکتے ہیں۔ اور اگر کئی لوگوں کو ایک ہی ٹیکسٹ میسج (Text Message)

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ مستبينة، وغير مستبينة فالمستبينة ما يكتب على الصحيفة والحائط والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته؛ وغير المستبينة ما يكتب على الهواء والماء وشيء لا يمكن فهمه وقراءته. ففي غير المستبينة لا يقع الطلاق وان نوى؛ وان كانت مستبينة لكنها غير مرسومة ان نوى الطلاق يقع، والا لا؛ وان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو“ (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۴۵۵، ۴۵۶، کتاب الطلاق، بیروت)

ارسال کرنا ہو تو ایک مخصوص آپشن (Option) دبانے سے ایک ہی وقت میں کئی لوگوں کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ چنانچہ کسی کی تین بیویاں (زینب، عائشہ اور عمرہ) تھیں اور اس نے ان کے نمبرز (Numbers) عائشہ کے نام کے تحت محفوظ کیے ہوئے تھے۔ اور عائشہ کو طلاق دینے کی غرض سے ایس ایم ایس (S.M.S) لکھا مگر غلطی سے ایک مخصوص آپشن (Option) منتخب کرنے کی وجہ سے دوسری بیویوں کے نمبرز (Numbers) پر بھی ارسال کر دیا تو اس صورت میں ان سب پر قضاء طلاق واقع ہو جائے گی نہ کہ دیانہ اور دیانہ و قضاء عائشہ پر طلاق واقع ہو جائے گی جس کے لئے اس نے ایس ایم ایس (S.M.S) لکھا تھا۔^۱

شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) میں بیویوں کے نام محفوظ نہ کرنے کی وجہ سے عائشہ کے بجائے زینب کو طلاق دینا کسی نے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) میں اپنی بیویوں کے نمبرز (Numbers) تو محفوظ کیے ہوئے تھے لیکن نام محفوظ نہیں کیے جس سے یہ پتہ نہیں لگتا کہ کونسا نمبر (Number) کس کا ہے چنانچہ شوہر نے اپنی بیوی عائشہ کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) بھیجنے کی بجائے غلطی سے زینب کو بھیج دیا تو اس صورت میں زینب پر طلاق دیانہ واقع نہیں ہوگی البتہ قضاء واقع ہو جائے گی۔^۲

۱۔ ”بأن أراد أن يقول سبحانه الله فجری علی لسانه أنت طالق تطلق؛ لأنه صریح لا یحتاج الی النیة“۔ (ردالمحتار: ج، ۴، ص، ۴۳۸، کتاب الطلاق، مَطْلَبُ: فی الحَشِيشَةِ وَالْأَفْیُونِ وَالْبَنْجِ، بیروت)

۲۔ ”وفی عبارة بعض الكتب: أن طلاق المخطیء واقع قضاءً لادیانہ“۔ (الاشباه والنظائر: ص، ۳۶، القاعدة الأولى: لا ثواب الا بالنیة، بیروت) بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

کسی کا شوہر کو عائشہ کے بجائے زینب کا نمبر (Number) دینا

اور شوہر کا زینب کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) بھیجنا

شوہر نے کسی کو کہا کہ مجھے میری بیوی عائشہ کا نمبر (Number) ایس ایم

ایس (S.M.S) کر دو تو ارسال کرنے والے نے عائشہ کے بجائے زینب کا نمبر

(Number) ارسال کر دیا تو شوہر نے طلاق لکھ کر زینب کے نمبر (Number) پر

ٹیکسٹ (Text) کر دی تو زینب پر قضاء طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

شوہر کا طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) میں

غلطی سے ایک بیوی کا نام لکھنا پھر ڈیلیٹ (Delete)

کر کے دوسری بیوی کا نام لکھنا

کسی شخص کی دو بیویاں (زینب اور عمرہ) ہیں اس نے زینب کو طلاق دینے

کی غرض سے ایس ایم ایس (S.M.S) لکھتے وقت زینب کے بجائے عمرہ کا نام لکھ دیا

بعد میں پورا میسج (Message) پڑھنے پر معلوم ہوا کہ عمرہ کا نام غلطی سے لکھ دیا ہے تو

اس نے اس وقت عمرہ کا نام ڈیلیٹ (Delete) کر کے زینب کا نام لکھ کر اس کے

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ”اُن اُسْد اُسْل عَمْن اُرَاد اُنْ يَقُولُ زَيْنَب طَالِقٌ فَعَجَرِي عَلٰی

لِسَانِهِ عَمْرَةَ عَلٰی اُيْهَمَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فَقَالَ: فِي الْقَضَاءِ تَطْلُقُ الَّتِي سَمِي، وَفِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ

اللّٰهِ تَعَالٰی لَا تَطْلُقُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا“۔ (البحر الرائق: ج، ۳، ص، ۳۵۰، کتاب الطلاق

/باب الطلاق، بیروت)

۱۔ ”الناسي والمخطيء والذاهل كالعامد“۔ (الاشباه والنظائر: ص، ۳۷۶، الفن

الثالث: الجمع والفرق /أحكام الكتابة، بیروت)

موبائل فون (Mobile Phone) پر سینڈ (Send) کر دیا تو اس صورت میں اس کی دونوں بیویوں (زینب اور عمرہ) پر طلاق واقع ہو جائے گی اس لئے کہ اس نے لکھتے ہوئے طلاق کی اضافت دونوں بیویوں (زینب اور عمرہ) کی طرف کی ہے اور دوسرا یہ کہ احناف کے نزدیک طلاق بالخطا بھی واقع ہو جاتی ہے جبکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ طلاق بالخطا واقع نہیں ہوتی۔^۱

شوہر کا بیوی کو مذاق میں طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا

اگر کسی نے اپنی بیوی کو مذاق میں طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ مزید برآں صاحب درمختار کہتے ہیں:

”بخلاف مذاق میں طلاق دینے والے یا کھیل میں لفظ طلاق کا استعمال کرنے والے کے لئے وقوع طلاق کا حکم لگایا جائے گا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں دی جانے والی طلاق کو حقیقت قرار دیا ہے۔“ اور اس کی علت بیان کرتے ہوئے صاحب رد المحتار فرماتے ہیں:

۱۔ ”(لترکۃ الاضافة) أي المعنویۃ فانها الشرط والخطاب من الاضافة المعنویۃ، وكذا الاشارة نحو هذه طالق، وكذا انحو امرأتي طالق وزینب طالق ھ ح. (رد المحتار ج: ۴، ص، ۴۵۸، کتاب الطلاق / مَطْلَب: سن بوش یَقْعُ بِهِ الزَّجْعِيُّ، بیروت) ”وكذلك الرجل يريد أن يتكلم بكلام، فسبق لسانه بالطلاق فالطلاق واقع، حتى ان الرجل لو أراد أن يقول لامرأته: فسبقه اللسان فقال: أنت طالق، قال هي طالق.“ (المحيط البرهاني: ج: ۴، ص، ۳۹۲، کتاب الطلاق / الفصل الثالث: من يقع طلاقه ومن لا يقع، ادارة القرآن)

”چونکہ اس نے سبب کا استعمال ارادۂ کیا ہے اس لئے اس پر مرتب ہونے والا حکم لازم آئے گا اگرچہ اس کی مرضی کے خلاف ہو۔“^۱

شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) میں سگنل (Signal) کی کمی کی وجہ سے دوسری بیوی (عمرہ) کی آواز کو نہ پہنچانا اور عمرہ کا زینب بن کر بات کرنا

کسی شخص کی دو بیویاں (زینب اور عمرہ) ہیں۔ اس نے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) سے اپنے لینڈ لائن (Landline) پر کال ملائی اس کی دوسری بیوی (عمرہ) نے کال ریسیو (Receive) کی تو موبائل فون (Mobile Phone) میں سگنلز (Signals) کی کمی کی وجہ سے اپنی دوسری بیوی (عمرہ) کی آواز نہ پہنچانی اور اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو زینب ہے؟ تو عمرہ نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ہاں۔ اس پر شوہر نے کہا کہ تجھے طلاق ہے تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۲

۱۔ ”بخلاف الهازل واللاعب فانه يقع قضاء وديانة، لأن الشارع جعل هزله به جداً“۔ (الدر المختار: ص، ۲۰۶، کتاب الطلاق، بیروت)

”لأنه تكلم بالسبب قصد أفيلزمه حكمه وان لم يرض به“۔ (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۴۴۹، کتاب الطلاق/مَطْلَبُ فِي الْحَشِيَّةِ وَالْأَفْيُونِ وَالْبَنَجِ، بیروت)

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالزَّجْعَةُ“۔ (سنن الترمذی: ج، ۲، ص، ۲۴۰، کتاب الطلاق واللعان/باب: مَا جَاءَ فِي الْجِدِّ وَالْهَزْلِ فِي الطَّلَاقِ، رقم الحديث، ۱۱۸۴، بیروت)

۲۔ ”ولو قال: أنت زینب فقالت: عمرة نعم فقال: اذن أنت طالق لا تطلق“۔ (فتح القدیر: ج، ۴، ص، ۷، کتاب الطلاق/باب ايقاع الطلاق، بیروت)

بنیت تاکید طلاق ایس ایم ایس (S.M.S)

سے ارسال کرنا

کسی نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایک طلاق دی۔ اور باقی دو ایس ایم ایس (S.M.S) طلاق کی تاکید کے لئے ارسال کیے تو اس سے اس کی بیوی پر دینا ایک طلاق واقع ہوگی اور قضاء تین طلاقیں واقع ہوں گی۔

بیوی کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھائی کے بغیر ملنا

اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعے طلاق دیتا ہے لیکن بیوی کو لکھائی سے خالی ایس ایم ایس (S.M.S) موصول ہوا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی چاہے نیت کرے یا نہ کرے اور بیوی کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) پڑھنا بھی ضروری نہیں۔

۱۔ ”کرر لفظ الطلاق وقع الكل، وان نوى التأکید دين (الدر المختار) أي وقع الكل قضاء“ (الدر المختار مع رد المحتار: کتاب الطلاق/باب طَلَاقٍ غَيْرِ الْمَذْخُولِ بِهَا، ج ۴، ص ۵۲۱، بیروت)

”رجل قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقال: عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة افهامها صدق ديانة وفي القضاء طلقت ثلاثاً كذا في فتاوى قاضي خان“ (الفتاوى الهندية: : کتاب الطلاق/باب في إيقاع الطلاق، الفصل الأول في الطلاق الصريح، ج ۱، ص ۳۹۰، بیروت)

۲۔ ”أَنْ كَتَبَ عَلَى وَجْهِ الرِّسَالَةِ مَصْدَرًا مُعْتَوْنًا، وَثَبَتَ ذَلِكَ بِاقْرَارٍ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ؛ فَكَالْخُطَابِ“ (الاشباه والنظائر: ص ۳۷۵، الفن الثالث: الجمع والفرق/أحكام الكتابة، بیروت)

بیوی کے سامنے طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا کسی نے بیوی کے سامنے بیٹھ کر بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

ڈرائنگ (Drawing) کے ذریعہ طلاق

جدید موبائل فونز (Mobile Phones) میں میسجز (Messages) ٹائپ کرنے کے ساتھ ساتھ انگلیوں کے ساتھ بھی لکھا جاسکتا ہے۔ اور اس کو انگلیوں سے مٹایا اور محفوظ بھی کیا جاسکتا ہے۔ موبائل فون (Mobile Phone) کے اس فیچر (Feature) کو ڈرائنگ (Drawing) کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے بیوی کو اس فیچر (Feature) کے ذریعہ طلاق دی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ چاہے وہ

۱۔ ”(قالوا الكتابة) على ثلاثة أوجه (أما مستبين مرسوم) أي معنون مصدر مثل أن يكتب في أوله من فلان إلى فلان أو يكتب إلى فلان، وفي آخره من فلان على ماجرت به العادة (وهو) أي هذا المذكور من الكتابة (كالنطق في الغائب والحاضر) على ما قالوا: فيلزم حجة. وفي زماننا: الختم شرط لكونه معتاداً“. (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، ج ۴، ص ۴۷۴، مسائل شتی بعد کتاب الخنثی قبل الفرائض، بیروت)

”ثم الكتابة على ثلاثة أوجه: مستبين مرسوم أي معنون وهو يجري مجرى النطق في الحاضر والغائب على ما قالوا..... (الفتاوى الهندية: ج ۶، ص ۴۹۳، کتاب الخنثی/مسائل شتی قبل کتاب الفرائض، بیروت)

”ثُمَّ الْكِتَابُ عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبٍ: مُسْتَبِينٌ مَرْسُومٌ وَهُوَ يَمْنَزِلُ النُّطْقِ فِي الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ عَلَى مَا قَالُوا“۔ (الهداية: مسائل شتی ماخوذ از العناية شرح الهداية، ج ۶، ص ۶۱۳، بیروت)

بیوی کو ارسال کرے یا نہ کرے یا اس کو اسی وقت انگلیوں سے مٹا دے۔^۱

ڈرائنگ (Drawing) میں لفظ طلاق مذاق میں

لکھ کر بیوی کو دکھانا

کسی نے اپنی بیوی کو ڈرائنگ (Drawing) میں فقط لفظ طلاق مذاق میں لکھ کر بیوی کو دکھایا تو اس سے بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ فقط لفظ طلاق میں نہ تو عورت کی طرف نسبت ہے اور نہ ہی اس کی طرف زبانی نسبت۔ لہذا عدم نیت کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور نہ صرف دکھانے سے نسبت ثابت ہوتی ہے۔^۲

۱۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

۲۔ ”وأما الكناية فنوعان: نوع هو كناية بنفسه وضماً، ونوع هو ملحق بها شرعاً في حق النية. أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في الطلاق..... (الى قوله) وأما النوع الثاني: فهو أن يكتب على قرطاس، أو لوح، أو أرض، أو حائط كتابة مستبينة، لكن لا على وجه المخاطبة: أمر أنه طالق فيستل عن نيته، فإن قال: نويت به الطلاق وقع، وإن قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء: لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة الكتابة؛ لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجه، ويريد به الطلاق، وقد يكتب لتجريد الخط، فلا يحمل على الطلاق إلا بالنية، وإن كتب كتابة غير مستبينة، بأن كتب على الماء أو على الهواء، فذلك ليس بشيء، حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن ما لا نستبين به الحروف لا يسمى كتابة، فكان ملحقاً بالعدم، وإن كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة؛ مثل أن يكتب: أما بعد يا فلانة، فأنت طالق، أو اذا وصل كتابي اليك فأنت طالق يقع به الطلاق..... (بدائع الصنائع: ج، ۴، ص، ۲۳۰ تا ۲۳۹، كتاب الطلاق/فصل في الكناية في الطلاق، بيروت)

طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) میں بیوی کے

باپ کے نام کے سپیلنگ (Spelling) غلط لکھنا

کسی نے اپنی زوجہ کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ طلاق

دی اور ایم ایس (S.M.S) میں بیوی کے باپ کے نام کے سپیلنگ (Spelling) غلط لکھ دیے تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

شوہر کا بیوی کو طلاق دینا اور اس کے دوستوں کا متعدد بار

ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ سوال کرنا

کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے ایک دوست نے اس کو

ایم ایس (S.M.S) کر کے سوال کیا کہ تم نے بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ اس

نے ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ جواب دیا کہ ہاں دی ہے۔ پھر دوسرے اور

تیسرے دوست نے ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ یہی سوال کیا تو اس نے وہی

جواب لکھا تو اس صورت میں اس پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی نہ کہ تین اس لئے کہ

دوسری یا تیسری بار سوال کے جواب میں انشاء طلاق مقصود نہیں بلکہ اخبار مقصود

ہے۔^۲

۱۔ ”قال امرأته عمرة بنت صبيح طالق وامرأته عمرة بنت حفص ولا نية له لا تطلق

امرأته.....وان نوى امرأته فى هذه الوجوه طلقت امرأته فى القضاء وفيما بينه

وبين الله تعالى كذا فى خزانة المفتين“ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۳۹۳، كتاب

الطلاق/باب فى ايقاع الطلاق، الفصل الأول فى الطلاق الصريح، بيروت)

۲۔ قال فى شرح التنوير فى آخر باب طلاق غير المدخول بها بقية حاشية اگلے صفحہ پر

طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) میں بیوی کے

نام کے سپیلنگ (Spelling) غلط لکھنا

کسی آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کرتے ہوئے بیوی کے نام کے سپیلنگ (Spelling) غلط لکھ دیے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر اس نے بیوی کے نام میں ایسے سپیلنگ (Spelling) لکھ کر طلاق دی ہے جو قریب الحرج بھی نہ ہوں اور نہ وہ اس نام سے پکاری یا پہچانی جاتی ہو (مثلاً عورت کا نام Habibah ہے تو اس نے Hubabah لکھ دیا) اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ طلاق کیلئے اضافت حقیقی یا معنوی ضروری ہے جو یہاں نام کے سپیلنگ (Spelling) بدل جانے سے نہیں پائی گئی لہذا طلاق نہیں ہوئی۔

ہاں اگر شوہر طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) میں یوں لکھے کہ میں نے اپنی زوجہ Hubabah کو طلاق دی تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ نام کے سپیلنگ (Spelling) بدل جانے سے تصحیف ہوگئی مگر اپنی زوجہ کہہ

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ (فروع) کرر لفظ الطلاق وقع الكل، وفي الشامية تحت القول المذكور وإذا قال: أنت طالق ثم قيل له ما قلت؟ فقال: قد طلقته أو قلت هي طالق فهي طالق واحدة لأنه جواب، كذا في كافي الحاكم“ (ردالمحتار: ج، ۴، ص، ۵۲۱، کتاب الطلاق / باب طلاق غير المدخول بها، بيروت)

”(لا) يلحق البائن (البائن) إذا أمكن جعله اخباراً عن الأول..... فلا يقع لأنه اخبار فلا ضرورة في جعله انشاءً، وفي الشامية قوله: (لأنه اخبار) أي يجعل اخباراً لأنه أمكن ذلك“ (ردالمحتار: ج، ۴، ص، ۵۴۲ الى ۵۴۵، کتاب الطلاق / باب الكنايات، بيروت)

کر طلاق کی اضافت اپنی منکوحہ کی طرف کر دی ہے۔^۱

موبائل چیٹنگ (Mobile Chatting) کے دوران بیوی کو طلاق دینا

کمپیوٹر (Computer) کی طرح موبائل فونز (Mobile Phones) پر چیٹنگ (Chatting) کی سہولت موجود ہے جس کے ذریعے انسان کسی بھی وقت کہیں بھی دنیا میں بیٹھے ہوئے شخص سے با آسانی گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن موبائل چیٹنگ (Mobile Chatting) صرف آواز ہی سے نہیں ہوتی بلکہ کتابت سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی آدمی نے چیٹنگ (Chatting) کے دوران اپنی بیوی کو طلاق دی تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) سے

بیوی کو طلاق کا ای میل (Email) بھیجنا

آج کل جدید موبائل فونز (Mobile Phones) میں انٹرنیٹ (Internet) کی سہولت موجود ہے۔ انسان کسی بھی وقت کسی بھی جگہ انٹرنیٹ (Internet) کو

۱۔ (تقدم تخریجہ تحت عنوان) ”شوہر کا طلاق کے ٹیکسٹ میسج“
(Text Message) میں غلطی سے ایک بیوی کا نام لکھنا پھر ڈیلیٹ (Delete) کر کے دوسری بیوی کا نام لکھنا“

۲۔ ”فروع: کتب الطلاق، ان مستبینا علی نحو لوح وقع ان نوی، وقیل: مطلقاً، ولو علی نحو الماء فلا مطلقاً“۔ (الدر المختار) ”وان کانت مرسومة یقع الطلاق نوی أو لم ینو. ثم المرسومة لا تخلو أما ان أرسل الطلاق بأن کتب: أما بعد فأنت طالق، فکما کتب هذا یقع الطلاق“۔ (رد المحتار: ج ۴، ص ۴۵۵، ۴۵۶، کتاب الطلاق / مطلب فی الطلاق بالکتابۃ، بیروت)

موبائل فون (Mobile Phone) پر استعمال کر سکتا ہے چنانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے موبائل فون (Mobile Phone) سے طلاق کا ای میل (Email) بھیجا تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

بیوی کا طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو ریسپو

(Receive) نہ کرنا

کبھی کبھی موبائل فون (Mobile Phone) کا نیٹ ورک (Network) مصروف ہو یا کوئی ٹیکنیکل (Technical) خرابی ہو تو ٹیکسٹ میسج (Text Messages) متعلقہ آدمی تک نہیں پہنچتے۔ چنانچہ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) ارسال کیا اور اسے میسج (Message) وصول نہیں ہوا تو بھی اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

شوہر کا بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) میں طلاق اور سینڈ

(Send) کے بٹن (Button) کا خراب ہو جانا

کسی نے اپنی بیوی کے لئے موبائل فون (Mobile Phone) میں طلاق لکھی اور اسے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ارسال کرنا چاہا مگر سینڈ (Send) کا بٹن (Button) خراب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ارسال نہ ہو سکا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۳

۱۔ (تقدم تخریجه تحت المسئلة السابقة)

۲۔ (تقدم تخریجه تحت المسئلة السابقة)

۳۔ (تقدم تخریجه تحت المسئلة السابقة)

موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر

ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے الفاظ کا پورا نظر نہ آنا

کسی نے اپنی بیوی کو ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دی اور بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر ٹیکسٹ (Text) کے الفاظ آدھے دکھائی دینے لگے جو کہ پڑھنے کے قابل نہ تھے تو اس صورت میں بھی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ بیوی کا طلاق کا ایم ایس (S.M.S) پڑھنا ضروری نہیں۔^۱

شوہر کا طلاق کا ایم ایس (S.M.S) لکھ کر ڈرافٹ

(Draft) میں محفوظ کرنا

موبائل فونز (Mobile Phones) میں ایک سہولت ڈرافٹ (Draft) کی بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے لکھے ہوئے ایم ایس (S.M.S) کو موبائل فون (Mobile Phone) میں محفوظ کرنا چاہے تو ڈرافٹ (Draft) میں محفوظ کر سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) میں طلاق کا ایم ایس لکھا اور اپنی بیوی کو ارسال کیے بغیر ڈرافٹ (Draft) میں محفوظ کر لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

۱۔ (تقدم تخریجہ تحت المسئلة السابقة)

۲۔ (تقدم تخریجہ تحت المسئلة السابقة)

طلاق کا مضمون لکھ کر لاعلمی میں شوہر سے میسج

(Message) کے ارسال (Send) کا بٹن (Button) دبوانا اگر کسی آدمی نے ایس ایم ایس (S.M.S) میں طلاق کا مضمون لکھ کر شوہر کو دھوکے سے یا اس کی لاعلمی میں اس سے میسج کے ارسال (Send) کا بٹن (Button) دبوایا تو اس سے اس کی زوجہ پر طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ شوہر کو مضمون پر اطلاع نہیں ہوئی۔^۱

شوہر نے میسج (Message) میں ایک طلاق لکھی

کسی نے دھوکے سے دو لکھ دیں

اگر کسی آدمی نے موبائل فون (Mobile Phone) میں اپنی زوجہ کیلئے ایک طلاق لکھی اور اس میسج (Message) کو ابھی بھیجا نہیں تھا کہ کسی نے دھوکے سے اس میں ایک کے بجائے دو طلاقیں لکھ دیں اور شوہر نے اس کو بغیر پڑھے ارسال کر دیا تو اس سے بیوی پر ایک طلاق واقع ہوگی نہ کہ دو۔^۲

شوہر سے خالی کاغذ پر دستخط کروا کر طلاق کے مضمون کو ملٹی میڈیا

میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ ارسال کرنا

اگر کسی نے شوہر سے خالی کاغذ پر دستخط کروا کر طلاق کا مضمون لکھ کر ملٹی میڈیا

۱۔ ”و كذلك كل كتاب لم يكتب به خطه ولم يمل به بنفسه لا يقع به الطلاق اذا لم يقر أنه كتابه كذا في المحيط“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص ۴۱۵، كتاب الطلاق / باب في ايقاع الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، بيروت)

۲۔ (المراجع السابق)

میٹج (Multimedia Message) کے ذریعہ اس کی بیوی کو ارسال کیا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

شوہر کا طلاق کے ایم ایس (S.M.S) کا اقرار

کے بعد انکار

- ۱۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے بعد طلاق کا اقرار کیا اور بعد میں منکر ہو گیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی چند صورتیں ملاحظہ ہوں۔
- ۱۔ اگر شوہر نے اپنی زوجہ کو ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دی اور شوہر انکار کرتا ہے کہ میں نے طلاق کا ٹیکسٹ میٹج (Text Message) نہیں بھیجا تو ایسی صورت میں اگر بیوی یہ ثابت کر دے کہ شوہر نے خود طلاق کا ایم ایس (S.M.S) بھیجا ہے تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔
- ۲۔ کسی نے اپنی بیوی کو ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دے کر انکار کر دیا کہ میں نے طلاق نہیں دی اور دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں کہ اس نے طلاق کا ٹیکسٹ میٹج (Text Message) بھیجا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی شوہر کے انکار سے کچھ نہیں ہوتا۔^۲

۱۔ المرجع السابق

- ۲۔ ”رجل استكتب من رجل آخر الى امرأته كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به الى امرأته فأتاها الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه فان الطلاق يقع عليها.....“ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۴۱۵، كتاب الطلاق/باب في إيقاع الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، بيروت)
- ”ولو وجد الزوج الكتاب وأقامت عليه البينة أنه كتبه بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر“

شوہر نے بیوی کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے

ذریعہ طلاق دی مگر عدد یا د نہیں

اگر شوہر نے بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دے کر ٹیکسٹ (Text) کو موبائل فون (Mobile Phone) سے ختم کر دیا مگر اس وقت عدد یا د نہیں رہا کہ کتنی طلاقیں دیں لیکن بیوی نے ایس ایم ایس (S.M.S) کو اپنے موبائل فون (Mobile Phone) میں سیو (save) کیا ہوا تھا تو شوہر اس محفوظ کیے ہوئے ایس ایم ایس (S.M.S) کے مطابق عمل کرے گا۔ اس کی چند صورتیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ اگر شوہر نے بیوی کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ طلاق دی مگر عدد بھول گیا اور دونوں نے بھیجے ہوئے میسجز (Messages) کو موبائل فون (Mobile Phone) سے ڈیلیٹ (Delete) کر دیا اب شوہر موبائل فون (Mobile Phone) کی کمپنی (Company) سے رابطہ کر کے اپنے بھیجے ہوئے ایس ایم ایس (S.M.S) کی کاپی لیکر اس کے مطابق عمل کرے گا۔

۲۔ شوہر نے بیوی کو موبائل فون، (Mobile Phone) وائس میل (Voice Mail)

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ بیدہ فرق بینہما فی القضاء لأن الثابت بالبينة عليه كالثابت باقراره“ (المبسوط للسرخسی: ج، ۶، ص، ۱۶۷، باب طلاق الآخر، بیروت) ”(واذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وجحد الزوج والمرأة ذلك فرق بینہما) لأن المشهود به حرمتها عليه والحل والحرمة حق الله تعالى فتقبل الشهادة عليه من غير دعوى“ (المبسوط للسرخسی: ج، ۶، ص، ۱۷۰، باب الشهادة فی الطلاق، بیروت)

یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ طلاق دی مگر عدد یاد نہیں کہ کتنی دفعہ دی تھیں ایک یا دو۔ لیکن بیوی کا خیال یہ ہو کہ دو دفعہ دی تھیں اور وہاں کوئی ترجیح اور ظن غالب کا کوئی ذریعہ نہیں اور نہ ہی کسی ذریعے سے طلاق کے عدد کو معلوم کیا جاسکتا ہو تو اس صورت میں ایک ہی طلاق شمار ہوگی۔

۳۔ شوہر نے بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone)، وائس میل (Voice Mail)

یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ طلاق دی اور عدد بھول گیا اور بیوی نے اس کی کال (Call) کو ریکارڈ (Record) کر لیا تو شوہر اس ریکارڈنگ (Recording) کے مطابق عمل کرے گا۔

۴۔ شوہر نے موبائل فون (Mobile Phone) پر اپنی بیوی کو طلاق لکھی لیکن کسی شخص نے دھوکے سے اس کو ڈیلیٹ (Delete) کر دیا اب شوہر کو عدد یاد نہیں کہ ایک دی تھی یا دو تو اس سے ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

۵۔ کسی نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دی اور

دونوں نے میسیجز (Messages) کو اپنے موبائل فون (Mobile Phone) سے ڈیلیٹ (Delete) کر دیا ہے لیکن شوہر نے اپنے ارسال کئے ہوئے ایس ایم ایس (S.M.S) کو میموری کارڈ (Memory card) میں سیو (Save) کیا ہوا تھا تو شوہر میموری کارڈ (Memory card) میں محفوظ کیے گئے ایس ایم ایس (S.M.S) کے مطابق عمل کرے گا۔^۱

۱۔ ”فی نوادر ابن سماعۃ عن محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اذا شک فی أنہ طلق واحدة، أو ثلاثاً، فہی واحدة حتی یستیقن أو یكون أكبر ظنہ علی خلافہ“۔ (الفتاویٰ الہندیۃ: ج ۱، ص ۳۹۸، کتاب الطلاق / باب فی ایقاع الطلاق، الفصل الأول فی الطلاق الصریح، مطلب: اذا شک واحدة..... بیروت)

شوہر کا طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) لکھ

کروڈیلیٹ (Delete) کرنا

اگر شوہر نے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) لکھا اور بیوی کو ارسال کیے بغیر ہی موبائل فون (Mobile Phone) سے ڈیلیٹ (Delete) کر دیا تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

بیوی کے تینوں نمبرز (Numbers) پر ایک ایک

طلاق ارسال کرنا

اگر بیوی کے پاس تین نمبرز (Numbers) ہیں اور شوہر نے تینوں نمبرز (Numbers) پر ایک ایک طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا تو اس پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ہاں اگر تاکید مقصود ہو یا شوہر نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی کو طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کسی وجہ سے وصول نہیں ہوا ہوگا تو

۱۔ ”فان کان کتب امرأته طالق فہی طالق سواء بعث الكتاب اليها، أو لم يبعث“ (المبسوط للسرخسي: ج ۶، ص ۱۶۷، باب طلاق الأخرس، بيروت)

”ولو كتب الطلاق في وسط الكتاب وكتب قبله وبعده حوائج ثم محا الطلاق وبعث بالكتاب اليها وقع الطلاق كان الذي قبل الطلاق أقل أو أكثر كذا في فتاوى قاضي خان“۔ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۴۱۴، كتاب الطلاق/باب في ايقاع الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، بيروت)

اس نے تین مرتبہ ایم ایس (S.M.S) ارسال کر دیا تو اس صورت میں ایک ہی طلاق واقع ہوگی نہ کہ تین۔^۱

ایم ایس (S.M.S) کا فیل (Fail) ہو جانا

یاشو ہر کا دوبارہ ارسال کرنا

اگر شوہر نے بیوی کو ایک طلاق کا ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا چاہا اور نیٹ ورک (Network) کی خرابی یا موبائل فون (Mobile Phone) میں بیلنس (Balance) نہ ہونے کی وجہ سے فیل (Fail) ہو گیا اور لکھا ہوا ایم ایس (S.M.S) ڈیلیٹ (Delete) ہو گیا اور شوہر نے دوبارہ طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) ارسال کیا تو اس سے اس کی بیوی پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی نہ کہ دو اس لئے کہ وہ پہلی دی ہوئی طلاق کی خبر دے رہا ہے جو اس نے ایم ایس (S.M.S) میں لکھی تھی اور وہ میسج (Message) کسی وجہ سے بیوی کو نہیں مل سکا۔^۲

بیوی کے تینوں نمبرز (Numbers) پر طلاق کی خبر دینا

اگر کسی نے بیوی کے ایک نمبر (Number) پر طلاق کا ایم ایس

۱۔ ”کثر لفظ الطلاق وقع الكل ، وان نوى التأکید دين “۔ (الدر المختار مع ردالمحتار: ج ۴، ص ۵۲۱، کتاب الطلاق / باب طلاق غیر المذخول بہا، بیروت)

۲۔ ”ولو قال لامرأته: أنت طالق فقال له رجل ما قلت فقال: طلقتهأ أو قال قلت: هي طالق فهي واحدة في القضاء كذا في البدائع“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج ۱، ص ۳۹۰، کتاب الطلاق / باب في ايقاع الطلاق، بیروت)

(S.M.S) ارسال کیا اور پھر بیوی سے پوچھا کہ تمہیں میرا پیغام (Message) ملا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آپ کا پیغام (Message) نہیں ملا تو شوہر نے اس کے دوسرے نمبر (Number) پر ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا اور نیٹ ورک (Network) کی مصروفیت کی وجہ سے اس کو نہیں ملا تو شوہر نے اس کے تیسرے نمبر (Number) پر طلاق کا پیغام (Message) ارسال کیا تو ان تمام صورتوں میں اس کی بیوی پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی اس لئے کہ وہ پہلے دی ہوئی طلاق کی خبر دے رہا ہے۔^۱

شوہر سے زبردستی طلاق کا ایس ایم ایس

(S.M.S) ارسال کروانا

اگر شوہر کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دے اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کر دیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۲

نوٹ: اکراہ ایسا فعل ہے جس کو انسان دوسرے کے لئے بغیر اس کی رضامندی و خواہش کے کرتا ہے۔

اکراہ کی اقسام

اکراہ دو قسموں پر مشتمل ہے۔

۱۔ (المرجع السابق)

۲۔ ”فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كذا في الخانية“ (رد المحتار: ج ۴، ص ۴۴۰، كتاب الطلاق، مَطْلَبُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّوَكُّلِ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ، بیروت)

۱۔ اکراہ ملجی

۲۔ اکراہ غیر ملجی

اکراہ ملجی کسی غیر آدمی کو قتل یا جسم کے کسی عضو کو تلف کرنے کی دھمکی کا نام ہے جبکہ اکراہ غیر ملجی کسی شخص کو بیڑیاں ڈالنے یا قید کرنے کی دھمکی کا نام ہے۔

اکراہ کا حکم

اکراہ کا حکم یہ ہے کہ مکرہ کے سب قوی تصرفات منعقد ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو تصرفات فسخ ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسے بیع اجارہ وغیرہ وہ فسخ ہو جائیں گے اور جو فسخ ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے جیسے طلاق، عتاق، نکاح تدبیر استیلا داد اور نذر لازم رہیں گے۔^۱

۱۔ ”فہو اسم لفعل یفعله المرء بغیرہ فینتفی بہ رضاه کذا فی الکافی۔ وأما أنواعه: فالاکراہ فی أصله علی نوعین: أما ان کان ملجئاً أو غیر ملجئ فالاکراہ الملجئ هو الاکراہ بو عید تلف النفس أو بو عید تلف عضو من الأعضاء، والاکراہ الذی هو غیر ملجئ هو الاکراہ بالحبس والتقیید“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج، ۵، ص، ۴۴، کتاب الاکراہ، الباب الأول فی تفسیرہ شرعاً وأنواعہ وشروطہ وحکمہ وبیان بعض المسائل، بیروت)

”وأما حکمہ: وهو الرخصة أو الاباحة أو غیرہما فیثبت عند وجود شرطہ والأصل أن تصرفات المکرہ کلہا قولاً منعقدة عندنا إلا ما یحتمل الفسخ منه کالبيع والاجارة یفسخ وما لا یحتمل الفسخ منه کالطلاق والعتاق والنکاح والتدبیر والاستیلا والنذر فہو لازم کذا فی الکافی“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج، ۵، ص، ۴۴، کتاب الاکراہ، الباب الأول فی تفسیرہ شرعاً وأنواعہ وشروطہ وحکمہ وبیان بعض المسائل، بیروت)

شوہر کا تین الگ الگ ایس ایم ایس (S.M.S) میں

ایک ایک طلاق لکھنا اور بیوی کو تین میں سے ایک کا ملنا

کسی نے اپنی بیوی کو تین الگ الگ ایس ایم ایس (S.M.S) میں طلاق لکھ کر ارسال کی اور بیوی کو تین میسجز (Messages) میں سے ایک ملا۔ اس صورت میں بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی میسج (Messages) کا اس تک پہنچنا ضروری نہیں۔^۱

شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) پر یا

ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ موصولاً استثناء

اگر کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق دے کر موصولاً ان شاء اللہ کہا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر اس نے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق دے کر ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ استثناء کیا اور وہ میسج بیوی کو نہ ملا یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دی اور موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ استثناء کیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی۔

اس کی ایک اور صورت یہ ہے کہ موبائل فون (Mobile Phone) میں میسج ٹائپ (Type) کرنے کی ایک مقدار مقرر ہوتی ہے اگر کوئی اس مقدار سے بڑھے گا تو دوسرا میسج (Message) شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ میسجز (Messages) متعلقہ آدمی تک ایک ایک کر کے پہنچیں گے۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کا

۱۔ ”فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة“۔ (رد المحتار: ج

۴، ص ۵۶، مَطْلَبُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ، بیروت)

ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا اور اس کی مقدار ختم ہو گئی اس لئے اس نے دوسرے میسج (Message) میں ان شاء اللہ سے استثناء کیا تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی خواہ وہ میسجز (Messages) اس کو علیحدہ علیحدہ ملیں۔

دو ایس ایم ایس (S.M.S) طلاق کے ارسال کرنا

اور تیسرے میں موصولاً استثناء

اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کے دو ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیے

۱۔ ”عن ابن عمر رضي الله عنه يبلغ به النبي ﷺ قال: من خلف على يمين فقال: إن شاء الله فقد استثنى“ (سنن أبي داؤد: باب الاستثناء في اليمين، ص ۷۵، رقم الحديث، ۳۲۶۱، دار السلام)

”عن حماد: في رجل قال لامرأته: أنت طالق ان شاء الله، قال: له ثنياه وقال الحكم مثل ذلك“ (مصنف لابن أبي شيبة: ج ۹، ص ۵۶۸، باب ما قالوا في الاستثناء في الطلاق، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

”عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ قال: لا امرأته أنت طالق ان شاء الله أو غلامه أنت حر ان شاء الله أو عليه المشى الى بيت الله ان شاء الله فلا شيء عليه“ (سنن للبيهقي: باب الاستثناء في الطلاق والعنق والنذر وفي الايمان لا يخالفها، ج ۷، ص ۵۹۳، رقم الحديث، ۱۵۱۲۳ بحوالہ اثمار الهداية: ج ۵، ص ۹۰)

”(فلو)..... (قال لها أنت طالق ان شاء الله متصلاً)..... (مسموعاً) بحيث لو قرب شخص أذنه الى فيه يسمع..... (لا يقع) (الدرا المختار مع رد المحتار: ج ۴، ص ۲۲۳ تا ۲۲۶، كتاب الطلاق/باب التعليل، بيروت)

”ولو كتب اليها أما بعد فأنت طالق ثلاثاً ان شاء الله تبارك وتعالى موصولاً بكتابتها لا تطلق“..... واذا كتب الطلاق واستثنى

بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة هل يصح لا رواية لهذه المسئلة وينبغي أن يصح كذا في الظهيرية“ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۴۱۴، ۴۱۵، كتاب الطلاق/باب الطلاق في ايقاع الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، بيروت)

اور تیسرے ایس ایم ایس (S.M.S) میں متصلاً ان شاء اللہ سے استثناء کیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس

(S.M.S) کے ذریعہ مفصلاً استثناء

اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور استثناء مفصلاً کیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی چند صورتیں ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ اگر کسی نے موبائل فون (Mobile Phone) پر بیوی کو طلاق ہی دی تھی کہ شوہر کے موبائل فون (Mobile Phone) پر کسی شخص کی کال (Call) آگئی اور اس نے کال (Call) کو ہولڈ (Hold) یا میوٹ (Mute) پر لگا کر اس سے گفتگو شروع کر دی اور بعد میں ان شاء اللہ سے استثناء کیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

۲۔ اگر شوہر نے بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق دی ہی تھی کہ بیوی نے کال (Call) کاٹ دی یا سگنلز (Signals) کی کمی کی وجہ سے کال (Call) کٹ گئی اور شوہر نے دوبارہ کال (Call) ملا کر انشاء اللہ سے استثناء کیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

۳۔ کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق دی ہی تھی کہ اس کے موبائل فون (Mobile Phone) پر کسی کا میسج (Message) آگیا اور اس نے میسج (Message) پڑھنے کے بعد استثناء

کیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

۴۔ کسی نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دی اور اس کے موبائل فون (Mobile Phone) میں بیلنس (Balance) ختم ہو گیا یا اس کے مقررہ میسجز (Messages) کی تعداد ختم ہو گئی اور اس نے موبائل فون کارڈ (Mobile Phone Card) لوڈ (Load) کر کے ان شاء اللہ سے استثناء کیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

شوہر کا طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) میں ان شاء اللہ سے استثناء کرنا اور بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر آدھا میسج (Message) دکھائی دینا شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا میسج (Message) ارسال کیا اور اس میں ان

۱۔ ”عن الثوری فی رجل حلف بطلاق امرأته أن لا یکلم فلاناً شهراً، ثم قال بعد ذلك: إلا أن یدولی. قال: ان اتصل الکلام فله الاستثناء وان قطعه وسکت، ثم استثنی بعد ذلك، فلا استثناء له“ (مصنف عبد الرزاق: ج ۶، ص ۳۰۰، باب الاستثناء فی الطلاق، رقم الحدیث، ۱۱۳۴۹، بیروت)

”عن ابن عمر قال: کل استثناء غیر موصول فصاحبه حاث“. (دارقطنی: کتاب الوکالة، ج ۴، ص ۹۳، رقم الحدیث، ۴۲۸۴، بحوالہ اثمار الہدایة ج ۵، ص ۹۱) ۳۴
”وان کان مفصولاً تطلق کذا فی الظہیریة“. (الفتاویٰ الہندیة: ج ۱، ص ۴۱۴، کتاب الطلاق / باب فی ایقاع الطلاق، الفصل السادس فی الطلاق بالکتابة، بیروت)

”وکذا اذا ماتت قبل قوله ان شاء الله تعالى لان بالاستثناء خرج الکلام من أن یکون ایجاباً والموت ینافی الموجب دون المبطل بخلاف ما اذا مات الزوج لانه لم یتصل به الاستثناء“. (ہدایة: کتاب الطلاق / فصل فی الاستثناء، ج ۲، ص ۴۰۲، امدادیة)

شاء اللہ سے استثناء کیا لیکن بیوی کو کسی ٹیکنیکل (Technical) یا اسکرین (screen) میں خرابی کے باعث آدھا ٹیکسٹ (Text) ملا جس میں طلاق والا حصہ تو اس اسکرین (Screen) پر نظر آ رہا تھا لیکن استثناء والا نظر نہیں آ رہا۔ بیوی طلاق کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر استثناء کا تو اس صورت میں شوہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔^۱

شوہر کا ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) میں استثناء

کر کے ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے

ذریعہ اپنی بیوی کو ارسال کرنا اور اس کو ٹیکنیکل (Technical)

خرابی کی وجہ سے لفظ استثناء کا سنائی نہ دینا

کسی نے موبائل فون (Mobile Phone) میں استثناء کے ساتھ طلاق ریکارڈ (Record) کی اور اپنی زوجہ کو ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ ارسال کی۔ اس کو ویڈیو (Video) میں خرابی کے باعث فقط طلاق سنائی دی لفظ استثناء سنائی نہ دیا۔ بیوی طلاق کا دعویٰ کرتی ہے اور شوہر استثناء کا تو اس صورت میں مرد کا قول معتبر ہوگا۔^۲

۱۔ ”اذا طلق و ادعى الاستثناء فالقول له“۔ (الفتاویٰ السراجیة: ص، ۲۲۲، کتاب الطلاق/باب التعليق والاضافة، بیروت)

اذا ادعى الزوج التكلم بالاستثناء أو بالشرط في الخلع، أو ادعى التكلم بالاستثناء أو بالشرط في الطلاق فالقول قول الزوج“۔ (المحیط البرہانی: ج، ۴، ص، ۵۰۲، کتاب الطلاق/الفصل التاسع: الاستثناء فی الطلاق، ادارۃ القرآن)

۲۔ (المراجع السابق)

شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) میں لفظ طلاق

کے بجائے طاق لکھنا

جدید موبائل فونز (Mobile Phones) میں انگلش (English) کے علاوہ عربی یا اردو زبانوں میں بھی ایس ایم ایس (S.M.S) لکھنے کی سہولت موجود ہے۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھتے ہوئے لفظ طلاق کے بجائے طاق لکھ کر بھیج دیا تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) پر ”اُنت طالق“ کا

اسکرین سیور (Screen Saver) بنانا

موبائل فونز (Mobile Phones) کی اسکرین (Screen) پر کسی قسم کی عبارت یا تصویر لگائی جاسکتی ہے۔ موبائل فون (Mobile Phone) کے اس فیچر (Feature) کو اسکرین سیور (Screen Saver) کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے موبائل فون (Mobile Phone) میں ”اُنت طالق“ کا اسکرین سیور (Screen Saver) بنایا تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی ہاں اگر نیت کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

۱۔ ”وان حذف اللام فقط فقال: اُنت طاق لا يقع وان نوى“۔ (الفتاوى الهندية: ج،

۱، ص، ۳۹۱، کتاب الطلاق / باب فی ایقاع الطلاق، بیروت)

۲۔ ”ثم الكتاب على ثلاث مراتب: مستبين مرسوم وهو بمنزلة النطق في الغائب والحاضر على ما قالوا ۱. ومستبين غير مرسوم كالكتابة ۲. بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

ایس ایم ایس (S.M.S) چیک (Check) کرنے

کیلئے طلاق لکھنا

کسی کے ایس ایم ایس (S.M.S) کسی وجہ سے ارسال نہیں ہو رہے تھے اور اس نے ایس ایم ایس (S.M.S) کو چیک (Check) کرنے کیلئے اپنی بیوی کو طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) لکھ کر ارسال کیا اور اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی فقط یہ دیکھنا تھا کہ میرے میسجز (Messages) ارسال ہو رہے ہیں یا نہیں تو اس صورت میں اس کی بیوی پر قضاء طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

نوٹ: اگر کسی وجہ سے کسی کے ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال نہیں ہو رہے تھے اور اس نے میسجز (Messages) کو چیک (Check) کرنے کے لئے صرف لفظ طلاق لکھ کر اپنی بیوی کو ارسال کیا تو اس صورت میں اگر اس کی نیت طلاق کی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی ورنہ نہیں۔

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ علی الجدار و أوراق الأشجار، وینوی فیہ لآئہ بمنزلہ صریح الكتابة فلا بد من النية، وغیر مستبین کالكتابة علی الهواء والماء، وهو بمنزلہ کلام غیر مسموع فلا یثبت به الحكم“ (هدایة: مسائل شتی ماخوذ از فتح القدیر: ج ۱۰، ص ۵۵۸، کتاب الخنثی، بیروت)

”ولو كتب علی شيء یستبین علیه امرأته أو عبده . کذا ان نوى ؛ صخ والا ؛ فلا“ (الاشباه والنظائر: ص ۳۷۵، الفن الثالث/الجمع والفرق، أحكام الكتابة، بیروت)

۱۔ ”وان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو..... ولا يحتاج الى النية في المستبین ولا یصدق في القضاء أنه عنی تجربة الخط“ (ردالمحتار: ج ۴، ص ۵۶، کتاب الطلاق/مَطْلَبُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ، بیروت)

ایم ایس (S.M.S) میں ”Divorce“ کے بجائے

”Divorse“ لکھنا

اگر کوئی عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں طلاق دے گا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ خواہ اس میں سپیلنگ (Spelling) کی غلطی ہی کیوں نہ ہو۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو انگریزی میں ”I divorce you“ لکھ کر طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی خواہ Divorce کے بجائے Divorse لکھا ہو۔^۱

وکیل بالطلاق کا غلطی سے ایم ایس (S.M.S)

اپنی بیوی کو ارسال کر دینا

اگر شوہر نے کسی کو وکیل بالطلاق بنایا اور کہا کہ تم میری بیوی کو ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دو اور اس نے غلطی سے طلاق کا ایم ایس (S.M.S) موکل کی بیوی کو ارسال کرنے کی بجائے اپنی بیوی کو ارسال کر دیا تو اس سے وکیل کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۲

۱۔ ”عن ابراہیم قال: طلاق العجمي جائز“۔ (مصنف لابن أبي شيبة: ج، ۱۰، ص، ۳۳، باب ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية“ رقم الحديث، ۱۸۷۲۳، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

۲۔ (تحت عنوان شوہر کا بیوی کو ود ہیڈ نمبر کے ساتھ طلاق دینا)

”لو قال: طالق، فقیل له: من عنیت؟ فقال: امرأتی طلقت امرأته ۱۔... لو قال: امرأة طالق، أو قال: طلقت امرأة ثلاثاً، وقال: لم أعن امرأتی، یصدق ۱۵۔ ویفهم منه أنه لو لم یقل ذلك، یتطلق امرأته، لأن العادة أن من له امرأة انما یقیه حاشیة اگلے صفحہ پر

شوہر کا طلاق کا مضمون حکایت بیوی کو

ایس ایم ایس (S.M.S) کرنا

اگر کسی نے طلاق کا مضمون کسی کتاب سے نقل کر کے اپنی بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر حکایت ارسال کیا تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی۔^۱

شوہر کا لکھی ہوئی طلاق ارسال کرنا

اگر شوہر نے کسی سے طلاق کا مضمون لکھوا کر بیوی کو ارسال کیا تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ آج کل جدید فونز (Phones) میں کیمرہ (Camera) کی سہولت موجود ہے جس کے ذریعہ تصاویر کھینچ کر دوسرے موبائل فونز (Mobile Phones) پر بھیجی جاسکتی ہیں۔ ان میسجز (Messages) کو ملٹی میڈیا میسجز (Multimedia message) کہا جاتا ہے۔ ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ طلاق کی چند صورتیں ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ اگر شوہر نے کسی سے کہا کہ مجھے طلاق کا مضمون قلم سے لکھ کر دو اور اس نے

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ یحلف بطلاقھا لا بطلاق غیرھا، فقوله: انی حلفت بالطلاق ینصرف الیہا مالہم یرد غیرھا لآئنه یحتملہ کلامہ۔ (ردالمحتار: ج ۴، ص ۵۸، کتاب الطلاق / باب الصریح، مَطْلَب: سن بوش، یَقْعُ بِهِ الرَّجْعِيُّ، بیروت)

۱۔ ”وفي متعلم یکتب ناقلاً من کتاب رجل قال: ثم یقف ویکتب امرأتی طالق وکما کتب قرن الکتابۃ باللفظ بقصد الحکایۃ لا یقع علیہ۔“ (البحر الرائق: ج ۳، ص ۴۵۱، کتاب الطلاق / باب الطلاق، بیروت)

مضمون کو ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ اپنی زوجہ کے موبائل فون (Mobile Phone) پر ارسال کیا تو اس سے اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

۲۔ اگر کوئی شخص طلاق کا لکھا ہوا مضمون ویڈیو (Video) پر ریکارڈ (Record) کر کے ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ بیوی کو ارسال کرے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

۳۔ موبائل فونز (Mobile Phones) میں میسج (Message) ٹائپ کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں مختصر فقرے سہولت کے لئے محفوظ کیے گئے ہیں تاکہ پورا میسج (Message) ارسال کرنے کے بجائے ان مختصر فقروں کو ارسال کیا جائے۔ مثلاً (میں مصروف ہوں، تجھے طلاق وغیرہ) ان میسجز (Messages) کو میسج ٹمپلیٹس (Message Templates) کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے ان محفوظ کیے گئے فقروں میں ”میں نے تجھے طلاق دی“ کو بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر ارسال کیا تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

۱۔ ”رجل استكتب من رجل آخر الى امرأته كتاباً بطلاقها وقرأه على الزوج فأخذه وطواه وختم وكتب في عنوانه وبعث به الى امرأته فاتاها الكتاب وأقر الزوج أنه كتابه فان الطلاق يقع عليها كذلك لو قال: لذا لك الرجل ابعت بهذ الكتاب اليها أو قال: له اكتب نسخة وابعت بها اليها.....“ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۳۱۵، الفصل كتاب الطلاق /باب في ايقاع الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، بيروت)

شوہر کا کسی سے طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھوانا

اگر شوہر نے کسی سے طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھوایا اور اس نے شوہر کو پڑھ کر سنایا اور شوہر نے اسے کہا کہ اس کو ارسال کر دو تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی چند صورتیں نظر قارئین ہیں۔

۱۔ اگر شوہر نے کسی سے ایک طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھوایا اور لکھنے والے نے جان بوجھ کر دو طلاقیں لکھ دیں اور شوہر کو پورا پورا صحیح صحیح پڑھ کر سنایا اور شوہر نے خود اس کو ارسال کیا تو اس کی بیوی پر دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔

۲۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) خود لکھا اور کسی کو کہا کہ اس کو ارسال کر دو تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔

۳۔ اگر شوہر نے کسی کو کہا کہ اس طلاق کے مضمون کو اپنے موبائل فون (Mobile Phone) پر نقل کر کے اپنے نمبر (Number) سے میری بیوی کو ارسال کر دو اور اس نے وہی مضمون نقل کر کے اس کی بیوی کو ارسال کر دیا تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

بیوی کا موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کا مضمون

ٹائپ (Type) کر کے شوہر کو ارسال کرنا

اگر کسی عورت نے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) پر ”تجھے طلاق ہے“ ”آنت طالق“ ٹائپ کر کے اپنے شوہر کے موبائل فون (Mobile Phone) پر

ارسال کیا اور لکھا کہ اس جملے کو پڑھو اور شوہر نے اس کو پڑھا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی۔^۱

شوہر کا ایم ایس (S.M.S) میں تین دفعہ طلاق کا

مضمون پڑھنا اور کا تب کا تین طلاقیں لکھنا

زید نے کسی کو کہا کہ میری بیوی کو ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایک طلاق لکھ دو اور اس نے زید سے طلاق کا مضمون تین دفعہ کہلوا کر اس کی بیوی کو تین بار طلاق لکھ کر میسج (Message) ارسال کر دیا تو اس صورت میں زید کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوگئی نہ کہ ایک۔^۲

۱۔ ”امراة كتبت أنت طالق ثم قالت لزوجها اقرأ علي فقرأ لا تطلق ۱۰۵“ (البحر الرائق: ج، ۳، ص، ۴۵۱، كتاب الطلاق/باب الطلاق، بيروت)

۲۔ ”(قال لزوجه غير المدخول بها أنت طالق) (ثلاثاً) (وقعن) (وان فرق) (بانت بالاولى) (لم تقع الثانية) بخلاف الموطوءة حيث يقع الكل (الدر المختار مع ردالمحتار: ج، ۴، ص، ۵۰۹ الى ۵۱۲، كتاب الطلاق/باب طلاق غير المدخول بها، بيروت)

”واما البدعي فنوعان فالذي يعود الى العدد ان يطلقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً“ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۳۸۳، كتاب الطلاق/الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه، بيروت)

قوله: (كرر لفظ الطلاق) بأن قال للمدخولة: أنت طالق أنت طالق أو قد طلقتك قد طلقتك أو أنت طالق قوله: (وان نوى التاكيد دين) أي ووقع الكل قضاء، وكذا اذا طلق أشباه: أي بأن لم ينو استثنافاً ولا تأكيداً لأن الأصل عدم التأكيد“ (ردالمختار: ج، ۴، ص، ۵۲۱، ۵۲۲، كتاب الطلاق/باب طلاق غير المدخول بها، بيروت)

بیوی کا طلاق کا مطالبہ کرنا اور شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ تین انگلیوں کی تصویر یا ہاتھ کا نشان بھیج دینا جس میں اسے خدا حافظ کہا گیا ہو

موبائل فونز (Mobile Phones) میں پیغام رسانی کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص آپلیکیشن (Application) کی مدد سے مختلف قسموں کی چھوٹی چھوٹی تصاویر تحریر کے ساتھ متعلقہ آدمی کو بھیجی جاسکتی ہیں جس میں مختلف جذبات کا اظہار کیا گیا ہوتا ہے۔ مثلاً کسی کو کسی کام سے روکنا ہو تو ہاتھ کا نشان بھیج دیا جاتا ہے جس میں اس کام سے رکنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ایسی آپلیکیشن (Application) کو ایموجی آئیکنز (Emoji Icons) کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر عورت نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا اور مرد نے طلاق کا تلفظ ادا کیے بغیر اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ تین انگلیوں کی تصویر بھیج دی یا ہاتھ کا نشان بھیج دیا جس میں عورت کو خدا حافظ کہا گیا ہو تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی خواہ اس نے اس سے تین طلاق کی نیت ہی کیوں نہ کی ہو۔^۱

۱۔ ”امراة قالت لزوجها طلقني فأشار اليها بثلاثة أصابع ونوى به ثلاث تطليقات لا تطلق ما لم يتلفظ به“۔ (فتاویٰ قاضی خان: ج، ۱، ص، ۴۰۶، کتاب الطلاق، بیروت)

”قالت لزوجها: طلقني، فأشار اليها بثلاث أصابع، يريد بذلك ثلاث تطليقات، لا تطلق ما لم يقل بلسانه؛ لأنه لو وقع وقع بالضمير، والطلاق لا يقع بالضمير“۔ (المحيط البرهاني: ج، ۴، ص، ۴۰۰، کتاب الطلاق / الفصل الرابع: فيما يرجع إلى صريح الطلاق، إدارة القرآن)

ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایک طلاق سنت

یا تین طلاقیں دینے کا طریقہ

اگر کوئی ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اپنی بیوی کو ایک طلاق سنت دینے کا ارادہ کرے تو ایسے لکھے ”جب تیرے پاس میرا یہ ایس ایم ایس (S.M.S) پہنچے اس کے بعد جب تمہیں حیض آئے اور بعد ازاں تو پاک ہو جائے تو تجھے ایک طلاق ہے۔“ اور اگر شوہر تین طلاقیں دینے کا ارادہ کرے تو یوں لکھے ”جب تیرے پاس میرا یہ ایس ایم ایس (S.M.S) پہنچے پھر جب تجھے حیض آئے اور بعد ازاں تو پاک ہو جائے تو تمہیں طلاق ہے، پھر جب تمہیں (دوسرا) حیض آئے اور بعد ازاں تو پاک ہو جائے تو تمہیں (دوسری) طلاق ہے، پھر جب تمہیں (تیسرا) حیض آئے اور بعد ازاں تو پاک ہو جائے تو تجھے (تیسری) طلاق ہے۔“

امام محمد رحمہ اللہ رقیات میں فرماتے ہیں:

”کہ شوہر یوں لکھے کہ جب تیرے پاس میری یہ تحریر پہنچے اور تو اس کے مضمون کو سمجھ لے پھر تجھے حیض آئے اور بعد ازاں تو پاک ہو جائے تو تجھے طلاق۔ ظاہر ہے کہ اس تحریر میں دوسری تحریر کے مقابلہ زیادہ احتیاط ہے۔“

۱۔ ”ولو كان الزوج غائبا، فأراد أن يطلقها للسنة واحدة، فإنه يكتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا، ثم حضت وطهرت، فأنت طالق، وإن أراد أن يطلقها ثلاثاً يكتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا، ثم حضت وطهرت، فأنت طالق، ثم إذا حضت وطهرت، فأنت طالق، ثم إذا حضت وطهرت، فأنت طالق.“

وذكر محمد في الرقيات، أنه يكتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا، فعلمت ما فيه، ثم حضت وطهرت، فأنت طالق، وتلك الرواية أحوط.“ (بدائع الصنائع: ج، ۴، ص، ۲۰۱، كتاب الطلاق/ فضل في ألفاظ طلاق السنة، بيروت)

رجعت

رجعت کے معنی

رجعت کے معنی واپس لینے کے ہیں۔ شوہر بیوی کو ایک یا دو طلاق رجعی دے کر عدت کے اندر اس سے رجوع کر لے اس کو رجعت کہتے ہیں۔

قرآن مجید سے رجعت کا ثبوت

”وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا“

ترجمہ: اور ان کے شوہران کے لوٹانے کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت کے اندر اگر اصلاح کا ارادہ کریں۔ (ترجمہ ختم)

”الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَاِمَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ“

ترجمہ: طلاق دو مرتبہ ہے پھر روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے اچھے طریقے پر (ترجمہ ختم)

اس آیت میں ”فامساك بمعروف“ سے مراد رجعت کرنا ہے۔

حدیث سے رجعت کا ثبوت

”عَنْ اَنَسِ بْنِ سَبْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ

امْرَاَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لَيْزَاجُهَا“۔^۳

۱۔ (آیت نمبر، ۲۲۸، سورۃ البقرۃ، پارہ ۲)

۲۔ (آیت نمبر، ۲۲۹، سورۃ البقرۃ، پارہ ۲)

۳۔ (صحیح البخاری: ج، ۳، ص، ۱۰، حدیث نمبر، ۵۲۵۲، باب اِذَا طَلَّقَتْ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ، بیروت)

اس حدیث میں رجعت کا حکم دیا گیا جس سے رجعت کا ثبوت ہوا۔

رجعت کی شرائط

رجعت کی پانچ شرائط ہیں۔

- ۱۔ شوہر اپنی زوجہ کو طلاق ثلاثہ نہ دے۔
- ۲۔ کسی مال کے عوض طلاق نہ دی گئی ہو۔
- ۳۔ مرد طلاق صریح کے ساتھ ایسی صفت کو نہ ملائے جس سے طلاق صریح بائن ہو جاتی ہو۔
- ۴۔ شوہر طلاق کو کسی ایسی شے سے تشبیہ نہ دے جس کی وجہ سے طلاق صریح بائن ہو جاتی ہو۔
- ۵۔ طلاق کے الفاظ کنایہ میں سے نہ ہوں۔^۱

شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) پر بیوی

سے رجعت کرنا

اگر شوہر بیوی سے موبائل فون (Mobile Phone) پر رجعت کرتا ہے تو

رجعت ثابت ہو جاتی ہے۔^۲

۱۔ ”هذا بيان لشرط الرجعة، ولها شروط خمس تعلم بالتأمل. شر نبلاية. قلت: هي أن لا يكون الطلاق ثلاثاً في الحرية أو ثنتين في الأمة، ولا واحدة مقترنة بعوض مالي، ولا بصفة تنبئ عن البينونة كطويلة أو شديدة، ولا مشبهة كطلقة مثل الجبل، ولا كناية يقع بها بائن. ولا يخفى أن الشرط واحد هو كون الطلاق رجعياً“ (رد المحتار: ج، ۵، ص، ۲۶، كتاب الطلاق/باب الرَجْعَةُ، بيروت)

۲۔ ”فالسنی: أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين“ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۰۲، كتاب الطلاق/باب في الرجعة وفيما تحل به المطلقة، بيروت)

شوہر کا وائس میل (Voice Mail) پر رجعت کا پیغام چھوڑنا

اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے موبائل فون (Mobile Phone) پر رجوع کرنے کی غرض سے اس کو فون (Phone) کرتا ہے لیکن وہ کال (Call) نہیں اٹھاتی اور وہ اس کے موبائل فون (Mobile Phone) کے وائس میل (Voice Mail) پر رجعت کا پیغام چھوڑتا ہے تو رجوع صحیح ہو جائے گا۔^۱

شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ رجعت کرنا

اگر شوہر نے بیوی سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ رجعت کی تو اس سے رجعت صحیح ہو جائے گی۔^۲

عورت کا ایس ایم ایس (S.M.S) یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ رجعت کرنا

اگر بیوی کی طرف سے رجعت بالقول پائی گئی مثلاً وہ اپنے شوہر سے یوں کہے میں تم سے رجعت کرتی ہوں تو رجعت درست نہ ہوگی۔ چنانچہ اگر عورت نے اپنے شوہر سے موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ رجعت کی تو درست نہ ہوگی۔ جب عورت کی طرف سے بالقول رجعت ثابت نہیں ہوتی تو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ بطریق اولیٰ درست نہیں ہوگی۔^۳

۱۔ (راجع الحاشیة المتقدمة آنفا)

۲۔ ”الکتابة تقوم مقام الکاتب“۔ (المغنی: ج، ۸، ص، ۲۸۳، حکم مالو کان له امرأتان حفصة وعمره بیروت)

۳۔ ”ولو قالت للزوج راجعتک لم یصح کذا فی البدائع“۔ (الفتاویٰ الہندیة: ج، ۱، ص، ۵۰۳، کتاب الطلاق/باب فی الرجعة و فیما تحل به المطلقة و ما یصل به بیروت)

بیوی کا موبائل فون (Mobile Phone) پر براہ راست ویڈیو کال (Video Call) کے دوران رجعت کے لئے

شوہر کو شرم گاہ کا اندرونی حصہ دکھانا

عورت کی رجعت بالفعل کا اعتبار کیا گیا ہے جبکہ شوہر شہوت کی تصدیق کرے اور اس کو اس کا علم ہو اور وہ اپنی بیوی کو اس سے منع بھی نہ کرے۔ چنانچہ اگر بیوی نے اپنے شوہر سے براہ راست موبائل فون (Mobile Phone) پر ویڈیو کال (Video Call) کرتے ہوئے اپنی شرم گاہ کا اندرونی حصہ دکھایا اور مرد کو اس سے شہوت پیدا ہوئی جس کی اس نے تصدیق بھی کی تو رجعت درست ہو جائے گی اور اگر شوہر نے شہوت کا انکار کیا تو پھر رجعت درست نہ ہوگی۔^۱

فضولی کا موبائل فون (Mobile Phone) پر رجعت

اگر کوئی شخص کسی عورت سے موبائل فون (Mobile Phone) پر رجعت کرے اور بعد میں شوہر کو اطلاع دے کہ میں نے تمہاری طرف سے رجعت کر لی ہے اس پر اس کے شوہر نے اس کو جائز رکھا تو رجعت ثابت ہو جائے گی۔^۲

- ۱۔ ”لا فرق بین کون القبلة والنظر واللمس منها أو منه في كونه رجعة اذا كان ما صدر منها بعلمه ولم يمنعها اتفاقاً..... تثبت الرجعة هذا اذا صدقها الزوج في الشهوة فان أنكر لا تثبت الرجعة“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۰۳، کتاب الطلاق/باب في الرجعة وفيما تحل به المطلقة وما يتصل به، بيروت)
- ۲۔ ”لو أجاز مراجعة الفضولي صح ذلك“۔ (رد المحتار: ج، ۵، ص ۲۴، کتاب الطلاق/باب الرجعة، بيروت)

شوہر کا غلطی سے دوسری بیوی کو رجعت کا ٹیکسٹ میسج

(Text Message) بھیجنا

کسی آدمی نے اپنی دو بیویوں کو طلاق رجعی دے دی (ایک کا نام عائشہ اور دوسری کا نام زینب تھا) عائشہ سے رجوع کرنے کی غرض سے ایس ایم ایس (S.M.S) بھیجنا چاہا تو غلطی سے زینب کو بھیج دیا تو زینب سے رجعت ثابت ہو جائے گی۔^۱

شوہر کو جبراً موبائل فون (Mobile Phone) پر رجعت کروانا اگر کسی آدمی کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ تو موبائل فون (Mobile Phone) یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ اپنی بیوی سے رجوع کر اگر وہ حالت اکراہ میں اپنی بیوی سے رجوع کر لے گا تو رجعت ثابت ہو جائے گی۔^۲

شوہر کو جبراً ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ رجعت کروانا اگر شوہر کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو رجعت کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) ارسال کرے اور شوہر نے اپنی بیوی کو رجعت کا ایس ایم ایس (S.M.S) بھیج دیا تو رجعت ثابت نہیں ہوگی۔^۳

۱۔ ”نصح الرجعة مع الاكراه والهزل واللعب والخطأ كالتكاح“۔ (الفتاویٰ الہندیہ:

ج، ۱، ص ۵۰۲، كتاب الطلاق / باب الرجعة وفيما تحل به المطلقة، بيروت)

۲۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

۳۔ ”فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كذا في الخانية“۔ (رد المحتار: ج ۴، ص ۴۴۰، كتاب الطلاق / مَطْلَبُ فِي الْأَكْرَاهِ عَلَى التَّوَكُّلِ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعِتَاقِ، بيروت)

ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) بطور شہادت

اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی اور پھر عدت کے اندر زوجہ کو بتائے بغیر رجوع کر لیا اور جب عورت کی عدت ختم ہو گئی تو شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے تم سے عدت کے دوران رجوع کر لیا تھا اگر عورت نے اس کی تصدیق کر دی تو رجعت ثابت ہو جائے گی اور اگر عورت نے جھٹلا دیا اور شوہر کے پاس بینہ بھی نہیں ہے تو عورت کی بات مانی جائے گی، چنانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی اور اس نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر اپنے موبائل کیمرہ (Mobile Camera) کے ذریعہ رجعت کر کے اس کو اپنے موبائل فون (Mobile Phone) میں سیو (Save) کر لیا۔ جب عورت کی عدت گزر چکی تو شوہر نے کہا کہ میں نے تم سے رجعت کی تھی اور عورت رجعت کا انکار کرتی ہے اور شوہر اپنی سیو (Save) کی ہوئی ویڈیو (Video) کو بطور شہادت یا ثبوت پیش کرنا چاہے تو وہ رجعت کو ثابت کرنے کے لئے کافی نہیں بلکہ رجعت کو ثابت کرنے کے لئے دو گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور ویڈیو (Video) دو گواہوں کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ لہذا عورت کی بات مانی جائے گی۔ اس کی ایک اور صورت یہ ہے کہ اگر بیوی انکار نہیں کرتی بلکہ کہتی ہے کہ مجھے وہ ویڈیو (Video) دکھاؤ اور دیکھنے کے بعد اس کو اطمینان ہو گیا کہ میرے شوہر نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا تو اس صورت میں رجعت ثابت ہو جائے گی۔^۱

۱۔ ”عن ابراہیم قال: اذا ادعى الرجعة بعد انقضاء العدة فعليه البينة“۔ (مصنف لابن أبي شيبة: باب ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة بعد انقضاء العدة، ج ۱۰، ص ۹۴، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

”و) نصابها (أي الشهادة) (لغير هامن الحقوق سواء كان) بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

شوہر کا رجعت کا ایس ایم ایس (S.M.S) بیوی کو نہ ملنا

شوہر نے بیوی کو رجعت کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا لیکن بیوی کو کسی وجہ سے موصول نہیں ہوا اور شوہر نے ایس ایم ایس (S.M.S) کو اپنے موبائل فون (Mobile Phone) میں سیو (Save) کر لیا۔ جب زوجہ کی عدت ختم ہوگئی تو شوہر نے دعویٰ کیا کہ میں نے دوران عدت تم کو رجعت کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا تھا اور بیوی لاعلمی کا اظہار کرتی ہے اب اگر شوہر اپنے موبائل فون (Mobile Phone) میں سیو (Save) کیا ہوا ایس ایم ایس (S.M.S) شہادت یا ثبوت کے طور پر پیش کرنا چاہے تو وہ کافی نہیں ہے۔ لہذا عورت کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔^۱

نوٹ: یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا لاعلمی کا اظہار اور انکار رجوع دونوں برابر ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے اس لئے کہ دونوں میں فرق ہے۔ عورت کو مراجعت کا علم ہونا ضروری نہیں بلکہ بدون علم کے بھی رجعت ثابت ہو جاتی ہے نیز یہ کہ اگر عورت کو اطمینان ہو جائے کہ میرے شوہر نے عدت کے اندر رجوع کر لیا تھا اور اس نے

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ الحق (مالاً أو غیرہ کنکاح و طلاق و وکالة و وصية.....
(....رجلان).... (أورجل وامرأتان)“۔ (الدر المختار مع رد المحتار: ج ۸، ص ۷۸، کتاب الشہادات، بیروت)

”وإذا انقضت العدة فقال كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة كذا في الهداية“۔ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۵۰۴، کتاب الطلاق / باب في الرجعة وفيما تحل به المطلقة، بیروت)

۱۔ (تقدم تخريجہ تحت المسئلة السابقة)

اس کی تصدیق بھی کر دی تو رجعت ثابت ہو جائے گی جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ جبکہ انکار رجوع کی صورت میں مرد پر بینہ ہوگا^۱ اور اگر مرد بینہ پیش کرنے سے قاصر رہا تو اس صورت میں عورت کی بات کی تصدیق کی جائے گی اس لئے کہ عدت کے پورے ہونے کے بعد فقط مرد کے اقرار سے رجعت ثابت نہیں ہوتی اس لئے کہ اس میں تہمت اور غیر کے حق میں تصرف ہے۔^۲

ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے دوران

بیوی کی شرم گاہ کو شہوت سے دیکھنے سے رجعت

اگر کسی نے اپنی بیوی کی شرم گاہ کو ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing)

۱۔ (تقدم تخريجہ تحت المسئلة السابقة)

۲۔ ”و كذا تنقضى بدون العلم به.....“۔ (بدائع الصنائع: ج، ۴، ص،

۴۱۵، كتاب الطلاق/فصل فيما يتعلق بتابع الطلاق، بيروت)

”واذا انقضت العدة فقال راجعها في العدة فصدقتها فهي رجعة وان كذبته فالقول قولها“ (الهداية: ج، ۲، ص، ۴۰۶، كتاب الطلاق/باب الرجعة، مكتبة رحمانية)

(شوہر نے ماضی میں بیوی کو مراجعت کی خبر دی ہے جس کو ابھی کرنے سے قاصر ہے اس لئے اس بارے میں مرد متہم ہو گیا کہ شاید وہ غلط بیانی کر رہا ہو اور اس نے رجعت نہ کی ہو لیکن جب بیوی نے تصدیق کر دی تو تہمت مرتفع ہو گئی اور رجعت ثابت ہو گئی۔ عثمانی

”والمراجعة لا يثبت به أي بالاقرار بعد الانقضاء فان فيه تهمة لأنه تصرف على حق الغير. (حاشية الهداية: ج، ۲، ص، ۴۰۶، كتاب الطلاق/باب الرجعة، مكتبة رحمانية)

کے دوران شہوت سے دیکھ لیا تو اس سے رجعت ثابت ہو جائے گی۔^۱

ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) پر اپنی بیوی

کی شرم گاہ کو شہوت سے دیکھنے پر رجعت کا حکم

اگر کسی نے اپنی بیوی کی شرم گاہ کو موبائل فون (Mobile Phone) میں محفوظ کی گئی ویڈیو (Video) کے ذریعہ دیکھا تو اس سے رجعت ثابت نہیں ہو گی۔^۲

شوہر کا رجعت کو بیوی کے ایس ایم ایس (S.M.S)

کرنے پر معلق کرنا

رجعت کو کسی شرط کے ساتھ معلق کرنے سے رجعت ثابت نہیں ہوتی چنانچہ

۱۔ ”والرجعة صحيحة وان راجعها بالفعل مثل أن يطأها أو يقبلها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة فإنه يصير مراجعاً عندنا“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۰۲، کتاب الطلاق/باب في الرجعة وفيما تحل به المطلقة، بيروت)

”النظر إلى داخل فرجها بشهوة رجعة كذا في فتح القدير“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۰۳، کتاب الطلاق/باب في الرجعة وفيما تحل به المطلقة، بيروت)

” (و) حرم أيضاً بالصهرية (أصل منيته) أراد بالزني الوطء الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الرأس (الدر المختار) خرج به المسترسل (شامی) بحائل لا يمنع الحرارة (وأصل ماسته وناظرة الى ذكره والمنظور الى فرجها) المدور (الداخل)۔ (الدر المختار مع رد المحتار: ج، ۴، ص، ۱۰۷، ۱۰۸، کتاب النکاح/فصل في المخزومات، بيروت)

۲۔ ”(لا) تحرم (المنظور الى فرجها الداخل) اذا رآه بقية حاشية اگلے صفحہ پر

اگر کسی نے رجعت کو بیوی کے ایس ایم ایس (S.M.S) کرنے پر معلق کیا اور بیوی نے اسے میسج (Message) ارسال کر دیا تو اس صورت میں رجعت درست نہیں ہو گی۔^۱

u

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ (من مرأة أو ماء) لأن المرئي مثاله (بالانعكاس)“ (الدر المختار مع رد المحتار: ج، ۴، ۱۰۹، ۱۱۰، کتاب النکاح، بیروت)

۱۔ ”ولا يجوز تعليق الرجعة بالشرط بأن يقول اذا جاء غد فقد راجعتك واذا دخلت الدار واذا فعلت كذا فهذا لا يكون رجعة اجماعاً كذا في الجوهرۃ النيرة“۔ (الفتاویٰ الہندیۃ: ج، ۱، ص، ۵۰۳، کتاب الطلاق / الباب السادس فی الرجعة وفیماتحل بہ المطلقة ومایتصل بہ، بیروت)

تفویض طلاق

اگر اسلام نے طلاق دینے کا حق مردوں کو دیا ہے تو دوسری جانب عورتوں کو مجبور محض نہیں بنایا کہ مردوں کی طرف سے ان پر ظلم و تشدد ہوتا رہے۔ بلکہ اسلام نے ان کے حقوق کا برابر خیال رکھا ہے۔ جس طرح عورت کو خلع کرنے یا بعض وجوہات کی بنیاد پر شرعی عدالت میں اپنا معاملہ پیش کر کے نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے وہیں عورتوں کے لئے یہ راستہ بھی نکالا گیا ہے کہ وہ اپنے خاوند کو راضی کر کے طلاق کا اختیار اپنے قبضہ میں لے کر اس سے جان چھڑائیں۔

قرآن مجید سے اختیار دینے کا ثبوت

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا
وَرِزْقَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن
كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ
لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

ترجمہ: اے نبی! آپ اپنی بیویوں سے فرمادیں کہ اگر تم دنیا والی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں فائدہ پہنچا دوں اور تمہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دوں۔ اور اگر تم اللہ کو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور دیرِ آخرت کو تو بلاشبہ اللہ نے ان عورتوں کے لئے جہنم میں اچھے کام کرنے والی ہوں بڑا اجر تیار فرمایا ہے۔

۱۔ (آیت نمبر، ۲۸، ۲۹، سورۃ الاحزاب، پارہ، ۲۱)

حدیث سے بیوی کو اختیار دینے کا ثبوت

”عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
فَاخْتَرْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَغْدِ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئاً“۔^۱

تفویض طلاق کے شرائط

اس اختیار کو استعمال کرنے کی کچھ اہم شرائط ہیں جو ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔
پہلی شرط یہ ہے کہ عورت کو اختیار طلاق کا علم ہو خواہ اس کو یہ اطلاع بذریعہ
قاصد، وکیل یا براہ راست دی گئی ہو۔ اگر شوہر نے عورت کو طلاق سپرد کرنے کی
اطلاع دی مگر وہ کسی وجہ سے سن نہ سکی یا اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کو اطلاع نہ
مل سکی تو بیوی کو طلاق کا اختیار اس وقت حاصل ہوگا جب اس کو اس کا علم ہوگا۔^۲
تفویض طلاق کی دوسری شرط یہ ہے کہ عورت اس اختیار کو اسی مجلس کے اندر
قبول یا رد کر دے جس مجلس میں یہ اختیار سپرد کیا گیا ہے۔ اگر زوج بیوی کو طلاق
تفویض کرنے کے بعد مجلس سے اٹھ گیا تو زوج کو طلاق کا اختیار باقی رہے گا جب تک
کہ عورت مجلس تبدیل نہ کرے۔^۳

۱۔ (صحیح البخاری، بَاب مَنْ خَيَّرَ نِسَاءَهُ، ج، ۳، ص، ۴۱۳، حدیث نمبر، ۵۲۶۲، بیروت)

۲۔ ”ولو خيرها فلم تسمع أو كانت غائبة فلها الخيار في مجلس علمها“۔ (الفتاویٰ
الہندیہ: کتاب الطلاق/ الباب الثالث في تفويض الطلاق، ج، ۱، ص، ۴۲۴، بیروت)
۳۔ ”فلها ان تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وان تطاول يوماً أو أكثر ما لم تقم
منه أو تأخذ في عمل آخر وكذا اذا قام هو من المجلس فلأمر في يدها ما دامت في
مجلسها“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج، ۱، ص، ۴۲۳، کتاب الطلاق/ باب في تفويض
الطلاق، بیروت)

تیسری شرط یہ ہے کہ اگر زوج نے اختیار طلاق کے لئے کسی مدت کا تعین کیا ہے تو زوج کو اس اختیار کو استعمال کرنے کا حق اس وقت تک موجود ہے جب تک کہ مقررہ مدت گزر نہ جائے۔ اس صورت میں تبدیل مجلس سے یہ اختیار متاثر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عورت نے وقت مقررہ تک قبول نہ کیا تو اختیار ختم ہو جائے گا۔^۱

چوتھی شرط یہ ہے کہ عورت کو اپنے اوپر اتنی ہی طلاق واقع کرنے کا حق ہے جتنی طلاق کا اختیار مرد نے اس کو دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کو شوہر کی طرف سے دو طلاق کا اختیار ملے اور وہ اپنے اوپر تین واقع کر لے۔^۲

پانچویں شرط یہ ہے کہ شوہر اختیار طلاق دینے کے بعد اس کو نہ ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی اس سے رجوع کر سکتا ہے۔^۳

چھٹی شرط یہ ہے کہ لفظ اختیار سے تفویض کی صورت میں لفظ اختیار کے ساتھ نفس یا طلاق یا ان کے قائم مقام الفاظ کو متصل استعمال کیا جائے۔ اگر مرد نے بغیر ان الفاظ کے فقط اختاری کہا تو اس سے اختیار مکمل نہ ہوگا البتہ اس کا ذکر زوجین

۱۔ ”(ولا يبطل المؤقت) أي الخيار المؤقت بيوم أو شهر أو سنة بالأعراض في مجلس العلم بل بمضى الوقت المعين علمت بالتخير أو لا، أما الخيار المطلق فيبطل بالأعراض ط“۔ (رد المحتار: ج ۴، ص ۵۶۵، کتاب الطلاق/باب: الأَمْرُ بِالْيَدِ، بيروت)

۲۔ ”(وفي اختاري نفسك لا تصح نية الثلاث) لعدم تنوع الاختيار“۔ (الدر المختار: ص ۲۱۶، کتاب الطلاق، بيروت)

۳۔ ”وليس للزوج أن يرجع في ذلك ولا ينهها عما جعل اليها ولا يفسخ كذا في الجوهرة النيرة“۔ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۴۲۳، کتاب الطلاق/الباب الثالث في تفويض الطلاق، بيروت)

کے کلام میں ہونا ضروری نہیں فقط ایک کے کلام میں ہونا کافی ہے۔^۱
 ساتویں شرط یہ ہے کہ اگر تفویض طلاق الفاظ کنایہ سے کیا گیا ہے تو اس میں
 شوہر کیلئے طلاق کی نیت کرنا شرط ہے لہذا اگر الفاظ کنایہ کا استعمال فقط زبان سے کیا
 گیا اور نیت کچھ بھی نہیں کی گئی تو تفویض درست نہ ہوگی اور نہ ہی اس سے بیوی کو اختیار
 طلاق حاصل ہوگا۔^۲

تفویض طلاق کے مخصوص الفاظ

فتہانے بیوی کو طلاق کا اختیار دینے کے لئے تین الفاظ کا ذکر کیا ہے۔ وہ
 تین ذیل میں بیان کئے جاتے ہیں۔

(۱) اختاری (۲) الأمر بیدک (۳) مشیت

بیوی کو اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) تاخیر سے ملنا
 بیوی کو طلاق کا اختیار سپرد کرنے کا علم ہونا ضروری ہے اس کی صورتیں ذیل
 میں بیان کی جاتی ہیں۔

۱۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اختیار طلاق دیا

۱۔ ”لابد من ذکر النفس أو التعلیق أو الاختیار فی أحد الکلامین لوقوع الطلاق
 ولو قال لها اختاری فقالت فعلت فکذا ولا يقع شیء بخلاف ما لو قال
 اختاری نفسک فقالت فعلت حیث يقع کذا فی غایة السروجی“۔ (الفتاویٰ الہندیہ:
 ج، ۱، ص، ۴۲۴، کتاب الطلاق/الباب الثالث فی تفویض الطلاق، بیروت)

۲۔ ”ثم لا بد من النية في قوله اختاري فان اختارت نفسها في قوله اختاري كانت
 واحدة بانة“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج، ۱، ص، ۴۲۴، کتاب الطلاق/باب فی تفویض
 الطلاق، بیروت)

اور بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) تاخیر سے ملا تو بیوی کو اختیار طلاق ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ملنے کے وقت سے ہوگا۔

۲۔ شوہر نے اپنی زوجہ کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق کا اختیار دیا اور بیوی کو فوراً مل گیا لیکن اس نے کسی وجہ سے اس کو نہ پڑھا اور کسی اور طرح سے بھی یہ علم نہیں ہو سکا کہ یہ شوہر کی طرف سے اختیار طلاق کا میسج (Message) ہے تو جب وہ پڑھے گی اس وقت سے اسے اختیار حاصل ہوگا۔

۳۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار وائس میل (Voice Mail) کے ذریعہ دیا اور بیوی نے تاخیر کے ساتھ وائس میل (Voice Mail) سنا تو اس کو اختیار اس وقت سے ہوگا جب اسے وائس میل (Voice Mail) کے ذریعہ اختیار طلاق کا علم ہوا۔

۴۔ اگر کسی نے اپنی زوجہ کو اختیار طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) ارسال کیا اور بیوی کو نہ ملا تو اس سے بیوی کا اختیار باطل نہیں ہوگا بلکہ یہ اختیار اسے اس وقت حاصل ہوگا جب اسے علم ہوگا۔^۱

شوہر کا بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم

ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق کا اختیار دینا

اگر کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone)، ویڈیو کا نفرنگ

۱۔ ”ولو خيرها فلم تسمع أو كانت غائبة فلها الخيار في مجلس علمها“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۲۲۴ کتاب الطلاق / الباب الثالث في تفويض الطلاق، بيروت)

(Video Conferencing) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اختیار طلاق دیا تو عورت کا اختیار طلاق کو استعمال کرنا صحیح ہوگا۔

شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ

متعینہ مدت کی قید کے ساتھ طلاق کا اختیار اور

ایس ایم ایس (S.M.S) کا مدت کے بعد پہنچنا

اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ایک دن یا ایک سال یا دو سال تک ہے تو جب تک وہ متعینہ دن یا سال نہ آجائے تب تک عورت کا اختیار باقی رہے گا۔ اور وہ اس متعین وقت سے پہلے اپنے اختیار کو استعمال کر سکتی ہے۔ اگر وہ متعین مدت ختم ہو چکی ہے یا بیوی کو وقت گزرنے کے بعد معلوم ہوا کہ مجھے طلاق کا اختیار دیا گیا تھا تو اس کا اختیار طلاق باطل ہو جائے گا۔ اس کی چند صورتیں سپرد قلم ہیں۔

۱۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق کا اختیار ایک

دن تک دیا اور بیوی کو مدت گزرنے کے بعد ٹیکسٹ میسج (Text Message)

ملا اور بعد میں معلوم ہوا کہ مجھے طلاق کا اختیار دیا گیا تھا تو بیوی کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنے آپ کو طلاق دے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

۲۔ اگر کسی نے وائس میل (Voice Mail) پر اپنی بیوی کو ایک متعین مدت

تک طلاق کا اختیار دیا اور بیوی نے مدت گزر جانے کے بعد وائس میل

(Voice Mail) سنا اور اپنے آپ کو طلاق دی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔

۳۔ شوہر نے بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایک دن کا اختیار

طلاق دیا اور وہ ایس ایم ایس (S.M.S) بیوی کو نہیں ملا۔ بیوی کو دن گزر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ مجھے طلاق کا اختیار دیا گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو طلاق دی تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

اگر میں تین دن کے اندر اپنے موبائل فون

(Mobile Phone) سے تیرے اکاؤنٹ (Account)

میں پیسے ٹرانسفر (Transfer) نہ کروں تو تجھے طلاق

سائنسی ترقی کی تیز رفتاری نے اب موبائل فونز (Mobile Phones) پر انٹرنیٹ (Internet) کا استعمال ممکن بنا دیا ہے۔ انسان جہاں کہیں بھی ہوا اپنے موبائل فون (Mobile Phone) پر انٹرنیٹ (Internet) کا استعمال کر سکتا ہے۔ نیز بینکوں نے موبائل فون (Mobile Phone) استعمال کرنے والوں کو یہ سہولت دے رکھی ہے کہ وہ آن لائن کسی وقت بھی موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ پیسے ٹرانسفر (Transfer) کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو کہا کہ ”اگر میں تین دن کے اندر اپنے موبائل فون (Mobile Phone) سے تیرے اکاؤنٹ (Account) میں پیسے ٹرانسفر (Transfer) نہ کروں تو تجھے طلاق۔ لہذا شوہر نے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) کو استعمال کرتے ہوئے تین دن

۱۔ ”وأما إذا جعل الأمر إليها مؤقتاً بوقت فإن بلغها مع بقاء شيء من الوقت فلها الخيار في بقية الوقت وإن مضى الوقت قبل أن تعلم ثم علمت فلا خيار لها كذا في السراج الوهاج“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص ۴۲۶، کتاب الطلاق / باب في تفویض الطلاق، بیروت)

کے اندر اندر اپنی بیوی کے اکاؤنٹ (Account) میں پیسے ٹرانسفر (Transfer) کر دیے لیکن بینک نے بیوی کے اکاؤنٹ (Account) میں پیسے تین دن کے بعد پہنچائے تو اس صورت میں طلاق واقع نہ ہوگی اس لئے کہ شوہر نے وقت مقررہ کے اندر اندر پیسے ٹرانسفر (Transfer) کر دیے تھے۔^۱

شوہر کا بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایک طلاق

رجعی کا اختیار دینا اور بیوی کا اپنے آپ کو طلاق بائن دینا اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ایک طلاق رجعی کا اختیار دیا اور بیوی نے اپنے آپ کو طلاق بائن دے دی تو اس پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگی۔^۲

شوہر کا بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کا

اختیار دینا اور بیوی کا کال (Call) کو ہولڈ (Hold) پہ لگانا اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کا اختیار دیا اور بیوی نے مجلس کے اندر کسی اجنبی سے باتیں شروع کر دیں تو بیوی کا اختیار باطل ہو جائے گا۔ اس کی صورتیں درج

۱۔ ”اذا قال لامرأته: ان لم أرسل اليك هذا الشهر بنفقتك فأنت طالق أو قال ان لم أرسل اليك بنفقة هذا الشهر فأنت طالق فأرسل على يدي انسان فضاغت من يد الرسول لا يحث لأنه قد أرسل كذا في فصول الاستروشنی“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج، ۱، ص، ۴۳۴، کتاب الطلاق / باب فی تفویض الطلاق، بیروت)

۲۔ ”وان أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة أو أمرها بالبائن فطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج“۔ (ہدایہ: فصل فی المشیۃ، ج، ۲، ص ۳۹۶، رحمانیہ)

ذیل ہیں۔

- ۱۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کا اختیار دیا ہی تھا کہ بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر کسی کی کال (Call) آگئی اور بیوی نے شوہر کی کال (Call) کو ہولڈ (Hold) پر لگا کر اس سے باتیں شروع کر دیں تو اس کا اختیار طلاق باطل ہو جائے گا۔
- ۲۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر اختیار طلاق دیا اور بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر کسی کا ایس ایم ایس (S.M.S) آگیا اور وہ اسے پڑھنے لگی یا اس کا جواب لکھنے لگی تو اس سے اس کا اختیار باطل ہو جائے گا۔^۱

شوہر کا بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر اختیار

طلاق دے کر کال (Call) کاٹنا

شوہر نے بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر اختیار طلاق دے

۱۔ ”عن علي: في رجل جعل أمر امرأته بیدها قال: هو لها حتى تتكلم، أو جعل أمر امرأته بید رجل قال: هو بیده حتى يتكلم“ . (مصنف لابن أبي شيبة: باب من قال: أمرها بیدها حتى تتكلم، ج، ۹، ص، ۵۸۹، رقم الحديث، ۱۸۳۲۵، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

”عن جابر قال: اذا خیر الرجل امرأته فلم تختّر في مجلسها ذلك فلا خيار لها“ . (مصنف لابن أبي شيبة: باب ما قالوا في الرجل يخیر امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها، ج، ۹، ص، ۵۸۸، رقم الحديث، ۱۸۳۱۸، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

”ودخل في العمل الكلام الأجنبي“ . (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۵۵۴، كتاب الطلاق/باب في تفویض الطلاق، بيروت)

کر کال (Call) کاٹ دی اور اپنی مجلس بھی تبدیل کر دی لیکن بیوی نے اپنی مجلس تبدیل کیے بغیر شوہر کو رینگ (Ring) کیا اور اختیار کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی چند صورتیں درج ذیل ہیں۔

۱۔ کسی نے اپنی زوجہ کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق کا اختیار دیا اور بیوی نے مجلس تبدیل کیے بغیر اس اختیار کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ قبول کر کے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

۲۔ شوہر نے کاغذ پر اختیار طلاق کا مضمون لکھوا کر ملٹی میڈیا میسج (Multimedia Message) کے ذریعہ بیوی کو ارسال کیا اور اس نے اپنی مجلس تبدیل کر لی لیکن بیوی نے مجلس تبدیل کیے بغیر اس کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ قبول کر کے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

بیوی کا اختیار کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو ڈرافٹ (Draft) میں محفوظ کرنا

شوہر نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق کا اختیار دیا اور بیوی نے اسی مجلس میں اختیار کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ قبول کر

۱۔ ”فلہا أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك وان تطاول يوماً أو أكثر ما لم تقم منه أو تأخذ في عمل آخر وكذا إذا قام هو من المجلس فالأمر في يدها ما دامت في مجلسها“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج، ۱، ص، ۴۲۳، باب فی تفویض الطلاق، بیروت)

کے شوہر کو ارسال کیے بغیر ڈرافٹ (Draft) میں محفوظ کر لیا اور اپنے آپ کو طلاق دے دی تو اس سے اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

بیوی کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اختیار قبول کرنا اور شوہر کو میسج (Message) نہ ملنا

کسی نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اختیار طلاق دیا اور بیوی نے اس مجلس میں شوہر کو اختیار قبول کرنے کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کر دیا اور اپنے آپ کو طلاق دے دی لیکن وہ میسج (Message) شوہر کو ملا نہیں تو اس صورت میں بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

شوہر کا اختیار طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) سے انکار

کسی نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اختیار طلاق دیا اور بیوی نے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی اور شوہر اختیار طلاق کا انکار کرتا ہے اور بیوی کے پاس گواہ بھی نہیں اور موبائل فون (Mobile Phone) میں ٹیکسٹ میسج (Text Message) بھی محفوظ نہیں تو شوہر سے قسم لی جائے گی اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کا انکار معتبر مانا جائے گا۔^۳

۱۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

۲۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

۳۔ ”(لكن البينة على المدعى، واليمين على من أنكر)“ (واليمين) بالوجهين (على من أنكر) قال النووي: هذا الحديث قاعدة شريفة كلية من قواعد أحكام الشرع، ففيه أنه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الى بينة أو تصديق المدعى عليه، فان طلب يمين المدعى عليه فله ذلك،“ (مرقاة المفاتيح: شرح مشكوة المصابيح، ج، ۷، ص، ۲۹۹، كتاب الامارة والقضاء/باب الأقضية والشهادات، رقم الحديث ۳۷۵۸، بيروت)

اختیار طلاق کے بعد بیوی کا شوہر کی کال (Call) کو میسج

(Mute) پر لگا کر گواہوں کو ایس ایم ایس (S.M.S)

یا رنگ (Ring) کرنا

اگر کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کا اختیار دیا اور بیوی نے شوہر کی کال (Call) کو میسج (Mute) یا ہولڈ (Hold) پر لگا کر گواہوں کو فون (Phone) کیا یا اپنے باپ سے مشورہ کیا تو اس سے اس کا اختیار طلاق باطل نہیں ہوگا۔^۱

نیٹ ورک (Network) کی خرابی کے باعث بیوی کو شوہر کی آواز کا سنائی نہ دینا

اگر کسی نے اپنی بیوی کو موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ اختیار طلاق دیا اور بیوی کو نیٹ ورک (Network) کی خرابی یا خراب سگنلز (Signals) کی وجہ سے شوہر کی آواز سنائی نہ دی اور بیوی کو معلوم نہ ہو سکا کہ شوہر نے کیا کہا تھا اور پھر شوہر نے بیوی کو دو تین دن کے بعد رنگ (Ring) کر کے بتایا کہ میں اس دن تجھے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کا اختیار دے رہا تھا۔ تو بیوی کو اختیار اس وقت ہوگا جب اس کو معلوم ہوا۔^۲

۱۔ ”لو خیرھا فلبست ثوباً أو شربت لایبطل خیارھا، لأن اللبس قد یکون لندعو شهوداً“۔ (ردالمحتار: ج، ۴، ص، ۵۵۴، کتاب الطلاق / باب تفویض الطلاق، بیروت)

۲۔ ”فلو قال: جعلت لها أن تطلق نفسها اليوم اعتبر مجلس بقية حاشية اگلے صفحہ پر

شوہر کا اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) بیوی کے ایسے نمبر (Number) پر ارسال کرنا جو اس کے استعمال میں نہیں ہے شوہر نے بیوی کے ایسے نمبر (Number) پر اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا جو اس کے استعمال میں نہیں ہے تو اس کو اختیار اس وقت حاصل ہوگا جب اسے اس کا علم ہوگا۔^۱

وکیل بالطلاق بچے کا موبائل فون (Mobile Phone)

یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دینا اگر کسی نے ایسے نابالغ بچے کو اپنی زوجہ پر موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق واقع کرنے کا وکیل بنایا جو عقل مند ہے تو اس کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ علمہا فی هذا اليوم“۔ (ردالمحتار: ج ۴، ص ۵۵۳، کتاب الطلاق / باب تفویض الطلاق، بیروت)

”اذا كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك وان كانت لا تسمع فمجلس علمها أو بلوغ الخبر اليها“۔ (ہدایہ: کتاب الطلاق / فصل فی الامر بالیہ، ج ۲، ص ۳۹۴، رحمانیہ)

۱۔ (المرجع السابق)

۲۔ ”واذا وكل صبياً عاقلاً أو عبداً بالطلاق صح كذا في السراجية“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج ۱، ص ۴۲۶، کتاب الطلاق / باب فی تفویض الطلاق، بیروت)

”ولو كان الصبي وكيلاً بالتطليق من قبل رجل فطلق الصبي صح كذا في التتارخانية“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج ۱، ص ۳۸۷، کتاب الطلاق / الباب الأول فی تفسیرہ و رکنہ و شرطہ، بیروت)

شوہر کا غلطی سے دوسری بیوی کو اختیار طلاق کا

ایس ایم ایس (S.M.S) کرنا

ایک آدمی کی دو بیویاں تھیں ایک کا نام زینب اور دوسری کا نام عمرہ تھا اس نے زینب کو اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا تھا لیکن غلطی سے عمرہ کو ارسال کر دیا اور عمرہ نے اختیار کو قبول کرتے ہوئے اپنے آپ کو طلاق دے دی تو اس سے عمرہ پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر شوہر نے کہا کہ میں نے زینب کی نیت کی تھی تو زینب پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

شوہر کو اپنی بیوی کی طرف اختیار طلاق کا ایس ایم ایس

(S.M.S) ارسال کرنے پر مجبور کرنا

شوہر کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرے اور اس نے میسج (Message) ارسال کر دیا تو اس کی بیوی کو اختیار طلاق کا حق نہیں ہوگا جب تک شوہر نیت نہ کرے۔ اگر شوہر نے نیت کر لی ہے تو اس کو اختیار طلاق کا حق ہوگا اور اگر اس نے مجلس میں اپنے آپ کو طلاق دے دی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر شوہر کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کو

۱۔ ”رجل له امرأتان عمرة وزینب فقال یا زینب، فاجتبه عمرة، فقال أنت طالق ثلاثاً وقع الطلاق علی النبی أوجب ان كانت امرأته، وان لم تکن امرأته بطل؛ لأنه أخرج الطلاق جواباً بالكلام التي أوجب، وان قال نويت زینب طلقت زینب، ولو قال: یا زینب أنت طالق، فلم یجبه أحد طلقت زینب“۔ (فتاویٰ قاضی خان: ج، ۱، ص، ۳۹۶، کتاب الطلاق، بیروت)

ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اختیار طلاق دے اور اس نے نیت کے بغیر اپنی زوجہ کو اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کر دیا اور بیوی نے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی تو طلاق نہیں ہوگی۔^۱

وکیل بالطلاق کا نقشہ میں موبائل فون (Mobile Phone)

یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دینا
کسی کو وکیل بالطلاق بنایا گیا اور اس نے موکل کی بیوی کو نقشہ کی حالت میں موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعے طلاق دے دی تو اس صورت میں راجح قول کے مطابق طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

اختیار طلاق کا جواب دینے کے لئے بیوی کے موبائل فون

(Mobile Phone) میں بیلنس (Balance) کا نہ ہونا

کسی نے اپنی زوجہ کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ طلاق کا

۱۔ ”لو أكره أن يكتب على القرطاس امرأته طالق أو أمرها بیده لم يصح الا اذا نوى“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۴۳۸، كتاب الطلاق / باب في تفويض الطلاق، الفصل الثاني في الأمر باليد، بيروت)

۲۔ ”رجل وكل رجلاً بطلاق امرأته فطلقها الوكيل في سكره اختلفوا فيه والصحيح أنه يقع“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۴۳۶، كتاب الطلاق / باب في تفويض الطلاق، الفصل الثالث في المشيئة، بيروت)

”ولو وكل رجلاً ليطلق امرأته فشرّب الوكيل الخمر فطلق امرأته قال بعض المشايخ: لا يقع وأكثر المشايخ على أنه يقع كذا في التتارخانية“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۳۸۸، كتاب الطلاق / باب الأول في تفسيره وركنه وشرطه، بيروت)

اختیار دیا اور بیوی اختیار کو قبول کرنا چاہتی تھی لیکن اس کے موبائل فون (Mobile Phone) میں بیلنس (Balance) نہیں ہے کہ شوہر کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اختیار قبول کرنے کا جواب ارسال کر سکے اگر وہ موبائل کارڈ (Mobile Card) خرید کر لوڈ (Load) کرے گی اور پھر شوہر کو اختیار قبول کرنے کا ایس ایم ایس (S.M.S) کرتی ہے تو اس سے اس کا اختیار طلاق باطل ہو جائے گا۔^۱

شوہر کا بیوی کو مذاق میں ایس ایم ایس (S.M.S)

کے ذریعہ اختیار طلاق دینا

کسی نے اپنی بیوی کو مذاق میں اختیار طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) کیا اور بیوی نے اختیار قبول کر کے اپنے اوپر طلاق واقع کر لی تو اس سے اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

وکیل کا موبائل فون (Mobile Phone) پر

موکل کی بیوی کو طلاق

اگر کسی آدمی کو وکیل بالطلاق پر مجبور کیا گیا کہ فلاں شخص کو اپنی بیوی پر طلاق

۱۔ ”اذا قامت عن مجلسها قبل أن تختار نفسها وكذا اذا اشتغلت بعمل آخر بعلم أنه كان قاطعاً لما قبله كما اذا دعت بطعام لتأكله أو نامت أو نشطت أو اغتسلت أو اختضبت أو جامعها زوجها أو خاطبت رجلاً بالبيع والشراء فهذا كله يبطل خيارها.“ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۲۳، کتاب الطلاق / باب في تفويض الطلاق، الفصل الأول في الاختيار، بيروت)

۲۔ ”وطلاق اللاعب والهازل به واقع.“ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۳۸۷، کتاب الطلاق / الباب الأول في تفسيره وركنه وشرطه، فصل فيمن يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه، بيروت)

واقع کرنے کا اختیار دے دو تو اس نے مجبوراً طلاق کا وکیل بنادیا اور وکیل نے موبائل فون (Mobile Phone) پر اس کی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ وکیل کی طلاق سے پہلے وکالت ختم کرنا اور ایس ایم ایس (S.M.S)

کا وکیل کی طلاق کے بعد پہنچنا

کسی شخص نے کسی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ وکیل بالطلاق کیا اور بعد میں وکالت کو ختم کرنے کی غرض سے وکیل کے طلاق دینے سے پہلے ٹیکسٹ میسج (Text Message) ارسال کیا لیکن وہ ایس ایم ایس (S.M.S) وکیل کو موصول کی بیوی کو طلاق دینے کے بعد ملا تو وکیل کی دی ہوئی طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

u

۱۔ ”وشمل ما اذا أكره على التوكيل بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فانه يقع.“ (ردالمحتار: ج، ۴، ص، ۴۳۸، کتاب الطلاق، بیروت)

۲۔ ”عن الشعبي في رجل خير امرأته قال: له أن يرجع ما لم تتكلم“. (مصنف لابن أبي شيبة: باب ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار، ج ۹، ص، ۵۸۹، رقم الحديث، ۸۴۲۷، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

”واذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده وله أن يرجع.“ (هداية: فصل في المشية، ج ۲، ص ۳۹۵، رحمانية)

تعلیق طلاق

طلاق کے وقوع کو مستقبل میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے یا کسی شرط کے ساتھ مشروط کرنے کا نام تعلیق طلاق ہے۔

طلاق معلق کے واقع ہونے کی شرائط

طلاق معلق کی چند شرائط ہیں جو کہ ذیل میں بیان کی جاتی ہیں۔

- ۱۔ جس طرح طلاق کے وقوع کے لئے شوہر کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے اسی طرح تعلیق طلاق کے لئے بھی شرط ہے۔^۱
- ۲۔ شوہر نے طلاق کو جس چیز پر معلق کیا ہے وہ محال نہ ہو۔
- ۳۔ مرد نے طلاق کو جس چیز پر معلق کیا ہے وہ موجود ہو یا اس کو پائے جانے کا امکان ہو۔
- ۴۔ شرط اور جزا کے الفاظ کا متصل ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر شرط اور جزا کے درمیان کوئی ایسی بات بڑھادی گئی جو غیر متعلق تھی یا ایسا غیر معمولی سکوت اختیار کیا گیا جو عادی نہیں کیا جاتا یا مجلس تبدیل کی گئی تو یہ تعلیق نہیں ہوگی بلکہ اس سے فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔
- ۵۔ طلاق کو ایسی شے یا ذات کی مشیت پر موقوف نہ کیا جائے مثلاً جنات اور فرشتہ۔
- ۶۔ شوہر طلاق کی شرط کو اتنا زور سے بولے کہ قریب والا آدمی سن لے۔

۱۔ ”معلوم من کلیات الشریعة أن التصرفات لا تنفذ الا ممن له اهلیة التصرف وادرناها بالعقل والبلوغ خصوصاً ما هو دائر بین الضرر والنفع۔ (فتح القدیر: ج، ۳، ص، ۳۳ تا ۳۴، بحوالہ خزینة الفقه، ج: ۲، ص، ۲۱۹)

- ۷۔ شوہر کو لفظ استثناء کا علم ہونا ضروری نہیں لہذا اگر طلاق کا تلفظ کرنے کے بعد متصل بے اختیار انشاء اللہ نکل گیا تو اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔
- ۸۔ مرد کو تعطیق طلاق میں شک نہ ہو۔
- ۹۔ جملہ شرطیہ میں مرد نے تعطیق کے علاوہ کوئی اور معنی مراد نہ لئے ہوں۔
- ۱۰۔ جس عورت کی طلاق کو معلق کیا گیا ہو وہ شوہر کی معتدہ یا منکوحہ ہو۔^۱

شوہر کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بیوی

تک پہنچنے پر معلق کرنا

اگر کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق

۱۔ ”و شرط صحته كون الشرط معدوماً على خطر الوجود؛ فالمدقق كان كان السماء فوقنا تنجيزاً، والمستحيل كان دخل الجمل في سم الخياط لغو وكونه متصلاً إلا لعذر وأن لا يقصد به المجازاة (شرط الملك) حقيقة كقوله لقنه: ان فعلت كذا فأنت حز أو حكماً، ولو حكماً (كقوله لمنكوحته) أو معتدته (ان ذهبت فأنت طالق.....) (فلغا قوله الأجنبية ان زرت زيدا فأنت طالق فنكحها فزارت) (الى قوله) (قال لها أنت طالق ان شاء الله متصلاً) الا لتنفس أو سعال أو جشأ أو عطاس أو ثقل لسان أو امساك فم أو فاصل مفيد لتأكيد أو تكميل أو حد أو طلاق، أو نداء..... (مسموعاً) بحيث لو قرب شخص أذنه الى فيه يسمع فصيح استثناء الأصم خانية. (لا يقع) للشك (وان ماتت قبل قوله ان شاء الله) وان مات يقع (ولا يشترط) فيه (القصد ولا التلفظ) بهما، فلو تلفظ بالطلاق وكتب الاستثناء موصولاً أو عكس أو أزال الاستثناء بعد الكتابة لم يقع. عمادية (ولا العلم بمعناه) حتى لو أتى بالمشيئة من غير قصد جاهلاً لم يقع..... (وحكم ما لم يوقف على مشيئته) فيما ذكر (كالانس والجن) والملائكة والحداد والحصار (كذلك) وكذا ان شرک كان شاء الله و شاء زيد لم يقع أصلاً“۔ (الدر المختار: ۲۲۰، ۲۲۳، کتاب الطلاق باب التعليق، بیروت)

کرتے ہوئے لکھا کہ جس وقت میرا ٹیکسٹ میسج (Text Message) تجھے پہنچے تو طلاق ہے۔ تو جب تک وہ ٹیکسٹ میسج (Text Message) بیوی تک نہ پہنچے گا تب تک طلاق واقع نہ ہوگی۔ اس کی چند صورتیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) اگر کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور شوہر نے موبائل فون (Mobile Phone) سے میسج (Message) ارسال کرنا چاہا لیکن اس کے موبائل فون (Mobile Phone) میں بیلنس (Balance) نہیں تھا اس وجہ سے میسج (Message) بیوی تک نہ پہنچ سکا تو اس سے طلاق واقع نہ ہوگی۔

(۲) اگر شوہر نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور میسج (Message) نیٹ ورک (Network) کی خرابی یا مصروفیت کی وجہ سے بیوی تک نہ پہنچ سکا تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

(۳) اگر کسی شخص نے طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور پھر اسے اپنی بیوی کو ارسال کرنا چاہا لیکن اس کے موبائل فون (Mobile Phone) کی بیٹری (Battery) ختم ہوگئی یا اس کا موبائل فون (Mobile Phone) خراب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ میسج (Message) بیوی تک نہ پہنچ سکا تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

(۴) اگر کسی نے طلاق کے میسج (Message) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور ایس ایم ایس (S.M.S) بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر پہنچ گیا تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۵) اگر کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور بیوی نے میسج (Message) پڑھے بغیر ڈیلیٹ (Delete) کر دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۶) شوہر نے بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) لکھا کہ ”اگر یہ میسج (Message) تیرے پاس پہنچے“ تو تمہیں طلاق لیکن شوہر نے میسج (Message) کو ارسال کیے بغیر موبائل فون (Mobile Phone) پر سے ڈیلیٹ (Delete) کر دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی۔

(۷) کسی نے اپنی زوجہ کو تین الگ الگ ایس ایم ایس (S.M.S) میں ایک ایک طلاق لکھ کر بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور بیوی کو تین میں سے ایک میسج (Message) ملا تو اس سے بیوی پر شرط کے مطابق ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔

(۸) اگر کسی شخص نے طلاق کے میسج (Message) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور شوہر سے بیوی کا نمبر ڈیلیٹ (Number Delete) ہو گیا جس کی وجہ سے وہ میسج (Message) ارسال نہ کر سکا تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی۔

(۹) کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور اس نے بیوی کے ایسے نمبر (Number) پر ارسال کیا جو اس کے استعمال میں نہیں تھا اور بیوی تک نہ پہنچ سکا تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی۔ ہاں اگر کبھی بیوی اس سم (Sim) کو استعمال کرے اور اسے وہ میسج (Message) وصول ہو جائے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۰) شوہر نے طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور بیوی کا موبائل فون (Mobile Phone) چوری ہو گیا اس کا نمبر (Number) کسی اور کے استعمال میں آ گیا اور میسج (Message) بیوی کے گم شدہ نمبر (Number) پر چور کو موصول ہو گیا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۱) کسی نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دی اور اس کو زوجہ تک پہنچنے پر معلق کیا کسی نے بیوی کو بتایا کہ تیرے شوہر نے تجھے اس شرط کے ساتھ طلاق دی ہے اور بیوی نے میسج (Message) پہنچنے سے پہلے اپنی سم (Sim) کو ضائع کر دیا یا نمبر (Number) بند کر دیا اور وہ میسج (Message) بیوی کو نہ ملا تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہ ہو گی جب تک میسج (Message) موصول نہیں ہوگا۔

(۱۲) کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور بیوی کو لکھائی کے بغیر میسج (Message) ملا تو اس صورت میں بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ پیغام لکھے ہوئے مضمون کا نام ہے۔

(۱۳) شوہر نے طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور بیوی نے فقط شوہر کا نمبر (Number) دیکھ کر میسج (Message) کو موبائل فون (Mobile Phone) سے ڈیلیٹ (Delete) کر دیا تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۱۴) جدید فونز (Phones) کو پاس ورڈ (Password) کے ذریعے لاک (Lock) کیا جاسکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا موبائل فون (Mobile Phone)

استعمال کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا جب تک وہ موبائل فون (Mobile Phone) میں پاس ورڈ (Password) نہ لکھے۔ اگر کسی نے تین بار غلط پاس ورڈ (Password) لکھ دیا تو موبائل فون (Mobile Phone) لاک (Lock) ہو جائے گا اور نئے سرے سے اس میں سافٹ ویئر (Software) ڈاؤن لوڈ (Download) کرنا پڑے گا۔ پس اگر کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی تک پہنچنے پر متعلق کیا اور بیوی نے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) میں پاس ورڈ (Password) لکھا ہے جسے وہ بھول چکی ہے جس کی وجہ سے وہ میسج (Message) کو نہیں پڑھ سکتی اس صورت میں شرط پائے جانے کی وجہ سے بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی اس کا میسج (Message) پڑھنا ضروری نہیں۔^۱

اگر میں تیری زوجہ کی طرف دیکھوں یا نظر کروں تو میری بیوی کو تین طلاق اور پھر اس عورت کو ویڈیو کانفرنسنگ (Video conferencing) کے دوران دیکھ لیا زید نے بکر کو کہا کہ ”اگر میں تیری زوجہ کو دیکھوں تو میری بیوی کو تین طلاق“

۱۔ ”وان علق طلاقہا بمجیء الكتاب بأن كتب اذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فما لم يجيء اليها الكتاب لا يقع كذا في فتاوى قاضي خان، وان كتب اذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق فكتب بعد ذلك حوائج فجاءها الكتاب فقرأت الكتاب أو لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة“۔ (الفتاوى الهندية: ج ۱، ص ۴۱۴، كتاب الطلاق /باب في إيقاع الطلاق، الفصل السادس في الطلاق بالكتابة، بيروت)

(یعنی زید کی بیوی کو)۔ تو اتفاق سے زید بکر سے موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعے ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کر رہا تھا تو اس کی نظر بکر کی بیوی پر پڑ گئی تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر زید نے بکر کی زوجہ کو بلا قصد دیکھا اور دیکھنے کے بعد اپنی نظر فوراً ہٹا لی تو اس صورت میں زید کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہو گی۔ اور اگر قصد اس کو دیکھا ہے تو اس پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں۔^۱

شوہر کا بیوی کے کال ریسیو (Call Receive) کرنے

پر طلاق کو معلق کرنا اور بیوی کا کال (Call)

بلوٹوتھ ہیڈ فون (Bluetooth Headphone)

کے ذریعہ ریسیو (Receive) کرنا

آج کل کئی قسم کے ہیڈ فون (Headphone) ملتے ہیں جو کلپ (Clip) کی مدد سے کان کے ساتھ لگ جاتے ہیں تار والے بھی اور بغیر تار کے بھی۔ بغیر تار والے ہیڈ فون (Headphone) بلوٹوتھ ٹیکنالوجی (Bluetooth Technology) کے ذریعہ کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر ایک سہولت یہ بھی موجود ہے کہ موبائل فون

۱۔ ”ولو قال لها: ان كسفت وجهك على غير محرم فأنت طالق، فرأها غير المحرم من غير قصد لها بأن سترت في الكن فاطلع عليها رجل: لا يحنث“۔ (الفتاوى التاتارخانية: ج، ۳، ص، ۵۰۳، كتاب الأيمان / الفصل الثاني عشر في الحلف على الأفعال، نوع آخر في النظر واللقاء والرؤية والمشاهدة والجمع، بيروت) ”وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل أن يقول لامرأته: ان دخلت الدار فأنت طالق“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۴۵۷، كتاب الطلاق / باب في الطلاق بالشرط ونحوه، بيروت)

(Mobile Phone) کی سیٹنگ (Setting) میں ایک مخصوص آپشن (Option) منتخب کرنے سے بغیر موبائل فون (Mobile Phone) کا بٹن (Button) دبائے ایک دو بیلز (Bells) کے بعد خود بخود کال ریسیو (Call Receive) ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے طلاق کو بیوی کے کال ریسیو (Call Receive) کرنے پر معلق کیا اور بیوی نے بلوٹوتھ ہیڈ فون (Bluetooth Headphone) کے ذریعہ اس کی کال (بغیر بٹن دبائے) کو ریسیو (Receive) کر لیا تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی گو کہ بیوی نے موبائل فون (Mobile Phone) یا ہیڈ فون (Headphone) کا خود بٹن (Button) دبا کر اس کو ریسیو (Receive) نہیں کیا لیکن اس آپشن بٹن (Option Button) کو دبانے کا مقصد یہی تھا کہ جو بھی کال (Call) آئے گی میں ریسیو (Receive) کر لوں گی اور اس آپشن (Option) کا انتخاب اس نے کال ریسیو (Call Receive) کرنے ہی کے لئے کیا تھا۔ لہذا طلاق واقع ہو گئی۔^۱

بلوٹوتھ (Bluetooth) کیا ہے؟

بلوٹوتھ (Bluetooth) ایک ایسی ٹیکنالوجی (Technology) ہے جس کے ذریعہ موبائل فون (Mobile Phone) یا کمپیوٹر (Computer) میں محفوظ کی ہوئی فائلز (Files) کو بغیر تار کے تھوڑے فاصلے پر ایک دوسرے پر منتقل کیا جاسکتا ہے۔ یہ پرزہ کمپیوٹر، ڈیجیٹل کیمر اور موبائل فون کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے۔ اور یہ

۱۔ ”انما یصح (أي التعلیق) فی الملك کقولہ لمنکوحتہ: وان زرت فأنت طالق أو مضافاً الیہ) أي الی الملك (کان نکحتک فأنت طالق فیقع بعده) أي یقع الطلاق بعد وجود الشرط وهو الزیارة فی الأول والنکاح فی الثانی“۔ (تبیین الحقائق: ج ۳، ص ۱۰۹، کتاب الطلاق/باب التعلیق، بیروت)

بہت ہی محفوظ اور بیک وقت آٹھ الیکٹرانک آلات کے ساتھ متصل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

Bluetooth is a wireless technology for exchanging data over short distances. The chip can be plugged into computers, digital cameras and mobile phones..... It is very secure and can connect up to eight devices (items of electronic equipment) at the same time.^۱

بلوٹوتھ (Bluetooth) کی وجہ اسم

ڈنمارک کے بادشاہ ہارلڈ بلوٹوتھ (Harald Bluetooth) نے ڈنمارک اور ناروے (Norway) کے اختلافات کو مٹا کر متحد کیا تھا۔ چونکہ بادشاہ نے دو ملکوں کو یکجا کیا تھا اور بلوٹوتھ (Bluetooth) بھی دو آلات کو ایک دوسرے سے منسلک کرتا ہے اسی وجہ اس ٹیکنالوجی (Technology) کا نام بادشاہ کے نام پر رکھ دیا گیا۔^۲

بلوٹوتھ (Bluetooth) کا موجد

بلوٹوتھ (Bluetooth) کو Ericson کی کمپنی میں دو کام کرنے والے جاپ ہارٹسن (Jaap Haartsen) اور سون مائیسن (Sven Mattisson) نے ۱۹۹۴ء میں ایجاد کیا تھا۔^۳

۱- <http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/about-bluetooth>

۲- <http://answers-yahoo.com/questoin/index?qid=2007042411113AAuYf3U>

۳- http://www.ehow.com/facts_4895151_who-invented-bluetooth-technology.html

شوہر کا بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر
 طلاق کے میسج (Message) کو پہنچنے پر معلق کرنا اور اس
 کے موبائل فون (Mobile Phone) کے سینڈ
 (Send) بٹن (Button) کا خراب ہونا

کسی نے بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق کے ایس
 ایم ایس (S.M.S) کو پہنچنے پر معلق کیا اور اس کے موبائل فون (Mobile Phone)
 کا ارسال کرنے والا بٹن (Button) خراب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ میسج (Message)
 ارسال نہ کر سکا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

اگر میں تیری زوجہ کی طرف دیکھوں یا نظر کروں تو
 میری بیوی کو تین طلاق اور پھر اس عورت کو ریکارڈ ویڈیو
 (Recorded Video) یا موبائل فون (Mobile Phone)
 میں اس کی تصویر کو دیکھ لیا

عمر نے بکر کہا کہ ”اگر میں تیری زوجہ کی طرف دیکھوں تو میری بیوی کو تین
 طلاق“ تو عمر نے بکر کی بیوی کو ریکارڈ ویڈیو (Recorded Video) یا اس کی

۱۔ عن الحسن قال: اذا قال: أنت طالق اذا كان كذا وكذا الأمر لا يدري أكون أم لا؟
 فليس بطلاق حتى يكون ذلك، وله أن يطأها فيما بين ذلك وان مات قبل ما أجل
 توارثا“ (مصنف عبد الرزاق: باب الطلاق إلى أجل، ج، ۶، ص ۳۰۱، رقم الحديث
 ۱۱۳۵۹، بیروت)

اس اثر سے معلوم ہوا کہ اگر شرط پائے جائے تو طلاق واقع ہوگی۔ (عثمانی)

تصویر کو موبائل فون (Mobile Phone) میں دیکھ لیا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

اگر میں اپنی زوجہ کی آواز سنوں تو اس کو طلاق پھر شوہر نے

زوجہ کا وائس میسج (Voice message) سن لیا

کسی نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کی آواز سنوں تو اس کو طلاق۔ چنانچہ اس کی زوجہ نے اس کے موبائل فون (Mobile Phone) پر وائس میسج (Voice message) بھیجا اور شوہر نے سن لیا تو اس سے اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۲

۱۔ ”(و) حرم أيضا بالصهرية (أصل منيته) أراد بالزني الوطء الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الراس (الدر المختار) خرج به المسترسل (شامي) بحائل لا يمنع الحرارة (وأصل ماسته وناظرة الى ذكره والمنظور الى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه“ . (الدر المختار مع رد المحتار: ج، ۴، ص، ۱۰۷، ۱۰۸، كتاب النكاح/ فضل في المحرمات، بيروت)

”ولو نظر في امرأة ورأى فيها فرج امرأة فنظر عن شهوة لا تحرم عليه أمها وابتها لأنه لم يفرجها وانما رأى عكس فرجها“ . (الفتاوى الهندية: كتاب النكاح/ باب المحرمات، القسم الثاني المحرمات بالصهرية، ج، ۱، ص ۳۰۲، بيروت)

”وكذلك لو نظر الى فرج امرأة من وراء ستر حرمت عليه ابتها، ولو نظر اليه في امرأة. وفي الخانية: أو في ماء: لا يحث في يمينه ولا تحرم عليه ابتها“ . (الفتاوى التاتارخانية: ج، ۳، ص، ۵۰۲، كتاب الأيمان، الفصل الثاني عشر في الحلف على الأفعال، نوع آخر في النظر واللقاء والرؤية والمشاهدة والجمع، بيروت)

۲۔ ”وان سمعها من الصدى لا تجب عليه كذا في الخلاصة“ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۱۴۶، كتاب الصلاة/ باب سجود التلاوة، بيروت)

اگر تو نے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) پر

فلاں کے ساتھ بات کی تو تجھے طلاق

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ اگر تو نے موبائل فون (Mobile Phone)

پر فلاں کے ساتھ بات چیت کی تو تجھے طلاق پس اگر اس نے بات کر لی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۱

شوہر کا اپنی تصویر کو بیوی کے موبائل فون

(Mobile Phone) پر پہنچنے پر معلق کرنا اور اسکرین

(Screen) پر فقط ہاتھ یا پاؤں کا ظاہر ہونا

شوہر نے اپنی تصویر کو بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر پہنچنے

پر معلق کیا لیکن موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) میں خرابی

کے باعث پوری تصویر ظاہر ہونے کی بجائے فقط ہاتھ یا پاؤں ظاہر ہوئے تو اس صورت

میں طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لئے کہ تصویر بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone)

پر پہنچ چکی ہے لیکن موبائل فون (Mobile Phone) کی کسی ٹیکنیکل (Technical)

خرابی کی وجہ سے اسکرین (Screen) پر تصویر ظاہر نہیں ہو رہی لہذا بیوی کے موبائل

۱۔ ”أما الحقيقي فنحو أن يقول لامرأته : ان دخلت هذه الدار فأنت طالق ، أو ان

كلمت فلاناً ، أو ان قدم فلان ، ونحو ذلك ، وانه صحيح بلا خلاف“ . (بدائع الصنائع :

ج ۴، ص ۲۷۸، كتاب الطلاق / فضل في ما يرجع الى المرأة في الطلاق، بيروت)

فون (Mobile Phone) پر تصویر کا پہنچنا کافی ہے اس کا دیکھنا ضروری نہیں۔^۱

وائس میل (Voice Mail) کو بیوی کے سننے پر معلق کرنا

شوہر نے بیوی کے وائس میل (Voice Mail) پر طلاق کا پیغام چھوڑا اور

اسے بیوی کے سننے پر معلق کیا۔ اگر بیوی نے وائس میل (Voice Mail) کو سن لیا تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

طلاق کے وائس میسج (Voice Message) کو

بیوی کے سننے پر معلق کرنا

اگر کسی نے طلاق کے وائس میسج (Voice Message) کو بیوی کے سننے پر

معلق کیا اور وہ اس کی زوجہ کے موبائل فون (Mobile Phone) پر پہنچ تو گیا لیکن اس نے سنا نہیں تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر سن لیا تو شرط پائے جانے کی وجہ سے واقع ہو جائے گی۔^۳

۱۔ ”لقلال أئمة المذاهب الأربعة : يقع الطلاق المعلق متى وجد المعلق عليه“۔ (الفقه الاسلامي وأدلته: ج، ۷، ص، ۳۲۷، انحلال الزواج وآثاره / حکم الطلاق المعلق أو اليمين بالطلاق، دار الفکر)

۲۔ ”وإذا اضافه الى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لا مرأته ان دخلت الدار فأنت طالق“۔ (الهداية: ج، ۲، ص، ۳۹۸، كتاب الطلاق / باب في إيمان الطلاق، رحمانیہ)

۳۔ ”سئل عطاء عن رجل قال لا مرأته أنت طالق اذا ولدت، أيصيها بين ذلك؟ قال: نعم، ولا تطلق حتى يأتي الاجل“۔ (مصنف عبد الرزاق: باب الطلاق الى أجل، ج، ۶، ص ۳۰۰، رقم الحديث ۱۱۳۵۲، بیروت)

اس اثر سے معلوم ہوا کہ شرط کے پائے جانے سے طلاق واقع ہو جائے گی۔ (عثمانی)

شوہر کا طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message)

بیوی کے پڑھنے پر معلق کرنا اور اس کے ہوم بٹن

(Home Button) کا خراب ہونا

شوہر نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو اپنی بیوی کے پڑھنے پر معلق کیا اور اس کی بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر میسج (Message) تو ریسیو (Receive) ہو گیا لیکن ہوم بٹن (Home Button) خراب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ میسج (Message) نہ پڑھ سکی تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

ہوم بٹن (Home Button) کیا ہے؟

موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) کے نیچے ایک ایسا بٹن (Button) ہوتا ہے جس کو دبانے سے اس کے مختلف فیچرز (Features) اور ایپلیکیشنز (Applications) تک رسائی حاصل ہوتی ہے جیسے میسج (Message) اور فون بک (Phone Book) وغیرہ۔ اس بٹن کو ہوم بٹن (Home Button) کا نام دیا گیا ہے۔

شوہر کا طلاق کو تین مس کالز (Miss calls) پر معلق کرنا

اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے کہ جب میں تجھے تین مس کالز (Miss Calls)

۱۔ ”اذا قال لامرأته: أنت طالق لو دخلت الدار لم تطلق حتى تدخل الدار“.

(الفتاویٰ التاتاریخانیہ: ج، ۳، ص، ۶۲، کتاب الطلاق، بیروت)

کروں تو تجھے تین طلاق۔ اگر شوہر نے تین مس کالز (Miss Calls) کیں تو اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔^۱

شوہر کا دوسری زبان میں طلاق کا وائس میل (Voice Mail)

چھوڑ کر بیوی کے سننے پر معلق کرنا

کسی نے بیوی کو ایسی زبان میں طلاق دی جسے بیوی نہ بول سکتی ہے نہ سمجھ سکتی ہے تو اس سے بھی اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے وائس میل (Voice Mail) پر اس کو ایسی زبان میں طلاق دی جسے وہ سمجھ نہیں سکتی اور اسے اس کے سننے پر معلق کیا پس اگر بیوی نے وائس میل (Voice Mail) سن لیا تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۲

نوٹ: آج کل موبائل کمپنیاں (Companies) اپنے گاہکوں (Customers) کو وائس ٹو میسج (Voice To Message) کی سروس (Service) دے رہی ہیں کہ اگر کوئی کسی کے وائس میل (Voice Mail) پر کوئی پیغام چھوڑے گا تو وہ وائس میل (Voice Mail) اس متعلقہ آدمی کے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر لفظوں کی صورت میں ظاہر ہوگا اور وہ اسے بجائے سننے کے پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے وائس میل (Voice Mail) پر طلاق دے کر اس کو بیوی کے سننے پر معلق کیا اور وہ وائس میل (Voice Mail) بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر لفظوں کی صورت میں

۱۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

۲۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

ظاہر ہوا اور بیوی نے اس کو پڑھ لیا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی اس لئے کہ شرط نہیں پائی گئی۔

شوہر کا احتمالاً طلاق کے مضمون کو لکھ کر موبائل فون

(Mobile Phone) میں محفوظ کرنا

شوہر کو کسی نے اطلاع دی کہ تمھاری بیوی نے ایسا کیا ہے چنانچہ اس نے یہ سوچ کر موبائل فون (Mobile Phone) میں طلاق کا مضمون معلق محفوظ کر لیا کہ اگر یہ بات سچی ہوئی تو بیوی کو طلاق ارسال کر دوں گا ورنہ اسے موبائل فون (Mobile Phone) سے ڈیلیٹ (Delete) کر دوں گا۔ چنانچہ وہ بات سچی نہ نکلی اور شوہر نے اسے موبائل فون (Mobile Phone) سے ڈیلیٹ (Delete) کر دیا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہ ہوگی لیکن اگر مطلق لکھا اور کہا کہ بات سچی نکلی تو ارسال کروں گا تو طلاق واقع ہو جائے گی خواہ ارسال نہ کرے۔^۱

شوہر کا وائس چینج آپلیکیشن

(Voice Change Application) کے ذریعہ

طلاق دینا اور آواز کو بیوی کے پہچاننے پر معلق کرنا

شوہر نے طلاق کو بیوی کے آواز کو پہچاننے پر معلق کیا جو کہ وائس چینج آپلیکیشن

۱۔ ”ففي البحر: أنت طالق بدخول الدار أو بحيضك لم تطلق حتى تدخل أو تحيض“۔ (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۶۰۳، کتاب الطلاق / باب التعليق، مَطْلَب: مَا يَكُونُ فِي حُكْمِ الشَّزْطِ، بيروت)

(Voice Change Application) کے ذریعہ دی گئی تھی اگر اس نے آواز کو پہچان لیا تو طلاق واقع ہو جائے گی ورنہ نہیں۔^۱

نوٹ: وائس چینج (Voice Change) ایک ایسی آپلیکیشن (Application) ہے جس کی مدد سے انسان اپنی آواز کو مختلف آوازوں میں تبدیل کر سکتا ہے۔

احتمالاً طلاق کا لکھا گیا مضمون غلطی سے بیوی کو ارسال کرنا

شوہر نے موبائل فون (Mobile Phone) میں طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھ کر کسی بات کے صحیح ہونے پر معلق کیا اور اسے موبائل فون (Mobile Phone) میں محفوظ کر لیا پھر شوہر نے غلطی سے اسے بیوی کی طرف ارسال کر دیا تو اس کی زوجہ پر طلاق واقع نہ ہوگی جب تک کہ شرط نہ پائی جائے۔^۲

مشترکہ استعمال ہونے والے موبائل نمبر
(Mobile Number) پر طلاق کے ایس ایم ایس
(S.M.S) کو معلق کرنا

کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو ایسے موبائل نمبر (Mobile Number) پر پر پہنچنے پر معلق کیا جس کو بیوی کے علاوہ گھر کے دوسرے افراد بھی استعمال کرتے ہوں تو اس صورت میں ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے پہنچنے ہی اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔^۳

۱۔ (تقدم تخریجہ تحت المسئلة السابقة)

۲۔ (تقدم تخریجہ تحت المسئلة السابقة)

۳۔ (تقدم تخریجہ تحت المسئلة السابقة)

شوہر کا بیوی کے کال (Call) ریسیو (Receive) کرنے پر طلاق کو معلق کرنا

اگر شوہر نے بیوی کے کال (Call) ریسیو (Receive) کرنے پر طلاق کو معلق کیا اور بیوی کے علاوہ کسی اور نے کال (Call) ریسیو (Receive) کی تو شوہر نے کہا کہ میری بیوی کو فون (Phone) دو اور اس نے اپنی بیوی سے فون (Phone) پر بات کی یا نہ کی تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔
نوٹ: یہاں ریسیو (Receive) کرنے سے مراد یہ ہے کہ بیوی موبائل فون (Mobile Phone) کی گھنٹی بجتے ہی بات کرے۔

شوہر کا طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھ کر بیوی تک پہنچنے پر معلق کر کے لفظ طلاق کو ڈیلیٹ (Delete) کرنا

کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور اس میں کچھ مزید چیزوں کو ٹائپ (Type) کیا شوہر کو بعد میں ندامت ہوئی اور اس نے میسج (Message) سے طلاق کے لفظ کو ڈیلیٹ (Delete) کر دیا اور باقی ایس ایم ایس (S.M.S) بیوی کو ارسال کر دیا اور بیوی نے میسج ریسیو (Receive) کر لیا تو شرط کے پائے جانے کی وجہ سے اس پر طلاق واقع ہو جائے گی۔

۱۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

۲۔ ”وان كان المكتوب اذا وصل اليك كتابي هذا فانت طالق، فما لم يصل اليها لا يقع الطلاق كما لو تكلم بما كتب، فان ندم على ذلك فمحي ذكر الطلاق من كتابه وترك ما سوى ذلك وبعث بالكتاب اليها فهي طالق اذا وصل اليها الكتاب. لوجود الشرط ومحوه كرجوعه عن التعليق“. (المبسط للسرخسي: ج ۶، ص ۱۶۷، باب طلاق الاخرس، بيروت)

اگر تو نے میرا نمبر ڈائل (Number Dial) کیا تو
تجھے طلاق تو بیوی کا وائس ٹاگ (Voice Tag) یا
سپیڈ ڈائل (Speed Dial) کے ذریعہ نمبر ڈائل
(Number Dial) کرنا

اگر مرد نے عورت کو کہا کہ اگر تو نے میرا نمبر ڈائل (Number Dial) کیا
تو تجھے طلاق پھر بیوی نے سپیڈ ڈائل (Speed Dial) یا وائس ٹاگ (Voice Tag)
کے ذریعہ اپنے شوہر کا نمبر (Number) ملایا تو شرط کے مطابق اس پر طلاق واقع ہو
جائے گی۔ کیونکہ ضروری نہیں کہ ہاتھ سے ہی نمبر (Number) ملایا جائے بلکہ یہ
سب طریقے نمبر (Number) ڈائل (Dial) کرنے کے لئے اختیار کئے جاتے
ہیں۔

نوٹ: موبائل فونز (Mobile Phones) میں ایسے فنکشنز (Functions) موجود
ہیں کہ اگر کسی شخص کے نام کے ساتھ اپنی آواز کو ریکارڈ (Record) کر لیا جائے تو
ایک مخصوص بٹن (Button) دبانے کے بعد اگر اس شخص کا نام بولا جائے تو متعلقہ
شخص کو کال (Call) مل جاتی ہے۔ ایسے فنکشن (Function) کو وائس ٹاگ
(Voice Tag) کہتے ہیں۔ اگر کسی آدمی کے نام کے ساتھ کی پیڈ (Key pad) میں
سے کسی کا انتخاب کر لیا جائے مثلاً زید کے نام کے ساتھ نمبر (Number) دو (۲)
کی (Key) کا انتخاب کر لیا جائے اور جب زید کا نمبر (Number) ملانا ہو تو اس دو

۱۔ ”(تنحل) أي تبطل (اليمين) (إذا وجد الشرط مرة)“۔ (الدر المختار:

ص، ۲۲۱، کتاب الطلاق / باب التعلیق، بیروت)

(۲) والی کی (Key) کو کچھ دیر دبانے سے زید کو کال (Call) مل جائے گی۔ موبائل فون (Mobile Phone) کے اس فنکشن (Function) کو سپید ڈائل (Speed Dial) کہتے ہیں۔

شوہر کا طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بیوی تک پہنچنے پر معلق کر کے خالی ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کرنا

کسی نے طلاق کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) لکھ کر بیوی تک پہنچنے پر معلق کیا اور اس میں کچھ اور چیزوں کا تذکرہ کر کے سارے میسج (Message) کو ڈیلیٹ (Delete) کر دیا اور خالی ایس ایم ایس (S.M.S) بیوی کو ارسال کر دیا تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہ ہوگی اس لئے کہ شرط نہیں پائی گئی اور جو خالی میسج (Message) بیوی نے ریسیو (Receive) کیا ہے وہ پیغام نہیں ہے۔^۱

شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے پڑھنے پر معلق کرنا اگر کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے پڑھنے پر معلق کیا اور کسی نے ٹیکسٹ میسج (Text Message) پڑھ کر موبائل فون (Mobile Phone) سے ڈیلیٹ (Delete) کر دیا اور بیوی نے میسج (Message) کو نہ پڑھا تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کی چند صورتیں سپردِ قلم ہیں۔

۱۔ ”فان محی الخطوط کلہا وبعث بالبياض اليها لم تطلق، لأن الشرط لم يوجد فان ما وصل اليها ليس بكتاب“ (المبسوط للسرخسي: ج ۶، ص ۱۶۷، باب طلاق الاخرس، بيروت)

(۱) اگر کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے پڑھنے پر معلق کیا اور بیوی کو پڑھنا نہیں آتا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

(۲) اگر کسی نے طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بیوی کے پڑھنے پر معلق کیا اور بیوی پڑھ نہیں سکتی اور اس نے میسج (Message) کسی سے پڑھوایا تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

(۳) آج کل جدید فونز (Phones) میں ایک سہولت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی موبائل فون (Mobile Phone) پر میسج (Message) سننا چاہے تو وہ موبائل فون (Mobile Phone) میں ایک مخصوص پروگرام (Application) کے ذریعہ سن سکتا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے پڑھنے پر معلق کرے اور وہ میسج (Message) کو پڑھنے کے بجائے مخصوص پروگرام (Application) کے ذریعہ میسج (Message) کو سنے تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہ ہوگی۔

(۴) ان دنوں دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک میں نابینوں (Blinds) کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) کرنا سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ کسی حد تک لوگوں سے رابطہ میں رہیں اور جب کوئی ان کو میسج (Message) ارسال کرتا ہے تو وہ اسکرین (Screen) کو اپنی انگلیوں سے دبا کر میسج (Message) کو سن سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو اپنی نابینا بیوی کے پڑھنے پر معلق کیا اور اس نے میسج (Message) موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ سنا تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

(۵) اگر کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو کسی ایسی زبان میں لکھ کر اپنی بیوی کے پڑھنے پر معلق کیا جس کو وہ پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

(۶) اگر کسی نے طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو بیوی کے پڑھنے پر معلق کیا اور بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) پر ٹیکسٹ (Text) کے الفاظ آدھے دکھائی دیتے تھے جن کو پڑھنا اس کے لئے دشوار تھا تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

(۷) شوہر نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے پڑھنے پر معلق کیا اور اس کے موبائل فون (Mobile Phone) کی اسکرین (Screen) خراب ہو گئی جس کی وجہ سے فقط کال (Call) سن سکتی ہے لیکن اسکرین (Screen) سے کچھ نہیں پڑھ سکتی تو اس صورت میں شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

شوہر کا بیوی کے اپنے موبائل فون (Mobile Phone) پر کال ریسیو (Call Receive) کرنے پر طلاق کو معلق کرنا اور عورت کا موبائل فون (Mobile Phone) کو ڈائیورٹ (Divert) پہ لگانا

موبائل فونز (Mobile Phones) میں اپنے نمبر (Number) کو کسی

۱۔ ”أما الحقيقي فنحو أن يقول لامرأته: ان دخلت هذه الدار فأنت طالق، أو ان كلمت فلاناً، أو قدم فلان، ونحو ذلك؛ وانه صحيح بلا خلاف“۔ (بدائع الصنائع: ج ۴، ص ۲۷۸، كتاب الطلاق / فُضِّلَ فيما يرجع الى المرأة في الطلاق، بيروت)

دوسرے شخص کے نمبر (Number) پر ڈائیورٹ (divert) کرنے کی سہولت موجود ہے۔ مثلاً زید نے اپنا نمبر (Number) بکر کے موبائل فون (Mobile Phone) پر ڈائیورٹ (divert) کیا ہوا ہے تو اس صورت میں اگر کوئی زید کے نمبر (Number) پر کال (Call) کرے گا تو وہ زید کے موبائل فون (Mobile Phone) کی بجائے بکر کے موبائل فون (Mobile Phone) کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ چنانچہ کسی مرد نے یوں کہا کہ اگر میری بیوی نے میری کال (Call) اپنے موبائل فون (Mobile Phone) پر ریسیو (Receive) کر لی تو اس کو طلاق مگر بیوی نے اپنا نمبر (Number) اپنے لینڈ لائن (Landline) (گھر والے نمبر) پر ڈائیورٹ (divert) کیا ہوا تھا اور اس نے شوہر کی کال (Call) موبائل فون (Mobile Phone) پر ریسیو (Receive) کرنے کی بجائے لینڈ لائن (Land Line) (گھر والے) پر ریسیو (Receive) کی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔

شوہر کا طلاق کو صرف بیوی کے کال (Call) سننے پر

معلق کرنا اور بیوی کا کال (Call) کو موبائل فون

(Mobile Phone) کے لاؤڈ اسپیکر (Loud Speaker)

یا ہینڈز فری کٹ (Hands Free Kit) پر دوسروں کو سننا

کسی نے طلاق کو صرف بیوی کے کال (Call) سننے پر معلق کیا اور بیوی نے

موبائل فون (Mobile Phone) کے لاؤڈ اسپیکر (Loud Speaker) یا ہینڈز

فری کٹ (Hands Free Kit) کے ذریعہ کال (Call) دوسروں کو سنوادی تو اس صورت میں شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

نوٹ: آج کل گاڑیوں کے اندر ایک ایسا سسٹم نصب کیا جاسکتا ہے یا بعض گاڑیوں میں پہلے ہی سے نصب ہوتا ہے کہ بلو ٹوتھ (Bluetooth) کے ذریعہ موبائل فون (Mobile Phone) کو گاڑی کے اندر نصب اسپیکروں کے ساتھ پیر (Pair) کیا جاسکتا ہے جس سے آنے والی کال (Call) کو گاڑی میں موجود اشخاص سن سکتے ہیں۔ اس سسٹم کو ہینڈز فری کٹ (Hands Free Kit) کہتے ہیں۔

شوہر کا ایس ایم ایس (S.M.S) کو ایک بیوی کے پڑھنے پر

معلق کرنا اور دوسری بیوی کا ایس ایم ایس (S.M.S) پڑھنا

کسی شخص کی دو بیویاں تھیں ایک کا نام زینب اور دوسری کا عائشہ تھا اور اس نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو زینب کے پڑھنے پر معلق کیا اور زینب کی بجائے عائشہ نے ٹیکسٹ میسج (Text Message) پڑھ کر موبائل فون (Mobile Phone) سے ڈیلیٹ (Delete) کر دیا تو کسی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۲

۱۔ ”وإذا اضافه الى شرط وقوع عقيب الشرط مثل أن يقول لأمرأته ان دخلت الدار فأنت طالق“۔ (الهداية: ج، ۲، ص، ۳۹۸، کتاب الطلاق / باب الأيمان في الطلاق، رحمانية)

۲۔ ”رجل له امرأتان عمرة وزينب فقال يا زينب: فاجبته عمرة فقال أنت طالق ثلاثاً وقع الطلاق على التي أجابت ان كانت امرأته، وان لم تكن امرأته بطل؛ لأنه أخرج الطلاق جواباً بالكلام التي أجابت، وان قال نويت زينب بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

عمرہ طالق یا زینب بشرطیکہ ٹیکسٹ میسج

(Text Message) پڑھے

کسی نے کہا کہ عمرہ طالق ہے یا زینب بشرطیکہ میرا ایس ایم ایس (S.M.S) پڑھے تو دونوں نے پڑھ لیا تو اس صورت میں اس کو اختیار ہوگا کہ دونوں میں جس پر چاہے طلاق واقع کر دے۔^۱

ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے ملنے پر معلق کرنا اور

میاں بیوی کا شرط کے پائے جانے میں اختلاف

شوہر نے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے ملنے پر معلق کیا اور بعد میں بیوی دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے ایس ایم ایس (S.M.S) مل چکا ہے اور شرط پائی جانے کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ دوسری طرف شوہر ایس ایم ایس (S.M.S) بھیجنے کا

گذشتہ صفحے کا نتیجہ حاشیہ طلق زینب، ولو قال یا زینب أنت طالق، فلم یجبہ أحد طلق زینب“۔ (فتاویٰ قاضی خان: ج ۱، ص ۳۹۶، کتاب الطلاق، بیروت)

”عن سعید قال: سئل عن رجل قال لامرأته: ان دخلت دار فلان فأنت طالق، فدخلت وهو لا يشعر حتى مضى لذلك أشهر“۔ (مصنف لابن أبي شيبة: ج ۹، ص ۵۱۹، کتاب الطلاق / في الرجل يقول لامرأته: ان دخلت هذه الدار فأنت طالق، فتدخل ولا يعلم، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

۱۔ ”ولو قال: عمره طالق أو زینب ان دخلت الدار فدخلها خیر فی إبقاعه علی أیتھما شاء“۔ (الفتاویٰ الہندیۃ: ج ۱، ص ۳۹۷، کتاب الطلاق / باب فی إبقاع الطلاق، بیروت)

اقرار تو کرتا ہے لیکن بیوی کو ملنے کا انکار کرتا ہے یعنی شرط پائے جانے کا انکار کرتا ہے تو ایسی صورت میں اگر بینہ نہ ہو تو مرد کی بات قسم کے ساتھ مانی جائے گی کیونکہ عورت شرط پائے جانے اور طلاق واقع ہونے کی دعوے دار ہے اسلئے اس پر بینہ ہے جبکہ شوہر مدعی علیہ اور منکر ہے اس لئے بینہ نہ ہونے کی صورت میں قسم کے ساتھ اس کے قول کا اعتبار کر لیا جائے گا۔^۱

شوہر کا ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ

مشروط طلاق کا بار بار ارسال کرنا

اگر شوہر نے مشروط طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) اپنی بیوی کو بار بار ارسال کیا مثلاً اپنی زوجہ کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ لکھا کہ اگر تو نے مجھے ٹیکسٹ (Text) کیا تو تجھے طلاق، پھر دوسری اور تیسری بار ایس ایم ایس (S.M.S) کرتے ہوئے یہی لکھا لہذا زوجہ پر ایک ہی مرتبہ اپنے شوہر کو ٹیکسٹ (Text) کرنے سے تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور اگر دو دفعہ شوہر نے اپنی بیوی کو مشروط طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) بھیجا ہے تو اس کی بیوی پر دو طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ ہاں اگر شوہر یہ بات کہے کہ میری دوسری یا تیسری مرتبہ اپنی بیوی کو ٹیکسٹ (Text) کرنے کی غرض محض تاکید کی تھی تو دیا نہ اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے گا۔^۲

۱۔ ”البینۃ علی من ادعی والیمین علی من أنکر“۔ دارقطنی: ۳۱۶۲، بحوالہ اثمار الہدایۃ، ج ۵، ص ۷۳)

۲۔ ”لو قال: ان دخلت الدار فأنت طالق، ان دخلت الدار فأنت طالق، ان دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث“۔ (الدر المختار) ”والظاهر أنه نوى التأكيد بدین ح“۔ (رد المختار: ج ۴، ص ۶۳۹، کتاب الطلاق / باب التعليق، بیروت)

کسی دوسرے کا شوہر کی طرف منسوب شرط کو انجام دینا

شوہر نے بیوی کو کہا کہ اگر میں تمہیں کال (Call) کروں یا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کروں تو تمہیں طلاق۔ پھر شوہر نے اس کو کال (Call) نہیں کی اور نہ ہی اس کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) ارسال کیا بلکہ کسی اور نے اس کو شوہر کی توکیل کے بغیر از خود کال (Call) کی یا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا تو اس صورت میں اس کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس لئے کہ شوہر نے وہ کام نہیں کیا پس شرط نہیں پائی گئی لہذا طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر طلاق

کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو پہنچنے پر معلق کرنا اور اس

کا بیوی کی چوری ہوئی سم (Sim) پر پہنچنا

کسی نے طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر پہنچنے پر معلق کیا اور اس کی بیوی کی سم (Sim) چوری ہو چکی تھی جس کی وجہ سے وہ اس کے موبائل فون (Mobile Phone) پر تو نہ پہنچ سکا بلکہ چور کے موبائل فون (Mobile Phone) پر پہنچ گیا تو اس صورت میں اس کی بیوی

۱۔ ”(تنحل) الیمین (بعد) وجود (الشرط مطلقاً) (ونظیرہ ما فی الدر المختار) ان لم تجب بفلان أو ان لم تردی ثوبی الساعة فأنت طالق فجاء فلان من جانب آخر بنفسه وأخذ الثوب قبل دفعيها لا يحنث“۔ (الدر المختار علی رد المحتار: ج ۳، ص ۶۰۹، بحوالہ خزینة الفقہ، ج ۲، ص ۲۲۳)

پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

شوہر کا بیوی کے موبائل فون نمبر (Mobile Phone

Number) پر طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) کو پہنچنے پر
معلق کرنا اور اس کی گمشدہ یا چوری ہوئی سم (Sim) پر پہنچنا

کسی نے بیوی کے موبائل فون نمبر (Mobile Phone Number)
پر طلاق کے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کو پہنچنے پر معلق کیا اور اس کی سم (Sim)
چوری ہو گئی تھی یا گم گئی تھی جس کی وجہ سے ایس ایم ایس (S.M.S) اس کے موبائل فون
(Mobile Phone) پر تو نہ پہنچ سکا بلکہ اس شخص کے موبائل فون (Mobile Phone)
پر پہنچ گیا جس کو وہ سم (Sim) ملی تھی یا جس نے چوری کی تھی تو اس صورت میں اس کی
بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی گوکہ میسج (Message) بیوی کے موبائل فون
(Mobile Phone) پر نہیں پہنچا لیکن نمبر (Number) تو اسی کا تھا جو بوجہ چوری
ہونے یا گم ہونے کے کسی اور کے استعمال میں تھا۔^۲

شوہر کا طلاق کو بیوی کے تار والے ہیڈ فون (Headphone)
کے ذریعہ اپنی کال ریسیو (Receive) کرنے پر معلق کرنا اور
بیوی کا بلوٹوتھ ہیڈ فون (Bluetooth Headphone) کے
ذریعہ کال ریسیو (Call Receive) کرنا

شوہر نے طلاق کو بیوی کے تار والے ہیڈ فون (Headphone) کے

۱۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

۲۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

ذریعہ اپنی کال ریسیو (Call Receive) کرنے پر معلق کیا اور بیوی نے بلو ٹوٹھ ہیڈ فون (Bluetooth Headphone) کے ذریعہ اس کی کال (Call) کو ریسیو (Receive) کر لیا تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔^۱

شوہر کا طلاق کو اپنے نمبر (Number) سے کی گئی
کال (Call) بیوی کے ریسیو (Receive) کرنے پر معلق کرنا
اور پھر اسے وِد ہیسلڈ نمبر (Withheld Number)

کے ساتھ رنگ (Ring) کرنا

کسی نے طلاق کو اپنے نمبر (Number) سے کی گئی کال (Call) بیوی کے ریسیو (Receive) کرنے پر معلق کیا اور پھر بیوی کو وِد ہیسلڈ نمبر (Withheld Number) کر کے رنگ (Ring) کیا اور اس نے کال (Call) کو ریسیو (Receive) کر لیا تو اس صورت میں اس پر طلاق واقع ہو جائے گی خواہ وہ نمبر (Number) اسکرین (Screen) پر ظاہر ہو یا نہ ہو۔^۲

u

۱۔ ”قولہ: (وان كان لشيء مضى طلقت) يعني لو قالت المرأة شئت ان كان فلان قد جاء وقد جاء طلقت لأن التعليق بالكائن تنجيز“ (البحر الرائق: ج، ۳، ص، ۵۸۷، كتاب الطلاق/فصل في المشيئة، بيروت)

۲۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

خلع

خلع کی تعریف

خلع کے معنی نکال دینے کے ہیں۔ عربی کے اندر اس آدمی کے لئے (خلع ثوبہ عن بدنہ) بولا جاتا ہے جو اپنے بدن سے کپڑے اتارتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ d سے فرمایا:

فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طَوًى^۱

ترجمہ: اپنی جوتیاں اتار دو بے شک تم ایک پاک میدان یعنی طوی میں ہو۔ (ترجمہ ختم)

خلع کا شرعی معنی

رشتہ از دواج کو کسی مال کے عوض زوجین کا باہمی رضامندی سے ختم کرنا خلع ہے۔^۲

ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ خلع

اگر کسی نے بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا کہ اگر تم مہر معاف کرو تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور بیوی نے جواباً ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا کہ میں معاف کرتی ہوں اور شوہر نے لکھا کہ میں خلع کرتا ہوں تو خلع صحیح ہو

۱۔ (آیت نمبر ۱۲، سورۃ طہ، پارہ ۱۶)

۲۔ (الدر المختار مع رد المحتار: کتاب الطلاق / باب الخلع، ج، ۵، ص، ۸۳ تا

جائے گا۔^۱

شوہر کا بیوی کے وائس میل (Voice Mail) پر

خلع کا پیغام چھوڑنا

اگر کسی نے بیوی کے وائس میل (Voice Mail) پر خلع کا پیغام چھوڑا اور بیوی نے اس کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ قبول کیا تو خلع ہو جائے گا۔^۲

موبائل فون (Mobile Phone) یا ویڈیو کانفرنسنگ

(Video Conferencing) کے ذریعہ خلع

زوجین میں سے کسی ایک نے موبائل فون (Mobile Phone) پر یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ خلع کی پیشکش کی اور

۱۔ ”وان كانت مرسومة يقع الطلاق نوى أو لم ينو“۔ (رد المحتار: ج، ۴، ص،

۴۵۶، کتاب الطلاق، مطلب: فی الطلاق بالكتابة، بیروت)

۲۔ ”وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ آیت نمبر: ۲۲۹،

سورة البقرة ۲، پارہ ۲)

”عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ أَمْرَأَةٌ ثَابِتَ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَغْضَبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ، وَلَا خُلِقِي، وَلَكِنِّي لَا أَطِيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ﷺ: فَتَزِدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ“۔ (صحيح البخاري: ج، ۳، ص، ۴۱۸،

باب الخلع وكيف الطلاق فيه، رقم الحديث، ۵۲۷۵، بیروت)

”(و) شرطه كالطلاق..... فائدة يشترط في قبولها علمها بمعناه

لأنه معاوضة، بخلاف طلاق وعتاق وتدابير، لأنه اسقاط بقية حاشية لکے صفحہ پر

دوسرے نے قبول کی تو خلع صحیح ہو جائے گا۔^۱

شوہر کا خلع کر کے ایس ایم ایس (S.M.S) ڈیلیٹ

(Delete) کرنا

کسی نے بیوی سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ خلع کیا اور اس نے ٹیکسٹ میسج (Text Message) کے ذریعہ قبول کیا اور بعد میں شوہر نے ایس ایم ایس (S.M.S) کو موبائل فون (Mobile Phone) سے ڈیلیٹ (Delete) کر دیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا خلع کی وجہ سے اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو چکی ہے۔^۲

مذاق میں خلع

عورت نے بلا ارادہ مذاق میں شوہر سے کہا کہ میں مہر معاف کرتی ہوں تو

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ والاسقاط یصح مع الجهل (الدر المختار) قولہ (وشرطہ كالطلاق) وهو اهلية الزوج وكون المرأة محلاً للطلاق منجزاً أو معلقاً علی الملك. وأما ركنه فهو كما في البدائع: إذا كان بعوض الإيجاب والقبول لأنه عقد علی الطلاق بعوض، فلا تقع الفرقة، ولا يستحق العوض بدون القبول، بخلاف ما إذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوى الطلاق فانه يقع وإن لم تقبل، لأنه طلاق بلا عوض فلا يفتقر إلى القبول ۱۵ (ردالمحتار: ج، ۵، ص، ۸۸، کتاب الطلاق / باب الخلع، بیروت)

۱۔ (المرجع السابق)

۲۔ ”الخلع (هو)..... (ازالة ملك النكاح)..... المتوقفة علی

قبولها..... بلفظ الخلع..... أو في معناه“ (الدر المختار مع ردالمحتار، ج، ۵، ص، ۸۳ تا ۸۷، باب الخلع، بیروت)

مجھے خلع دے دے تو شوہر نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو خلع صحیح ہو جائے گا۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone) کے عوض میں خلع

اگر کسی نے موبائل فون (Mobile Phone) کے عوض میں خلع کیا تو خلع صحیح ہو جائے گا۔^۲

عورت کا شوہر کو خلع کا ٹیکسٹ میسج (Text Message)

پہنچنے سے پہلے رجوع کرنا

کسی عورت نے اپنے شوہر سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ خلع کیا اور بیوی نے ٹیکسٹ میسج (Text Message) پہنچنے سے پہلے رجوع کر لیا تو اس صورت میں اس کا رجوع صحیح ہو جائے گا۔^۳

موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ جبراً خلع

اگر مرد خلع پر راضی نہیں اور اس کے رشتہ داروں نے یا بیوی نے دباؤ ڈال

۱۔ ”عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ثلاث جدهنَّ جَدٌّ وهزلهنَّ جَدٌّ: النكاح والطلاق والزَّجعة“ (سنن أبي داود: ص، ۳۱۷، باب في الطلاق على الهزل، رقم الحديث، ۲۱۹۴، دار الفیحاء)

۲۔ ”ما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع كذا في الهداية“۔ (الفتاوى الهندية: كتاب الطلاق / باب في الخلع وما في حكمه، الفصل الثاني فيما جاز أن يكون بدلًا عن الخلع وما لا يجوز، ج، ۱، ص، ۵۲۴، بیروت)

۳۔ ”وان أرسلت بالخلع رسولاً الى زوجها ثم رجعت قبل تبليغ الرسالة صح رجوعها“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۳۰، كتاب الطلاق / باب في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث في الطلاق على المال، بیروت)

کر اس کو موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ خلع کرنے پر مجبور کیا اور اس نے خلع کر لیا تو اس صورت میں طلاق کی طرح جبراً خلع بھی صحیح ہو جائے گا اور بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔^۱

ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ جبراً خلع

اگر مرد کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ خلع کرے اور اس نے اپنی زوجہ سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ خلع کر لیا تو اس صورت میں خلع صحیح نہیں ہوگا۔^۲

وکیل بخلع بچے کا موبائل فون (Mobile Phone)

یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ طلاق دینا

اگر بیوی یا شوہر میں سے کسی نے بچے کو موبائل فون (Mobile Phone)

۱۔ ”(اكرهها) الزوج (عليه تطلق بلا مال) لأن الرضا شرط للزوم المال وسقوطه“۔ (الدر المختار: ص، ۲۳۵، کتاب الطلاق/باب الخلع، بیروت)
 ”ولو أن رجلاً أكره بوعيد تلف حتى خلع امرأته على ألف درهم ومهرها الذي تزوجها عليه أربعة آلاف، وقد دخل بها، والمرأة غير مكرهة، فالخلع واقع“۔ (کتاب المبسوط: ج، ۲۴، ص، ۹۹، باب من الاكراه على النكاح والخلع والعق والصلح عن دم العمد، بیروت)

۲۔ ”أن المراد الاكراه على التلفظ بالطلاق، فلو أكره أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا“۔ (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۴۴۰، کتاب الطلاق /مَطْلَب: فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى التَّوَكُّلِ بِالطَّلَاقِ وَالنِّكَاحِ وَالْعَتَاقِ، بیروت)

یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعے خلع دینے یا لینے میں اپنے قائم مقام وکیل کیا تو جائز ہے۔^۱

شوہر کا بیوی کو مہر میں موبائل فون (Mobile Phone) دینا پھر اس کے عوض میں خلع کرنا

کسی نے اپنی بیوی کو مہر میں موبائل فون (Mobile Phone) دیا (جس کی قیمت مہر کی اقل مقدار سے زیادہ تھی) پھر اس کے عوض میں خلع کرنا چاہا تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر قصور شوہر کا ہو تو بیوی سے طلاق کے عوض کچھ لینا حرام ہے اگر زوجہ کا قصور ہو یا زوجین دونوں قصور وار ہوں تو لینا جائز ہے مگر شوہر نے اپنی بیوی کو جو کچھ دیا ہے اس سے زیادہ لینا خلاف اولیٰ ہے۔ مثلاً بیوی کو مہر میں میموری کارڈ (Memory Card) کے بغیر نوکیا موبائل فون (Nokia Mobile Phone) دیا بیوی نے اس کے اندر میموری کارڈ (Memory Card) ڈلوایا تو اب نوکیا (Nokia) موبائل فون کو میموری کارڈ (Memory Card) کے ساتھ بیوی سے واپس لینا خلاف اولیٰ ہے۔^۲

۱۔ ”اذا وكل أحد الزوجين صبيّاً أو معتوهاً أو مملوكاً بالقيام مقامه بالخلع والاختلاع جاز ذلك كذا في المبسوط“۔ (الفتاویٰ الہندیہ: ج، ۱، ص، ۵۳۱، کتاب الطلاق/باب فی الخلع وما فی حکمہ، بیروت)

۲۔ ”قال فی شرح التنویر (وکرہ) تحریماً (أخذ شيء) ويلحق به الإبراء عما لها عليه (ان نشز وان نشزت لا) ولو منه نشوز أيضاً ولو بأكثر مما أعطها على الوجه. ففتح. وصحح الشمني كراهة الزيادة، وتعبير الملتقى لا بأس به يفيد أنها تنزيهية، وبه يحصل التوفيق، وفي الشامية أي بين مارجحه في الفتح من بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

عورت کا کسی کو وکیل بخلع کر کے رجوع کی غرض سے رنگ (Ring)

کرنا اور وکیل کا کال (Call) ریسیو (Receive) نہ کرنا

ایک عورت نے کسی کو خلع کے لئے وکیل بنایا پھر شوہر سے رجوع کرنے کی غرض سے وکیل کے موبائل فون (Mobile Phone) پر رنگ (Ring) کیا لیکن وکیل نے اس کی کال (Call) کو ریسیو (Receive) نہ کیا تو اس صورت میں عورت کا رجوع کرنا صحیح نہ ہوگا جب تک کہ وکیل کو علم نہ ہو۔ ہاں اگر عورت نے وکیل کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ اپنے رجوع کرنے کی خبر دے دی اور اس نے ایس ایم ایس (S.M.S) پڑھ لیا یا اس نے اس کے موبائل فون (Mobile Phone) پر وائس میل (Voice Mail) چھوڑا یا وائس میسج (Voice Message) بھیجا جسے اس نے سن لیا تو اس صورت میں عورت کا رجوع کرنا صحیح ہو جائے گا۔^۱

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ نفی کر اہۃ أخذ الاكثر وهو رواية الجامع الصغير وبين رجحه الشمني من اثباتها وهو رواية الأصل، فيحمل الأول على نفی التحريمية والثاني على اثبات التنزيهية، وهذا التوفيق مصرح به في الفتح، فانه ذكر أن المسألة مختلفة بين الصحابة وذكر النصوص من الجانبين، ثم حقق ثم قال: وعلى هذا يظهر كون رواية الجامع أوجه، نعم يكون أخذ الزيادة خلاف الأولى، والمنع محمول على الأولى ۵. ومشى عليه في البحر أيضاً. (ردالمحتار: ج، ۵، ص، ۹۳ تا ۹۵، كتاب الطلاق /باب الخلع، مَطْلَب: مَعْنَى الْمُجْتَهِدِ فِيهِ، بيروت)

۱۔ ”وكلت رجلاً بالخلع ثم رجعت لا يعمل رجوعها اذا لم يعلم الوكيل ذلك.“ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۳۰، كتاب الطلاق /باب في الخلع وما في حكمه، الفصل الثالث في الطلاق على المال، بيروت)

عورت کا تین ہزار روپے کے موبائل کا لنگ کارڈ

(Mobile Calling Card) کے عوض میں طلاق مانگنا

عورت نے اپنی شوہر سے کہا کہ تو مجھے تین ہزار روپے کے موبائل کا لنگ کارڈ (Mobile Calling Card) کے عوض میں طلاق دے دے۔ اس پر مرد نے ایک ہی طلاق دی تو اس صورت میں اس کو فقط ایک ہزار روپے کا موبائل کا لنگ کارڈ (Mobile Calling Card) ملے گا اور اگر دودی ہوں تو دو ہزار کا اور اگر تینوں طلاقیں دیں تو اس کو تین ہزار روپے کا موبائل کا لنگ کارڈ (Mobile Calling Card) ملے گا۔ نیز ان سب صورتوں میں زوجہ پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی اس لئے کہ مال کا بدلہ ہے۔^۱

۱۔ ”(قالت طلقني ثلاثا بالف أو على ألف فطلقها واحدة وقع في الأول بائنة بثلاثة أي بثلث الألف ان طلقها في مجلسه“ (الدر المختار: ص ۲۳۵، کتاب الطلاق/باب الخلع، بیروت)

”وإذا قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف لأنها لما طلبت الثلث بالف فقد طلبت كل واحدة بثلث الألف وهذا لان حرف الباء تصحب الاعواض والعوض ينقسم على المعوض والطلاق بائن لوجوب المال“ (الهداية: ج ۲، ص ۴۱۵، کتاب الطلاق/باب الخلع، رحمانیہ)

عن الثوری فی رجل قالت له امرأته: یعنی ثلاث تطلیقات بألف درهم، فطلّقها واحدة ثم أبى. قال: له ثلاثة آلاف، وهى واحدة بائنة، وان قالت له: أعطيك ألف درهم على أن تطلقني ثلاثاً، فان طلق ثلاثاً كان له الألف درهم، وان طلق واحدة، أو اثنتين لم يكن له شيء، وهو أحق بها“ (مصنف عبد الرزاق: ج ۶، ص ۳۷۷، ۳۷۸، باب الفداء بالشرط، رقم الحديث ۱۱۸۵۰، بیروت)

ظہار

ظہار کے ارکان

ظہار کے چار ارکان ہیں جو درج ذیل ہیں۔

- (۱) مرد کا عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا۔
- (۲) عورت کی مکمل ذات یا ایسے عضو (جس کا دیکھنا حرام ہے) کے ساتھ تشبیہ دینا جس سے پوری ذات مراد لی جاسکتی ہو۔ مثلاً پیٹ، پیٹھ اور سر۔
- (۳) حرف تشبیہ کا ہونا جیسے حرف کاف یا اردو میں لفظ مانند وغیرہ۔
- (۴) زوج نے محرمات ابدیہ کے ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دی ہو جس کو دیکھنا حرام ہے۔^۱

موبائل فون (Mobile Phone)، ایس ایم ایس (S.M.S)

یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ ظہار

اگر کسی نے اپنی زوجہ سے موبائل فون (Mobile Phone)، ایس ایم

۱۔ ”والحاصل أن هنا أربعة أركان: المشبه والمشبّه والمشبّه به وأداة التشبيه. أما الأول وهو المشبّه وهو بكسر الباء فهو الزوج البالغ العاقل المسلم. وزاد في التارخانية- العالم ولا يخفى ما فيه. وأما الثاني وهو المشبّه بفتح الباء المنكوحه أو عضو منها يعبر به عن كلها أو جزء شاسع. وأما الثالث وهو المشبه به عضو لا يحل النظر اليه من محرمة عليه تأبيداً. وأما الرابع وهو الدال عليه وهو ركنه وهو صريح وكناية“. (البحر الرائق: ج، ۴، ص، ۱۶۰، ۱۶۱، كتاب الطلاق/باب الظهار، بيروت)

ایس (S.M.S) یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ ظہار کیا تو صحیح ہو جائے گا۔^۱

وائس میل (Voice Mail) پر ظہار

اگر کسی نے بیوی کے ساتھ وائس میل (Voice Mail) پر ظہار کیا تو صحیح ہو جائے گا۔^۲

مظاہر کا موبائل ویڈیو کال (Mobile Video Call)

کے ذریعہ اپنی بیوی کی شرم گاہ کو دیکھنا

مظاہر کے لئے جس طرح ادائیگی کفارہ سے پہلے وطی حرام ہے اسی طرح دعائی جماع بھی حرام ہیں۔ چنانچہ اگر مظاہر نے ویڈیو کال (Video Call) کے ذریعہ اپنی بیوی کی شرم گاہ کو دیکھا تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ ایسے شخص پر ایک ہی کفارہ ہوگا اور معاودت نہ کرے یہاں تک کہ کفارہ ادا

۱۔ اَلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاءِهِمْ مِمَّا هُنَّ اُمَّهَاتُهُمْ ۖ اِنَّ اُمَّهَاتِهِمْ اِلَّا اِلٰى وَلَدَتْنَهُمْ ۚ وَاِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَاِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

”و کذا التکلم بالظہار لیس بشرط حتی یصیر مظاہراً بالکتابۃ المستبینه والاشارة المعلومۃ من الآخرس“۔ (بدائع الصنائع: ج، ۵، ص، ۷، کتاب الظہار، بیروت)

۲۔ ”لو قال أنت علی کظہر أمک کان مظاہراً سواء کانت مدخولاً بها أو لا“۔ (الفتاویٰ الہندیۃ: ج، ۱، ص، ۵۳۵، کتاب الطلاق / الباب التاسع فی الظہار، بیروت)

کر دے۔

ایس ایم ایس (S.M.S)، موبائل فون (Mobile Phone)
یا وائس میل (Voice Mail) کے ذریعہ مذاق

میں بیوی سے ظہار کرنا

اپنی بیوی سے ہزل (مذاق میں) کے ساتھ ظہار کرنے والا مظاہر ہوگا

۱۔ ”عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبِضَاطِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَظَاهِرِ يُؤَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ
قَالَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ“۔ (سنن الترمذی: ج، ۲، ص، ۲۳۹، کتاب الطلاق
واللعان/باب: مَا جَاءَ فِي الْمَظَاهِرِ يُؤَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ، رقم الحديث، ۱۱۹۸،
بیروت)

”عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ قَدْ ظَاهَرَ مِنْ أَمْرِ أَثَرِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، إِنِّي قَدْ ظَاهَرْتُ مِنْ زَوْجَتِي فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفَرَ، فَقَالَ: وَمَا
حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ يَزُحِمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: رَأَيْتُ خُلْعَالَهَا فِي ضَوْءِ الْقَمَرِ قَالَ: فَلَا تُفْرِئْهَا
حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ. (سنن الترمذی: ج، ۲، ص، ۲۳۹، کتاب الطلاق واللعان/
باب: مَا جَاءَ فِي الْمَظَاهِرِ يُؤَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكْفَرَ، رقم الحديث، ۱۱۹۹، بیروت)

”وحکم الظہار حرمة الوطء والدواعی الى غاية الكفارة کذا في فتاوی قاضی خان،
ان وطنها قبل أن یکفر استغفر الله تعالى ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى ولا يعاود
حتى یکفر کذا في السراج الوهاج“۔ (الفتاوی الهندیة: ج، ۱، ص، ۵۳۵، کتاب
الطلاق/باب الظہار، بیروت)

”إذا حرم الوطء حرمت دواعیه؛ الا في: الحيض والنفاس والصوم لمن أمن. فتحرم
في الاعتكاف والاحرام مطلقاً والظہار والاستبراء“۔ (الأشباه والنظائر: ص، ۳۷۱،
الفن الثالث: الجمع والفرق/أحكام غيبوبة الحشفة، بیروت)

”ومنها: حرمة الاستمتاع بهما من: المباشرة والتقبيل واللمس عن شهوة والنظر الى
فرجها عن شهوة قبل أن یکفر“۔ (بدائع الصنائع: ج، ۵، ص، ۱۶، کتاب الظہار،
بیروت)

چنانچہ اگر کسی نے مذاق میں اپنی بیوی سے ایس ایم ایس (S.M.S)، موبائل فون (Mobile Phone) یا وائس میل (Voice Mail) کے ذریعہ ظہار کیا تو وہ مظاہر ہوگا۔^۱

شوہر کو موبائل فون (Mobile Phone) پر زبردستی ظہار کروانا یا اس کا غلطی سے ظہار کرنا

اگر کسی کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ اپنی بیوی سے موبائل فون (Mobile Phone) پر ظہار کرے اور اس نے باکراہ اظہار کر لیا تو ظہار صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے غلطی سے اپنی بیوی سے موبائل فون (Mobile Phone) یا ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ظہار کیا تو وہ مظاہر ہوگا جیسے کہ اس کی طلاق صحیح ہوتی ہے۔^۲

شوہر کا کسی اجنبیہ عورت کے فرج کو ویڈیو کال (Video Call) کے ذریعہ دیکھنا اور اپنی بیوی کو اس کی بیٹی سے تشبیہ دینا اگر کسی شخص نے اجنبیہ عورت کی شرم گاہ کو ویڈیو کال (Video Call) کے

- ۱۔ ”وكونه جاذاً ليس بشرط لصحة الظهار حتى يصح ظهار الهازل“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۳۶، كتاب الطلاق / الباب التاسع في الظهار، بيروت)
- ”وكذا كونه جاذاً، فليس بشرط لصحة الظهار حتى يصح ظهار الهازل، كما يصح طلاقه“۔ (بدائع الصنائع: ج، ۵، ص، ۷، كتاب الظهار، بيروت)
- ۲۔ ”وكذا كونه طائعاً أو عامداً ليس بشرط عندنا فيصح ظهار المكروه والخاطيء كما يصح طلاقه“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۳۶، كتاب الطلاق / باب في الظهار، بيروت)

ذریعہ دیکھا اور پھر اپنی زوجہ کو اس اجنبیہ عورت کی بیٹی سے تشبیہ دی تو امام اعظم ابو حنیفہ m کے نزدیک یہ شخص مظاہر نہیں ہوگا کیونکہ افعال مذکورہ وطی کے مشابہ نہیں ہیں۔^۱
 شوہر کا موبائل فون (Mobile Phone) پر نشہ میں ظہار کرنا
 اور گونگے کا ایس ایم ایس (S.M.S) یا ویڈیو کال
 (Video Call) کے ذریعہ اشارے سے ظہار کرنا

اگر شوہر نے بیوی سے موبائل فون (Mobile Phone) پر نشہ کی حالت میں ظہار کیا تو وہ ظہار صحیح ہو جائے گا۔ اس طرح اگر گونگے نے اپنی بیوی سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ظہار کیا یا ویڈیو کال (Video Call) کے دوران اشارے سے ظہار کیا ہو اور اس کا اشارہ سمجھا جاتا ہو اور اس نے ظہار کی نیت کی ہو تو اس صورت میں ظہار صحیح ہو جائے گا۔^۲

ظہار کو بیوی کی مس کال (Miss Call) پر معلق کرنا

اپنی بیوی کے ساتھ ظہار کی تعلیق صحیح ہے چنانچہ اگر کسی نے ظہار کو بیوی کی مس کال (Miss Call) پر معلق کیا اور بیوی نے اس کے موبائل فون

۱۔ ”لو قبل أجنبية بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم شبه زوجته بابتها لم يكن مظاهراً في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا يشبه هذا الوطء كذا في المحيط“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۳۵، كتاب الطلاق/ الباب التاسع في الظهار، بيروت)

۲۔ ”وظهار السكران لازم وظهار الأخرس بكتابة أو إشارة تعرف وهو ينوي لازم كالطلاق كذا في التتارخانية“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۳۶، كتاب الطلاق/ الباب التاسع في الظهار، بيروت)

(Mobile Phone) پر مس کال (Miss Call) کی تو اس صورت میں ظہار صحیح ہو جائے گا۔^۱

شوہر کا ظہار کے ایس ایم ایس (S.M.S) میں استثناء اگر کسی نے اپنی بیوی کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ظہار کرتے لکھا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ سے متصل استثناء کیا تو ظہار نہیں ہوگا۔^۲

شوہر کا اپنی بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر ظہار کا ایس ایم ایس (S.M.S) تاکید کے لئے

بار بار ارسال کرنا

اگر کسی نے اپنی بیوی سے ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ ظہار کیا اور تاکید کی غرض سے اسے بیوی کے موبائل فون (Mobile Phone) پر بار بار ارسال کیا تو اس صورت میں وہ ایک ہی کفارہ دے۔^۳

۱۔ ”یصح ظہار زوجته تعليقاً بأن قال ان دخلت الدار أو ان كلمت فلاناً فأنت علي كظهر أمي كذا في البدائع“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۳۷، کتاب الطلاق / الباب التاسع في الظهار، بیروت)

۲۔ ”لو قال أنت علي كظهر أمي ان شاء الله تعالى لا يكون ظهاراً“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۳۷، کتاب الطلاق / الباب التاسع في الظهار، بیروت)

۳۔ ”عن قتادة وعمر بن دينار يقولان: اذا ظاهر في مجلس واحد مرآة، فعليه كفارة واحدة، وان ظاهر في مجالس شتى، فكفارات شتى، بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

مظاہر کا اپنی بیوی سے ٹیکسٹ میسج (Text Message) یا

موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ بات چیت کرنا

مظاہر کے لئے کفارہ دینے سے پہلے اپنی بیوی سے بات کرنا یا دیکھنا حرام

نہیں۔ چنانچہ مظاہر کے لئے اپنی بیوی کو ٹیکسٹ میسج (Text Message) کرنا یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔^۱

منگیتر سے ٹیکسٹ میسج (Text Message) یا موبائل

فون (Mobile Phone) کے ذریعہ ظہار

نکاح سے پہلے کسی عورت کے ساتھ ظہار کرنے سے ظہار نہیں ہوتا اور ایسی

عورت سے نکاح کرنا بھی درست ہے۔ چنانچہ اگر کسی اپنی منگیتر سے ٹیکسٹ میسج

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ والایمان كذلك“۔ (مصنف عبدالرزاق: ج، ۶، ص، ۳۳۶، باب المظاہر مرآۃ، رقم الحدیث، ۱۱۵۹۹، بیروت) ”ان کرر الظہار فی مجلس واحد، فکفارتہ واحدة“۔ (الفقه الاسلامی وأدلته: ج، ۷، ص، ۵۷۵، المطلب الرابع۔ کفارة الظہار / ثالثاً۔ تعدد الکفارة بتعدد المظاہر منهن أو بتعدد الظہار، دار الفکر، بیروت)

”فان عني التکرار) والتاکید (فان بمجلس صدق) قضاء“ (الدر المختار مع ردالمحتار: ج، ۵، ص، ۱۳۲، ۱۳۳، کتاب الطلاق/باب الظہار، بیروت)

۱۔ ”(ولا یحرم النظر) أي الی ظہرها و بطنها ولا الی الشعر والصدر. بحر: أي ولو بشهوة“۔ (ردالمحتار: ج، ۵، ص، ۱۲۹، کتاب الطلاق/باب الظہار، مَطْلَب: مَا یَسُوغُ فِيهِ الْاجْتِهَادُ، بیروت)

(Text Message) کے ذریعہ ظہار کیا تو وہ منظر نہیں ہوگا۔^۱

u

۱۔ ”قولہ زوجته).....وخرجت مملوكتہ والأجنبية“.(ردالمحتار: ج، ۵، ص، ۱۲۵، کتاب الطلاق/باب الظہار، بیروت)
 ”فلا يصحُ الظهارُ من الأجنبية لعدم الملك“.(بدائع الصنائع: ج، ۵، ص، ۱۰، کتاب الظہار، فصل فيما يرجع الى المظاهر منه، بیروت)

فسخ نکاح

قاضی کا ویڈیو کا نفر ننگ

(Video Conferencing) کے ذریعہ تفریق کرنا

اگر مرد عورت پر ظلم کرتا ہے یا اسکا نان و نفقہ ادا نہیں کرتا تو بیوی قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کرے اگر قاضی نہیں ہیں تو آج کل شرعی پنچائیت بنی ہوئی ہیں وہاں مقدمہ دائر کرے۔ اگر عورت قاضی سے دور ہے اس کے پاس آنے جانے میں دشواری ہے یا اس کا شوہر قاضی کے بلانے پر مجلس حکم میں حاضر نہیں ہوتا یا اپنا نائب بھی نہیں بھیجتا تو اس صورت میں اگر قاضی شوہر یا عورت کی شکایات کو ویڈیو کا نفر ننگ (Video Conferencing) کے ذریعہ سن کر حل کر دیتا ہے یا اگر شوہر کی اصلاح کی امید نہیں ہے تو بیوی کے مطالبہ پر تفریق کر دیتا ہے تو جائز ہے۔

اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ فریقین کا قاضی کی مجلس میں حاضر ہونا ضروری ہے تاکہ وہ فریقین کی بات کو سن سکے اور ان کے احوال، چہروں کے بدلتے ہوئے آثار و نقوش، طریقہ گفتگو اور طریق ادا پر گہری نگاہ رکھ سکے۔ اسی لئے احناف کے نزدیک قضاء علی الغائب جائز نہیں ہے ہاں اگر وہ اپنی طرف سے کسی کو نائب مقرر کر کے قاضی کی مجلس میں بھیج دے تو قاضی وکیل کی موجودگی کے اندر فیصلہ سناسکتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں فریقین میں سے کوئی قاضی کی مجلس میں حاضر نہیں ہو سکتا یا مدعی علیہ کہیں غائب ہو گیا ہے نہ تو اس کے مکان کا پتہ ہے یا معلوم ہے لیکن اس کو حاضر نہیں کیا جاسکتا تو ایسی صورت میں کیا قاضی مختفی یا غائب شخص کی غیر موجودگی کے

اندر مدعی کے پیش کردہ گواہوں کی سماعت کے بعد فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں یا اگر وہ فیصلہ کرتا ہے تو کیا وہ نافذ ہو جائے گا یا نہیں؟

علامہ شامی m قضاء علی الغائب پر بحث کرنے کے بعد جامع الفصولین کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فریقین (جو قضاء علی الغائب کے جواز کے قائل ہیں یا جو قائل نہیں ہیں) کی آراء قضاء علی الغائب کے حوالے سے اضطراب و اشکال سے خالی نہیں ہیں۔ نیز فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ظاہر یہی ہے کہ واقعات اور حرج کو ملحوظ رکھتے ہوئے مفتی غور کر کے اس کے جواز یا فساد کا فتویٰ دے۔ مثلاً اگر کسی نے اپنی بیوی کو کسی منصف یا عادل کے سامنے طلاق دی ہے پس شہر سے غائب ہو گیا اور نہ تو اس کی جگہ کا علم ہے یا جگہ معلوم ہے لیکن اسے حاضر نہیں کیا جاسکتا یا عورت اور اس کا وکیل اس مقام کی دوری یا کسی اور مانع کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے یا اسی طرح مقرض اگر غائب ہو گیا اور شہر میں اس کی رقم موجود ہے تو ان صورتوں میں مدعی مدعا علیہ پر بینہ پیش کر دے اور قاضی کو ظن غالب ہو جائے کہ اس میں نہ تو کوئی دھوکہ ہے اور نہ بہانہ تو قاضی کے لئے مناسب یہی ہے کہ وہ فیصلہ کر دے اور اسی طرح مفتی کو بھی چاہیے کہ حرج کو دفع کرنے کی غرض سے اور حقوق کی حفاظت کے پیش نظر اس کے جواز کا فتویٰ دے اگرچہ مناسب یہی ہے کہ غائب کی طرف سے کوئی وکیل مقرر کیا جائے۔ قضاء علی الغائب جائز تو نہیں البتہ اگر قاضی اس کے فیصلے کے اندر کوئی مصلحت دیکھتا ہے تو وہ نافذ ہو جائے گا اس لئے کہ وہ مجتہد فیہ ہے۔

اس مذکورہ بحث کے بعد یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ضرورتاً قاضی غائب شخص کی غیر موجودگی کے اندر اگر فیصلہ کر سکتا ہے تو ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعہ تو بدرجہ اولیٰ کر سکتا ہے اس لئے ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing)

کی صورت میں قاضی فریقین کی بات کو نہ صرف سن سکتا ہے بلکہ ان کو دیکھ بھی سکتا ہے اور ان کے چہرے پر بدلنے والے آثار و نقوش اور طریقہ گفتگو پر گہری نگاہ رکھ سکتا ہے۔

نیز یہ کہنا کہ ویڈیو کانفرنسنگ میں مکسنگ (Mixing) کا خطرہ ہے لہذا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے ذریعے کیا گیا فیصلہ معتبر نہیں بندہ کی نظر میں محل نظر ہے اس لئے کہ براہ راست ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کے اندر مکسنگ (Mixing) کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی موقع پر قاضی کو اس بات کا شبہ ہو جاتا ہے کہ مکسنگ (Mixing) ہوئی ہے تو وہ فریقین کی حاضری کے بغیر فیصلہ نہ کرے۔ ہاں البتہ ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) میں یہ ممکن ہے کہ مکسنگ (Mixing) ہو تو اس صورت میں قاضی صرف ریکارڈڈ ویڈیو (Recorded Video) دیکھ کر یا گواہوں کی گواہی سن کر فیصلہ نہیں کر سکتا۔^۱ واللہ اعلم بالصواب

۱۔ ”ومذهب المالکیۃ ان الزوج اذا كان يضار زوجته بالضرب ونحوه کالا کراه علی فعل امر حرام کان لها ان ترفع امرها الی القاضی وکان لها ان تطلب من القاضی تادیبه ووجره لیکف اذا ه عنها کما ان لها ان تطلب التطليق منه“۔ (الاحوال الشخصية ص، ۴۰۷، بحوالہ کتاب الفسخ والتفريق للعلامة عبد الصمد الرحمانی، ص، ۱۰۵، ماخوذ از خزینة الفقه، ج، ۲، ص، ۲۸۸)

”القضاء بالبينة علی الغائب وللغائب لا يجوز الا اذا كان عنه خصم حاضر اما قصدي وذلك بتوكيل الغائب اياه، واما حکمي وذلك بأن يكون المدعي علی الغائب سبباً لثبوت المدعي علی الحاضر لا محالة أو شرطاً له علی ما ذكره الشيخ الامام فخر الاسلام علی البزدوي رحمه الله تعالى“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۳، ص، ۴۰۴، کتاب أدب القاضي / باب في القضاء علی الغائب، بيروت) بقية حاشية اگلے صفحہ پر

اہلیت قضاء کے لئے ضروری شرائط

کسی بھی شخص کی منصب قضاء پر تقرری درج ذیل شرائط کے ساتھ درست ہوگی۔

قاضی کا عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد اور پینا ہونا شرط ہے نیز بولنے والا ہو گونگانہ ہو، سننے والا ہو بالکل بہرانہ ہو، حد قذف میں سزا یافتہ نہ ہو، صاحب علم و فضل ہو، حلال و حرام اور دیگر ضروری احکام پر اس کی نگاہ ہو، کتاب و سنت اور طریقہ اجتہاد سے واقف ہو، جس ملک یا علاقہ کے لئے قاضی مقرر کیا گیا ہو وہاں کی زبان و محاورات

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ ”(ولو قضی علی غائب بلا نائب ینفذ.....) (الدر المختار) وقال فی جامع الفصولین: قد اضطربت آراؤہم و بیانہم فی مسائل الحکم للغائب، وعلیہ ولم یصف ولم ینقل عنہم أصل قوی ظاہر ینی علیہ الفروع بلا اضطراب ولا اشکال، فالظاہر عندی أن یتأمل فی الوقائع و یحتاط و یلاحظ الحرج والضرورات فیفتری بحسبہا جوازاً أو فساداً، مثلاً لو طلق امرأته عند العدل فغاب عن البلد ولا یعرف مکانہ أو یعرف ولكن یعجز عن احضارہ، أو عن أن تسافر الیہ ہی أو وکیلہا لبعده أو لمانع آخر. وكذا المديون لو غاب وله نقد فی البلد أو نحو ذلك، ففي مثل هذا لو برهن علی الغائب وغلب علی ظن القاضی أنه حق لا تزوير ولا حيلة فیہ، فینبغي أن یحکم علیہ وله، وكذا للمفتی أن یفتی بجوازه دفعاً للحرج والضرورات وصيانة للحقوق عن الضیاع، مع أنه مجتهد فیہ ذهب الیہ الأئمة الثلاثة، وفيہ روایتان عن أصحابنا، وینبغي أن ینصب عن الغائب وکیل یعرف أنه یراعی جانب الغائب ولا یفرط فی حقہ لا يجوز القضاء علی الغائب الا اذا رأى القاضی مصلحة فی الحکم له وعلیہ فحکم فانه ینفذ لأنه مجتهد فیہ“ ۵۱ . (ردالمحتار: ج، ۸، ص، ۱۰۶، ۱۰۷، کتاب القضاء/مطلب: المسائل التي یكون القضاء فیہا، بیروت)

سے آشنا ہو، علمائے دین سے مشورہ لینے میں عار محسوس نہ کرے، سچا، دیانت دار
 عفیف، گناہوں سے بچنے والا مقام تہمت اور شبہات سے دور رہنے والا، رضا و
 غضب ہر حال میں خدا کی نافرمانی سے بچنے اور صاحب مروت ہو، اسی طرح محل
 تہمت سے بچنے والا، لالچ سے پاک ذہین و فطین ہو، مزاج میں عجلت نہ ہو، اپنے دین
 کے معاملہ میں محتاط اور قابل اعتماد ہو، اہل معاملہ کی چالوں پر نظر رکھنے والا، جعل
 سازی سے دھوکا نہ کھانے والا اور صاحب ہیبت و وقار ہو، ایسا سنجیدہ ہو جس کی سنجیدگی
 میں غضب اور کبر کی ملاوٹ نہ ہو، ایسا متواضع اور منکسر المزاج جس کی تواضع میں
 کمزوری کا دخل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مقابلہ میں کسی کی رضا کی اور اس کی ناراضگی
 کے مقابلہ میں مخلوق کی ناراضی اور اس کی ملامت کی پرواہ نہ کرتا ہو، کردار کا مضبوط،
 دانش مند سمجھ دار اور صالح ہو۔^۱

u

۱۔ (ملخص و ماخوذ اسلامی عدالت: ص، ۱۸۴ تا ۱۹۸، مؤلفہ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی (m)

عدت

عدت کے معنی

عدت کے معنی شمار کرنے کے ہیں۔ معتدہ چونکہ دن گنتی ہے اس لئے اس کو عدت کہا جاتا ہے۔

بیوی کی عدت ایس ایم ایس (S.M.S) لکھنے کے وقت سے

اگر موبائل فون (Mobile Phone) کا نیٹ ورک (Network) مصروف ہو یا کوئی ٹیکنیکل (Technical) مسئلہ ہو تو بعض مرتبہ ٹیکسٹ میسجز (Text Messages) تاخیر کے ساتھ ریسیو (Receive) ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ تو دنوں بعد ریسیو (Receive) ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے بیوی کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) لکھ کر ارسال کیا اور زوجہ کو کسی وجہ سے تاخیر کے ساتھ ریسیو (Receive) ہوا تو بیوی کی عدت ایس ایم ایس (S.M.S) لکھنے کے وقت سے شروع ہوگی نہ کہ ریسیو (Receive) کرنے کے وقت سے۔^۱

شوہر کا طلاق کے ایس ایم ایس (S.M.S) میں

پہلے کی تاریخ لکھنا اور بیوی کی عدت

کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا اور دو

۱۔ ”ثم المرسومة لا تخلو أمان أن أرسل الطلاق بأن كتب: أما بعد فأننت طالق، فكما كتب هذا يقع الطلاق وتلزمها العدة من وقت الكتابة“۔ (رد المحتار: ج، ۴، ص، ۴۵۶، مَطْلَبٌ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ، بيروت)

مہینے پہلے کی تاریخ لکھ دی تو بیوی میسج (Message) لکھنے کے وقت سے مطلقہ سمجھی جائی گی نہ کہ دو مہینے پہلے کی تاریخ سے۔^۱

دوران عدت ایس ایم ایس (S.M.S) یا موبائل فون

(Mobile Phone) کے ذریعہ معتدہ کو پیغام نکاح

کسی بھی عدت کے زمانے میں معتدہ کو ایس ایم ایس (S.M.S) کے ذریعہ یا موبائل فون (Mobile Phone) کے ذریعہ نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں ہے۔ البتہ اشارۃ وکنایۃ نکاح کا پیغام دینا جائز ہے۔^۲

۱۔ (المرجع السابق)

۲۔ ”عن مجاہد ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الكتاب أجله قال : انقضاء العدة“۔ (مصنف لابن أبي شیبہ: ج، ۹، ص ۲۶۷، باب ما قالوا فی قوله: ولا تعزموا عقدۃ النکاح، رقم الحدیث، ۱۷۹۱۱، شركة دار القبله، المملكة العربية السعودية)

” (والمعتدة) أي معتدة كانت . عینی . فتعم معتدة عتق ونکاح فاسد . وأما الخالية فتخطب اذا لم یخطبها غیره وترضى به ، فلو سکتت فقولان (تحرم خطبتها) (وصح التعریض) كأرید التزوج (لو معتدة الوفاة) لا المطلقة اجماعاً لافضائه الى عداوة المطلق، ومفاده جوازه لمعتدة عتق و نکاح فاسد ووطء شبهة. نهر“۔ (الدر المختار: ص، ۲۵۰، باب العدة، بیروت)

”لا یجوز للأجنبي خطبة المعتدة صراحة، سواء أكانت مطلقة أم متوفی عنها زوجها، لأن المطلقة طلاقاً رجعیاً فی حکم الزوجة، فلا یجوز خطبتها، ولبقاء بعض آثار الزواج فی المطلقة ثلاثاً أو بانناً أو متوفی عنها زوجها“۔ (الفقه الاسلامی وأدلته، ج، ۷، ص، ۶۱۸، انحلال الزواج وآثاره / المبحث الخامس۔ أحكام العدة أو حقوق المعتدة وواجباتها، دار الفکر)

عدت کے دوران عورت کا گھر سے باہر موبائل فون کارڈ (Mobile Phone Card) لینے کے لئے جانا

متوفی عنہا زوجہا اور معتدہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ عدت گھر میں گزارے۔ لہذا وہ موبائل کارڈ (Mobile Phone) لینے کے لئے گھر سے باہر نہیں جاسکتی۔

نوٹ: آج کل انٹرنیٹ (Internet) کی وساطت سے موبائل فون کارڈ (Mobile Phone Card) با آسانی مل جاتا ہے نیز پاکستان میں ایزی لوڈ (Easy Load) کی سہولت بھی موجود ہے جس میں اگر دوکاندار کو نمبر (Number) دے دیا جائے تو وہ متعلقہ شخص کے موبائل فون (Mobile Phone) میں بیلنس (balance) ٹرانسفر (Transfer) کر دیتا ہے۔ لہذا معتدہ ان ذرائع سے موبائل فون کارڈ (Mobile Phone Card) حاصل کر سکتی ہے یا کسی اور سے بھی منگوا سکتی ہے۔^۱

۱۔ ”سَمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طَلَّقْتُ خَالَتِي. فَأَزَادَتْ أَنْ تَجِدَ نَحْلَهَا. فَرَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ. فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ بَلَى. فَجَدَى نَحْلُكَ. فَأَنَّكَ عَسَى أَنْ تَصْدُقِي أَوْ تَفْعَلِي مَغْزَوْفًا.“ (صحيح مسلم: ج، ۲، ص، ۱۱۲۱ باب جواز خروج المعتدة البائن، والتوفى عنها زوجها، في النهار لحاجتها، رقم الحديث، ۱۴۸۳، بيروت)

”عن ابن عمر قال: لا تبیت المبتوتة ولا المتوفى عنها زوجها الا في بيتها، حتى تنقضي عدتها.“ (مصنف لابن أبي شيبة: باب ما قالوا: أين تعتد؟ من قال: في بيتها، ج، ۱۰، ص، ۱۱۴، رقم الحديث، ۱۹۱۷۰، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

”لا يجوز للمعتدة الخروج من منزلها أصلاً لئلا ولا نهاراً.“ (الفقه الاسلامي وأدلته: ج، ۷، ص، ۶۱۸، انحلال الزواج وآثاره / المبحث الخامس - أحكام العدة أو حقوق المعتدة وواجباتها، دار الفكر،)

عورت کا عدت کے دوران موبائل فون بل

(Mobile Phone Bill) ادا کرنے کے لئے جانا

اگر کوئی عورت عدت گزار رہی ہے اور اس کو اپنے موبائل فون (Mobile Phone) کا بل (bill) ادا کرنا ہے تو وہ (bill) ادا کرنے کے لئے گھر سے باہر جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ اپنا بل وقت پہ ادا نہیں کرے گی تو اس کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا بعض صورتوں میں اس کا نمبر (Number) بھی بند ہو سکتا ہے یا اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کام کسی اور سے کروا سکتی ہو یا آن لائن (Online) موبائل فون (Mobile Phone) کا بل (bill) ادا کر سکتی ہو تو پھر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔^۱

مرد کا عورت کے ایسے نمبر (Number) پر طلاق کا ایس ایم

ایس (S.M.S) کرنا جو اس کے استعمال میں نہیں ہے اور

عورت کا عدت گزر جانے کے بعد سم (Sim) آن کرنا

اگر کسی نے اپنی بیوی کے ایسے نمبر (Number) پر طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) ارسال کیا جو اس وقت اس کے استعمال میں نہیں تھا۔ تین حیض کے بعد عورت نے سم (Sim) کو دوبارہ آن (On) کیا اور اس کو طلاق کا ایس ایم ایس (S.M.S) وصول ہوا تو اس کی عدت گزر چکی ہے۔ اب نئے سرے سے دوبارہ عدت

۱۔ (تقدم تخريجه تحت المسئلة السابقة)

گزارنا ضروری نہیں۔^۱

معتدہ کا موبائل فون (Mobile Phone)، ایس ایم

ایس (S.M.S) کے ذریعہ شوہر سے رابطہ اور ویڈیو کانفرنسنگ

(Video Conferencing) کے دوران اپنا جسم دکھانا

مطلقہ مغالطہ اگر شوہر سے موبائل فون (Mobile Phone)، ایس ایم ایس

(S.M.S) کے ذریعہ رابطہ رکھے یا ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing)

کے دوران اس کو اپنا جسم دکھائے تو اس صورت عدت جاری رہے گی اس سے عدت پر

کچھ فرق نہیں پڑتا اگرچہ معتدہ کا یہ فعل قبیح ہے۔^۲

۱۔ ”عن ابن عمر قال: عدتها من يوم طلقها، ومن يوم يموت عنها“۔ (مصنف لابن

أبي شيبة: باب ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد، ج،

۱۰، ص، ۱۳۱، رقم الحديث، ۱۹۲۴۹، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

”وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فان لم تعلم

بالطلاق أو الوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها لان سبب وجوب العدة

الطلاق أو الوفاة فيعتبر ابتدائها من وقت وجود السبب“۔ (الهداية: باب العدة، ج،

۲، ص، ۴۳۱، رحمانیہ)

(وكلذا في فتاوى العالمگیری: ج، ۱، ص، ۵۵۷، كتاب الطلاق/باب العدة،

الباب الثالث عشر في العدة، بیروت)

۲۔ ”وأما المطلقة ثلاثاً اذا جامعها زوجها في العدة مع علمه أنها حرام عليه ومع

اقراره بالحرمه لا تستأنف العدة“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۵۷، كتاب

الطلاق/باب العدة، بیروت)

”ولو طنتها بعد الثلاث في العدة بلانكاح عالما بحرمتها بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر

معتدہ کا طلاق رجعی میں خاوند کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ

(Video Conferencing) کرنا

اگر عورت طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہو تو اس کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا کرنے کی بجائے شوہر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لے تاکہ ان دونوں کے درمیان اختلافات ختم ہو جائیں اور شوہر کے سامنے زیب و زینت کر کے آئے اور اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے اس لئے کہ اس کا نکاح ابھی باقی ہے مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ چنانچہ اگر عورت طلاق رجعی کی عدت میں اپنے شوہر سے ویڈیو کانفرنسنگ (Video Conferencing) کرتی ہے اور بناءً سگڑا کرتی ہے تاکہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہو تو اس کا یہ عمل جائز ہی نہیں بلکہ مستحب ہے۔^۱

گذشتہ صفحے کا بقیہ حاشیہ لا تجب عدة أخرى لأنه زنا. وفي البزاية: طلقها ثلاثاً ووطنها في العدة مع العلم بالحرمة لا تستأنف العدة بثلاث حيض، ويرجمان اذا علما بالحرمة ووجد شرائط الاحصان، ولو كان منكر أطلاقها لا تقضي العدة، ولو ادعى الشبهة تستقبل“ (رد المحتار: ج، ۵، ص، ۲۰۰، کتاب الطلاق/باب العدة، مطلب: في وطء المعتدة بشبهة، بيروت)

۱۔ ”عن ابراهيم: في الرجل يطلق امرأته طلاقاً يملك الرجعة قال: تكتحل، وتلبس المصْبَغ، وتَشَوِّف له ولا تضع ثيابها“۔ (مصنف لابن أبي شيبة: باب ما قالوا فيه: اذا طلقها طلاقاً يملك الرجعة تَشَوِّف وتَزَيِّن له، ج، ۱۰، ص، ۱۳۸، رقم الحديث، ۱۹۲۹۰، شركة دار القبلة، المملكة العربية السعودية)

”والمطلقة الرجعية تشوف وتزين لانها حلال للزوج اذا النكاح قائم بينهما ثم الرجعة مستحبة والتزين حامل عليها فيكون مشروعاً“۔ (هداية: باب الرجعة، ج، ۲، ص، ۴۰۸، رحمانيه)

معتدہ کا موبائل فون کمپنی

(Mobile Phone Company) میں ملازمت کرنا

عورت بلا ضرورت شرعی گھر سے باہر نہیں جاسکتی خواہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی، البتہ فقہاء نے ایسی ضرورت کے لئے گھر سے نکلنے کی اجازت دی ہے جس میں اس کے جائے بغیر مسئلہ حل نہ ہوتا ہو مگر رات کو گھر واپس آنا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر معتدہ باپردہ ہو کر موبائل فون کمپنی (Mobile Phone Company) میں کام کرتی ہو تو دوران عدت اس کے لئے گھر سے نکلنا جائز ہے اگر خرچ کا انتظام نہ ہو۔^۱

۱۔ ”(وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولا يخرجان منه (الا أن تخرج، أو يتهدم المنزل أو تخاف) انه دامه، أو (تلف مالها، أو لا تجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات، فتخرج لأقرب موضوع اليه“۔ (الدر المختار مع رد المحتار: ج، ۵، ص، ۲۲۵، كتاب الطلاق / باب العدة، بيروت)

”واعتدة موت تخرج في الجديدين، وتبيت (أكثر الليل (في منزلها) وفي الشامية: وأما المتوفى عنها زوجها فلائنه لا نفقة لها فتحتاج الى الخروج نهاراً لطلب المعاش“۔ (رد المحتار: ج، ۵، ص، ۲۲۴، كتاب الطلاق، مَطْلَب: الْحَقُّ أَنَّ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَنْظُرَ فِي خُصُوصِ الْوَقَائِعِ، بيروت)

”واعتدة الموت تخرج يوماً وبعض الليل) لتكتسب لأجل قيام المعيشة لأنه لا نفقة لها حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها أن تخرج لزيارة ولا غيرها ليلاً أو نهاراً..... فقالوا لا تخرج المعتدة عن طلاق أو موت الا لضرورة لأن المطلقة تخرج للضرورة بحسبها ليلاً كان أو نهاراً، والمعتدة عن موت كذلك“۔ (البحر الرائق: ج، ۴، ص، ۲۵۸، ۲۵۹، كتاب الطلاق / فصل في الاحداد، بيروت)

معتدہ کا نیا موبائل فون کنٹریکٹ (Mobile Phone Contract)

خریدنے کے لئے باہر جانا

عدت کے دوران معتدہ نیا موبائل فون کنٹریکٹ (Mobile Phone Contract) خریدنے کے لئے باہر نہیں جاسکتی۔ اس لئے کہ یہ کام تو ٹیلی فون (Telephone) کے ذریعہ بھی ہو سکتا ہے نیز موبائل فون (Mobile Phone) کا کنٹریکٹ (Contract) خریدنا ایسی مجبوری بھی نہیں کہ جس کو نہ خریدنے سے نقصان ہوتا ہو۔^۱

معتدہ کا خراب موبائل فون (Mobile Phone)

ٹھیک کروانے کے لئے گھر سے باہر جانا

معتدہ خراب موبائل فون (Mobile Phone) کو ٹھیک کروانے کے لئے گھر سے باہر نہیں جاسکتی۔^۲

۱۔ ”ان كانت معتدة من نكاح صحيح وهي حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة والحالة حالة الاختيار فانها لا تخرج ليلاً ولا نهاراً أسواء كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً أو رجعيّاً كذا في البدائع“۔ (الفتاوى الهندية: ج، ۱، ص، ۵۵۹، كتاب الطلاق / باب الحداد، بيروت)

” (ولا تخرج معتدة رجعي وبائن) (لو حرة) (مكلفة من بيتها أصلاً) لا ليلاً ولا نهاراً“ (الدر المختار مع رد المحتار: ج، ۵، ص، ۲۲۳، ۲۲۴، كتاب الطلاق، باب العدة، بيروت)

۲۔ (المرجع السابق)

مَسْتِ

وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی اَعْلَمُ وَعِلْمُهُ اَتَمُّ وَاحْكُم

شبیر احمد عثمانی۔ مدرسہ حراء، شین کلف، ڈیویز بری، برطانیہ

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مؤرخہ ۲۷ ذوالحجہ ۱۴۳۱ھ بمطابق ۳ دسمبر ۲۰۱۰ء

بروز جمعہ ۳ بجے صبح کتاب ہذا کی تکمیل ہوئی۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ حَمْدًا کَثِیْرًا

جملہ حقوق محفوظ ہیں

- ☆ نام کتاب : موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق
- ☆ مصنف : شبیر احمد عثمانی
- ☆ باہتمام : حافظ فہیم الدین 92-321-4220554+
- ☆ سرورق : وسیم گرافکس 92-333-4165728+
- ☆ سن طباعت : اگست ۲۰۱۲ء رمضان المبارک ۱۴۳۳ھ
- ☆ صفحات : ۳۳۶
- ☆ ناشر : مدرسہ حرا، شین کلف، ڈیوزبری، برطانیہ



- مکتبہ احسن سرائے عالمگیر جہلم۔ فون: 03005450837
- کتب خانہ رشیدیہ: مدینہ کلا تھر راجہ بازار، راولپنڈی۔ فون: 0515771798
- انجیل پبلشنگ ہاؤس: فضل داد پلازہ، اقبال روڈ، کینٹی چوک، راولپنڈی۔ فون: 0515553248
- قرآن محل: اقبال روڈ، اقبال مارکیٹ، کینٹی چوک، راولپنڈی۔ فون: 03215123698
- ادارہ اسلامیات: ۱۹۰، انارکلی، لاہور۔ فون: 04237353255
- مکتبہ سید احمد شہید: 10۔ انکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 04237228272
- مکتبہ الحسن: اردو بازار، لاہور۔ فون: 04237241355
- الحسن ان پبلشرز: انکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: 04237122981
- مکتبہ سراجیہ: بالمقابل جامعہ مفتاح العلوم، چوک سیٹلائٹ ٹاؤن، سرگودھا۔ فون: 0483226559
- ادارہ اشاعت الخیر: شاہین مارکیٹ، بیرون بوہڑ گیٹ، ملتان۔ فون: 0614514929
- مکتبہ عرفان: سرائے عالمگیر۔ فون: 03465819989
- اقرا بک سٹورز: رسول پلازہ، چوک کوتوالی، فیصل آباد۔ فون: 03465819989

الفصل مارکیٹ ۱۴۔ اُردو بازار لاہور
Ph: 042-37232536, 0321-4220554
E-Mail: maktaba_qasmi@hotmail.com

مکتبہ قاسمی

حضرت مولانا مفتی خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظلہ

یہ مصنف کی قابل قدر کوشش ہے اور علماء، ارباب افتاء، محام و خواص سب کو لے کے یکساں قابل استفادہ ہے۔ میں اس اہم کام پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے اور ان سے مزید دین اور دہم دین کی خدمت لے۔

حضرت مولانا مفتی شفیق احمد صاحب قاسمی، بے ستوی مدظلہ

برطانیہ کے ایک بامصانیت اور حوصلہ مند عالم دین جناب مولانا شبیر احمد رحمانی (اللہ تعالیٰ ان سے دین و ملت کی خوب خوب خدمات لے) نے اپنے قیمتی ذوق و بصیرت کا استعمال کر کے موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق کے مسائل کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا اور اس موضوع کے وقوع پذیر اور امکانی سوالات کو یکجا کر کے اور فقہاء کی عبارتوں کی روشنی میں ان کے جوابات تحریر کر کے ایک اچھی کتاب تیار کر دی ہے۔

حضرت مولانا مفتی یوسف ساجد صاحب دامت برکاتہم

برادر عزیز مولانا شبیر احمد رحمانی صاحب مدخلی تالیف ”موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق“ کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ کتاب کو اپنے موضوع پر مفید پایا جو نوافل سلسلے مسائل کی تحقیق میں کافی محنت کی ہے اور حتی الامکان ہر مسئلہ کا حوالہ یا تطبیق پیش کر کے ہر بن کرنے کی کوشش کی ہے۔

حضرت مولانا عبدالرشید ربانی صاحب زید مجدہ

ایک انوکھے موضوع پر مفتی صاحب نے قلم اٹھا کر اہل علم کو دعوت تحقیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرما کر اپنے آپا مہمدا کے لئے صدقہ جاریہ بنائے آمین

حضرت مولانا علی صاحب دامت برکاتہم

علمائے دین نے اور مفتیان کرام نے بڑی عرق ریزی اور بڑی جاں فشانی سے اصول شرعی کی روشنی میں اس مسئلہ کا کافی اور شافی حل پیش کر کے امت پر ایک بڑا احسان فرمایا ہے (بجز رحمہم اللہ)۔ خیر البرائی الدارین۔ اس سلسلے کی ایک کڑی ہمارے جواں عمر عالم و فاضل حضرت مولانا مفتی رحمانی صاحب (رحمۃ فیہم) بھی ہیں انھوں نے اپنی خدا اور اصلاحیت کو بروئے کار لا کر بڑی جدوجہد اور عرق ریزی سے اس دقیق مسئلے کا حل اس کتاب کے شکل میں پیش فرمایا ہے

حضرت مولانا مرغوب احمد لاچھوری مدظلہ

ہمارے رفیق محترم مولانا شبیر احمد رحمانی صاحب مدظلہ اللہ تعالیٰ دوزا (جو ماشاء اللہ بااخلاق صاحب ذوق و علم دوست نو جوان عالم دین ہیں) نے ”موبائل فون کے ذریعہ نکاح و طلاق“ کے نام سے اپنے موضوع پر ایک کامیاب کتاب لکھی، باقی الحروف نے موصوف کے حکم پر اسے من و دیکھا، ماشاء اللہ، کتاب اپنے موضوع پر بہت کچھ مواد لئے ہوئے ہے، اور مصنف نے باوجود جدید بحث کے فقہاء کے قدیم مانعہ سے دلائل کی جستجو میں اپنی امکانی کوشش سے دریغ نہیں کیا۔

حضرت مولانا مفتی ریاض محمد صاحب زید مجدہ

میرے خیال میں موصوف نے اس موضوع پر ذوق کا نامہ سرا انجام دیا ہے۔ کتاب کے سب مسائل مستند اور مدلل ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو دنیا میں قبولیت اور آخرت میں موصوف کے لئے ذریعہ نجات بنائے آمین۔

MADRASSAH HIRA

2 William Street, WF13 4AY Staincliffe Dewsbury, U.K.

☎ (0044)1924 412315, ✉ madrassahhira@yahoo.co.uk